
قال الله تعالیٰ نسبا وصهرا وحسبا

وروی عن انس بن مالک عن النبی صلی الله علیه وسلم عن جبریل علیه السلام عن الله عزوجل قال
یقول الله عزوجل من اهان لی ولیا فقد بارزنی وانی لاغضب لاولیائی کما یغضب اللیث الحرود
ایضا اهل بیت الرسول علیه السلام مثل کمثل سفینة نوح من رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها هلک
الحمد لله الذی این کتاب نایاب جبر کنیاد گوهر نایاب التحقیق عمیق وتدقیق تام علاالکلام ابوزری ولسوزنی تعلم انجام



در اثبات نسب شریف صحیح النسبین کریم الطرفین غوث الثقلین وقطب الخافقین
غوث الاعظم وقطب الاکرم شیخ شیوخ عالم محبوب سبحانی والهیکل النورانی عارف حقانی
شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر الحسنی الحسینی الجیلانی العراقی البغدادی رضی الله عنه
تصنیف مسکین محمد مرید محی الدین الحسنی القادری الغفوری النوشهری البشاوری

واقع بمبئی در مطبع شهابی مطبوع گردید ۱۳۱۶ هجریه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذی ارسل رسوله الی الخلق بشیرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا واکرم المرسلین بکرامة ظهور المحمدیة اکراما بلیغا وفتح علیه فتحا جلیا وغفر ذنوب المذنبین بشفاعة حبیبه صلی الله علیه وسلم تسلیما کما قال جل ذکره لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک ویهدیک صراطا مستقیما وجعل الفاجرین والمنافقین حزینا کما قال عز بضره وینصرک الله نصرا عزیزا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الملک الجبار الاعلی ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله ناصرا منصورا صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه نجوم الاقتداء والاهتداء وبعد فیقول العبد المذنب المسکین الراجی الی رحمة رب العلمین ابو عبد الله **محمد مرید محی الدین** ابن حامل القرآن ملا محمد سلطان الحنفی القادری الغفوری النوشهری البشاوری عفا الله عنهما ولوالدی ولجمیع المؤمنین المسلمین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین وفی تفسیر الخازن من جلد الرابع تحت قوله تعالی ولکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر والمعنی انه تعالی عالم باحوال عباده وبطبائعهم وبعواقب امورهم فیقدر ارزاقهم علی وفق مصالحهم یدل علی ذلک ما روی انس بن مالک

عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل من اهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة واني لا
غضب لاوليائي كما يغضب الليث الحرد وما تقرب الي عبدي المؤمن بمثل اداء ما افترضت عليه وما
يزال عبدي المؤمن يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا ان دعاني
وان سألني اعطيته وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت واسائه
ولابد له منه وان من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فاكفه عنه ان لا يدخله عجب فيفسده ذلك وان
من عبادي المؤمنين الخ وفي مكتوبات امام رباني الشيخ احمد سرهندي رحمة الله تعالى قال اهل بيت الرسول
عليه السلام مثله كمثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها فقد نجا ومن خالف عنها هلك وقال بعض العارفين
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل اصحابه كالنجوم هم علامات يهتدون وشبه اهل بيته صلى الله عليه
بسفينة نوح عليه السلام اشارة الى ان راكب السفينة لابد له من رعاية النجوم ليامن من المهالك انتهى وفي التاريخ
سبعة عشر من شهر ربيع الآخر في ليلة الجمعة في سنة تسعة وثلاث مأته والف بقريب الصبح الكاذب في ساعة
ثلث بعد نصف الليل اني رأيت في المنام سيدنا الشيخ الاسلام مقتدى الاولياء الكرام علم الهدى الذي من
انتمى اليه كان من السعداء القطب الرباني والغوث الصمداني والهيكل النوراني الفرد الجامع الحقاني ذو الاصل
الطاهر والشرف الظاهر مولينا الشيخ محي الدين ابو محمد سيد عبد القادر رضي الله عنه وارضاه جاء وقام وفي يدين
المباركين الشريفين كتابان واحد صغير مثل ثمانية من اصابع اليد عرضه وبقدر شبر طوله وبقدر جزئين
ضخمه والثاني كتاب كبير عرضه قدر شبر واربع من اصابع اليد وطوله بمقدار شبرين وضخمه بقدر عشرين
اجزاء وقال لي سيدنا الشيخ رضي الله عنه خذ هذان كتابان والصغير من مناقب سيد احمد كبير الرفاعي رحمة الله
عليه والاكبر مناقبي انت تكتب وتطبع وهذا الرجل كمال مكار لا تعقل ولا يتعلم وانا صرت مسرورا بذلك وانا
ايقظ من المنام بقريب صبح الكاذب في ما بين هذا الرؤياء واح سبعة اشهر وانا ذهبت الى عند الشيخ الاسلام
مقتدى الانام ذي القدر والاحترام معظمنا ومكرمنا الشيخ السيد محمد صالح الحسني الحسيني الجيلاني البغدادي
رحمة الله عليه في شهر ذيقعده سنة مذكورة لقيت فجلست عنده وانا سألت من حال كمال الدين دمشقي
فقال لي انا ما اعرف بلده غيره وبلادي غيرها قلت وحكيت الرؤيا هكذا اني رأيت غوث الانام رضي الله عنه

في المنام قال لي مولينا السيد محمد صالح الحسني الحسيني عليه الرحمة فاين حلية الشريف انا بينت وحكيت عنده حلية الشريف ووجه الشريف احمر اللون مثل التفاح وربع القامة وعريض اللحية الابيض والاسود مخلوط و مقرون الحاجبين وعريض الصدر وعريض اللحي ويداه الكريمتاه ملائم مثل الابريسم والعمامة الاخضر على رأسه وذنب العمامة عند الاذن الايسر وجبته الابيض هكذا حلية الشريف بعد سماع كلامي قال لي مولينا الشيخ السيد محمد صالح عليه الرحمة اللهم بارك فيك وانصر عليك واكتب الرد على المخالفين المنكرين وبعد سعيت الى اخذ كتب من الصوفية الرفاعية الاول صحاح الاخبار طالع نفي جانب نسبه الشريف واثبت عدمه وقال والله اعلم والثاني كشف النقاب عبارته مثله والثالث روضة الناظرين وعبارته قال بعض الناس ينسب الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهذا تعصب فيهم وتجاسر عظيم نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وسعيت الى ما لا يطاق الى غاية التحقيق في هذا النسب الشريف واشتريت من كتب المتقدمين المجتهدين مثل الامام عبد الله اليافعي الشافعي اليمني خلاصة المفاخر ولواقح الانوار للقطب الشعراني رحمة الله عليه وزبدة الاسرار للشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي رحمه الله والعالم الكبير المؤرخ المحدث مولينا علي القاري رحمه الله الباري في نزهة الخاطر والشيخ محمد يحيي التادفي الحنبلي في قلائد الجواهر والشيخ علي الشطنوفي في بهجة الاسرار ومن واحد الى احد وستين كتب من المؤرخين ومن كتب الفقهاء والمحدثين ومن كتب مشائخ الكرام من النقشبندية والسهروردية والچشتية رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين ثبتت بشواهد العدول الثقات نسب الشريف حضرت الغوث الشيخ السيد عبد القادر الحسني الحسيني الجيلاني رضي الله عنه بالمقالية رتبت وصنفت هذا الكتاب وفيه ربع ابواب وسميته **بهجة البيضاء في رد اهل الطغى** المنسوب بمناقب الغوثية في دار الرفاعية الدمشقية في سنة عشرة وثلثمأة والف الباب الاول وفيه ستة عشر فصول الباب الاول في بيان نسب الشريف من جانب الاب فهو يتصل الى امير المومنين الامام سيدنا الحسن السبط رضي الله عنه بالتواتر وباجماع الامة فانظر يا اخي وانصف الفصل الاول في بيان نسبه الشريف من جانب الام فهو يتصل الى سيد الشهداء امام حسين رضي الله عنه الفصل الثاني في بيان فضائل امه الشريفه وعمته الكريمة الفصل الثالث في بيان قال الشيخ سيدنا رضي الله عنه كل ولي على قدم نبي وانا على قدم

جدي

جدی صلی الله علیه وآله وسلم وهذه الشعرة النسب الشریف الفصل الرابع فی بیان قال السید الشیخ رضی الله عنه والله هذا وجود جدی صلی الله علیه وسلم لا وجود عبد القادر ایضا بصحة نسب الشریف الفصل الخامس فی بیان قال سیدنا الشیخ رضی الله عنه رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الکرسی فقال لی یا بنی لم لا تتکلم الی اثبات نسب الشریف الفصل السادس فی بیان مصافحة ید النبی صلی الله علیه وسلم حین زاره قبره الشریف صلی الله علیه وسلم الفصل السابع فی بیان الشیخ القدوة ابو سعید القیلوی رحمة الله علیه یقول رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وغیره من الانبیاء صلوات الله علیهم اجمعین فی مجلس الشیخ السید عبد القادر رضی الله عنه الفصل الثامن فی بیان قال الشیخ السید رضی الله عنه رأیت فی المنام کانی فی حجر عائشة رضی الله عنها وانا ارضع ثدیها الایمن ثم اخرجت ثدیها الایسر فدخل رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا عائشة هذا ولدنا حقا ایضا باثبات نسب الشریف الفصل التاسع فی بیان حدیث لیلة المعراج قال رضی الله عنه لما شرفنا الله تعالی روحی فی لیلة المعراج برؤیة جدی صلی الله علیه وسلم الخ الفصل العاشر فی بیان لقائه النبی الکریم صلی الله علیه وسلم علی المنبر الشیخ رضی الله عنه الفصل الحادی عشر فی بیان الشیخ علی بن الهیتی قدس سره الخ الفصل الثانی عشر فی بیان الشیخ بقا بن بطو رحمه الله تعالی قال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مع اصحابه الکبار الاربعة رضی الله عنهم فی مجلس الشیخ السید عبد القادر رضی الله عنه الفصل الثالث عشر فی بیان قال سیدنا الشیخ رضی الله عنه رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ببغداد وانا علی الکرسی وهو راکب صلی الله علیه وسلم ومعه موسی علیه السلام الخ الفصل الرابع عشر فی بیان ابا عبد الله بن احمد البلخی رضی الله عنه قال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المنام الخ الفصل الخامس عشر فی بیان مدح الخضر علیه السلام الشیخ السید عبد القادر رضی الله عنه الخ الفصل السادس عشر فی بیان مدح السید احمد الکبیر الرفاعی رحمة الله علیه قال الشیخ السید عبد القادر بحر الشریعة عن یمینه وبحر الحقیقة عن یساره من ایهما شاء اغترف الشیخ السید عبد القادر لا ثانی له فی عصرنا انتهی

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین سیدنا محمد صلی الله علیه وعلی آله واصحابه اجمعین

وفی صحیح البخاری صفحة مطبوعه مجتبائی فی کتاب التعبیر باب من رأی النبی صلی الله علیه وسلم فی المنام حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن یونس عن الزهری قال حدثنی ابو سلمة ان ابا هریرة قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظة ولا یتمثل الشیطان بی انتهی

بعد از حمد نا محدود پروردگار و درود سید مختار خواجه سرور عالم صلی الله تعالی علیه و علی آله و اصحابه المکرم میگوید بنده گنه گار روزه وار امیدوار رحمت رب العالمین مسکین محمد مرید محی الدین الحنفی القادری الغفوری النوشهری من تلامید شیخ الاسلام والمسلمین زبدة العارفین المتمسک بحبل الله المتین مجدد الدین مولانا شیخ عبد الغفور غفره الشکور المعروف بحضرت آخوند صاحب صوات علیه الرحمة والتحیات التماس بجناب حضرات اهل اسلام آنکه سبب تصنیف این کتاب مستطاب مسمی بحجة البیضا فی رد اهل الطغی المنسوبة بمناقب الغوثیة فی رد الرفاعیة الدمشقیة همین بود که کمال الدین نام رفاعی از دمشق در بمبئی رسیده بود و در باطن انکار از نسب شریف حضرت غوث الثقلین رضی الله عنه داشت و ظاهرا دعوی میکرد و میگفت که مرتبه جناب سید احمد کبیر رحمة الله علیه اعلی و بهتر است از جمیع طرق خواه نقشبندی خواه چشتی خواه سهروردی و او نزد من درس میخواند کتب فارسی شبی دعوت مولود شریف داد و بخانه اش حاضر شدیم نام جناب محبوب سبحانی را آخر گرفت و در سلام بر خواندیم و در سلام مولود شریف اسم جناب سید احمد کبیر را همراه حضرت صلی الله علیه و سلم یکجا گرفت بعد از تمام دعا استفسار در مجلس عام از و شان کردم که در سلام مولود شریف خاص با نام حضرت صلی الله علیه و سلم خوانده میشود و دیگر صحابه رضی الله عنهم داخل نیست این همراه کردن جناب سید احمد کبیر رحمة الله علیه از کجاست بعد از آن گفت که جناب سید احمد رحمة الله افضل از همه اولیاء الله است تا که از حضرت امام حسن بصری رضی الله عنه مباحثه همراه آن کردم تا که نوبت بتحققات رسید از آنجا آمدم گفت مولوی صاحب برمن اعتراکرده است گفتم خوب نوشته بده بمهر خود که حضرت غوث الثقلین رضی الله عنه سادات اند و افضل و اکمل اولیاء الله اند و قدم ایشان را کل اولیاء الله کرام قبول کرده اند و وضع رقاب نموده اند نوشته نداد و صحبتش را و تدریس آن را ترک کردم تا که شب جمعه هفدهم ماه ربیع الثانی در بمبئی در مسجد تل بازار بخواب بودم در سنه ۱۳۰۹ه هزار و سه صد و نه بعد از نصف شب در خواب بجمال با کمال بلقای پرضیای حضرت شیخ الاسلام والمسلمین غوث الثقلین قطب الخافقین محبوب سبحانی غوث صمدانی عارف حقانی حضرت شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی الله عنه مشرف شدم دیدم که مرد بسیار نورانی پیوسته ابرو کشاده پیشانی و گندم گون مثل سیب سرخ و سفید و سیاه چشم و خوش چهره و دستار سبز بر سر ایشان و فش دستار جانب گوش چپ گذاشته اند و جبه سفید پوشیده اند و ایستاده اند بر پا استم و در دست مبارک ایشان دو کتاب است و دستهای مبارک ایشان بسیار ملایم مانند ابریشم دیدم و کتاب یکی کلان که بعرض یک بالشت و چهار انگشت و بدرازی مقدار دو بالشت و یکی خفیفی یعنی حجم

آن بقدر بیست جزو و کتاب مجرد بعرض هشت انگشت و بدرازی یک بالشت و حجم آن بقدر دو جزو فرمودند که بگیر این هر دو
کتاب را کتاب کلان مناقب من ست و کتاب مجرد مناقب سید احمد کبیر رفاعی ست رحمة الله علیه تو خواهی نوشت طبع خواهی
کرد و این مرد کمال نام مکار ست ازین غافل مباش و این را تعلیم نکن درین اثنا از خواب بیدار شدم ساعت را دیدم که چهار
بجه قریب صبح کاذب بود و خواب را نوشته ماندم و هفت ماه گذشت بعد از هفت ماه در آخر شوال رفتم بخدمت شریف جناب لاثانی
حضرت مولینا محمد صالح صاحب حسنی حسینی بغدادی رحمة الله علیه بملاقات کردم و مشرف شدم استفسار کردم از جناب ایشان که سید
کمال الدین رفاعی را می شناسید فرمودند نمی شناسم ولایت ما و شهر ما دیگر ست ولایت و شهر آن دیگر ست چند دفعات میرفتم روزی
در ماه ذیقعدة الحرام رفتم و جناب ایشان بر سفره نشسته بودند طعام تناول مینمودند خادم ایشان حاجی محمد ایستاده بود گفت
یا مولینا مولوی صاحب آمده فرمودند بطلب مولوی صاحب را رفتم و فرمودند دستها را بشوئید دستها را شستم و عرض کردم
که من بخواب جناب محبوب سبحانی را مشرف شده ام و مرا فرمودند که در نزد کمال نام نروید و درس نگوئید او شیطان بصورت
اولیاء الله میشود و جناب میفرمایند که من او را نمی شناسم تعجب ست بعد از سماع گفتار من فرمودند که چه طور ست حلیه یعنی چهره
شریف حضرت غوث رضی الله عنه عرض کردم که کشاده پیشانی و پیوست ابرو و گندم گون بر سر مبارک ایشان دستار سبز و
نقش دستار در نزد گوش چپ و جبه ایشان سفید و دستهای مبارک ایشان ملایم مانند ابریشم فرمودند که تکلم بعربی میگفتند یا بفارسی
یا بهندی عرض کردم که بعربی فصیح بعد از ان فرمودند که برکت دهد خدا تعالی شما را و نصرت دهد شما را و بنویس مدح ایشان بعد از ان
تجسس کردم چهار کتاب از کتب رفاعیه بدست من آمد یکی صحاح الاخبار که دران جانب نسب شریف را و الله اعلم گفته و عدم
دلایل آورده دوم کشف النقاب را مطالعه کردم سیوم غارت الابیه چهارم روضة الناظرین را دیدم دران نوشته که بعضی گفته اتصال
نسب شیخ عبد القادر بعلی مرتضی ست و ساعی شدم در نسب شریف ایشان تا که اثبات و صحت نسب شریف ایشان از دو صد و
یک کتاب شده چنانچه تحریر یافته است از کتب معتبرات مثل امام عبد الله یافعی و شیخ عبد الحق محدث الدهلوی و مولانا علی القاری و شیخ
محمد بن یحیی التادفی الحنبلی و صحیح بخاری و شیخ علی شطنوفی و سید مومن شبلنجی و طبقات امام شعرانی تحقیق کردید نامیده شد بحجة البیضاء فی رد
اهل الطغی المنسوب بمناقب الغوثیه فی رد الرفاعیه الدمشقیه نام نهادم و مرتب گشت بچهار باب باب اول در بیان نسب شریف حضرت غوث
الاعظم رضی الله عنه از دو صد و یک کتاب ثابت شده بتواتر و اجماع نسب شریف از جانب پدر که متصل ست بحضرت امیر المومنین سیدنا امام حسن
رضی الله عنه میرسد و شامل دو فصل ست درین فصل اول در بیان نسب شریف جانب مادر که بحضرت امیر المومنین سیدنا امام حسین رضی الله عنه

قال المؤلف فی صحاح الاخبار بمعنی اکذب الاخبار واما قول السید عمید الدین النجفی ان هذه الاسماء التی الحقها القاضی ابو صالح محمد بن یحیی لا اثر لها عند النسابین والقائلون بصحتها جماعة من الجهال المتمسکین بطریقة الشیخ عبد القادر وبعض ... من جماعة الصوفیة او من الفقهاء الذین لا وقوف لهم علی علم النسب **اقول الجواب** هذه الاقوال مردودة وغلط صریح ومخالف بکتاب الله وبسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم وباجماع الامة قال الله تبارک وتعالی ولکن المنافقین لا یفقهون. وعن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خصلتان لا یجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقه فی الدین رواه الترمذی وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد رواه الترمذی وابن ماجه انتهی کذا فی المشکوة وفی السنن الترمذی حدثنا ابو کریب یا حدثنا خلف بن ایوب عن عوف عن ابن سیرین عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خصلتان لا یجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقه فی الدین هذا حدیث صحیح وایضا فی السنن الترمذی حدثنا محمد بن اسمعیل خبرنا ابراهیم بن موسی اخبرنا الولید هو ابن مسلم اخبرنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد هذا حدیث غریب ولا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الولید بن مسلم انتهی وفی التفسیر المدارک التنزیل قوله تعالی ولکن المنافقین لا یفقهون ولکن عبد الله بن ابی واضرابه جاهلون لا یفقهون ذلک فیهذون بما یزین لهم الشیطان انتهی قال العلامة والحبر الفهامة الملا علی القاری رحمه الله الباری فی نزهة الخاطر الفاتر ان حضرة سیدنا الشیخ سید عبد القادر الکیلانی رضی الله تعالی عنه سید شریف الطرفین صحیح النسبین من الابوین للامامین الاحسنین الحسن

والحسين رضى الله تعالىٰ عنهما بحسب الابتداء الذى عليه مدارا لانتهاء متواتر صحيح ثابت ظاهر كظهور الشمس في رابعة النهار لا يقبل الحكمة والنزاع والتاويل والدفاع كما عليه الاجماع رغما للمبتدعة الرفضة اهل الزيغ والنفاق والشقاق حفظنا الله والمسلمين من كين الحاسدين الضالين المضلين الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله وهو ارحم الراحمين انتهى الخ وفى الفتاوى العالمگيرية من انكر المتواتر فقد كفر ومن انكر المشهور يكفر عند البعض وقال عيسى ابن ابان يضلل ولا يكفر هو الصحيح ومن انكر خبر الواحد لا يكفر جاحده انتهى وفى الفتاوى المعصومية المسمى بفتاوى اهل بخارا فى المحيط ويجب ان يعلم المتواتر والمشهور وماكان من خبر الاحاد لان المتواتر واجب العمل به قطعا يكفر جاحده المشهور واجب العمل به الا انه لا يكفر جاحده ولكن يخشى عليه المأثم انتهى وقال العالم الفاضل سيدنا عبد الغنى النابلسى فى الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية قوله تعالىٰ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال البيضاوى والاية تدل على حرمة الاجماع لانه تعالىٰ رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين انتهى وفى السنن الترمذى **حدثنا** ابوبكر بن نافع البصرى حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا سليمان المدينى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يجمع امتى او قال امة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ الى النار هذا حديث غريب من هذا الوجه وسليمان المدينى هو عندى سليمان بن سفيان وفى الباب عن ابن عباس **حدثنا** يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابراهيم بن ميمون عن ابن طاؤس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة هذا حديث صحيح انتهى

وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يجمع امتى او قال امة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ فى النار رواه الترمذى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فى النار رواه ابن ماجه من حديث انس كذا فى المشكوة وعن ابى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه رواه احمد وابو داود كذا فى المشكوة

ترجمہ یعنی معنی عبارت کتاب صحاح الاخبار مطبوعہ بمبئی صفحہ بیست

گفت مخالف کہ گفتہ است سید عمید الدین نجفی بدرستیکہ الحاق کردہ است یعنی نسب سیادت را قاضی ابو صالح ابن سید عبد الرزاق ابن حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ بہ محمد پسر یحیٰ و نیست دلیل در نسب سیادت ایشانرا در انساب وکسانیکہ قائل شدہ اند کہ نسب سیادت ایشان بصحت رسیدہ است جماعہ از جاہلان اند از طریقۂ شیخ عبد القادر و بعضے ابلہ یعنی نادان اند از جماعت صوفیہ یا از فقہا این ہا را وقوف نیست و ندارند در علم نسب **جواب** این است کہ گفتہ سید عمید الدین نجفی مردود است و غلط محض و جہل صریح است بدلیل آیہ کتاب خدا تعالیٰ یعنی قرآن شریف و بہ حدیث رسول علیہ السلام آیہ این است قولہ تعالیٰ ولکن المنفقین لا یفقہون کہ منافقان نمید انند و نمی فہمند و وصف کردہ است خدا تعالیٰ فقہا را قولہ تعالیٰ ومن یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وقال تعالیٰ لیتفقہوا فی الدین و در حدیث صحیح بخاری شریف وار دست در تیسیر القاری شرح البخاری وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین فرمود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کہ میخواہد خدا بوی نکوئی را پس بفہم میگرداند او را در امور دین حق انتہیٰ و در حدیث سنن الترمذی است کہ فرمود است پیغمبر علیہ السلام در حق فقہا کہ یک فقیہ سخت تر است بر شیطان از ہزار عابد حدیث تحریر یافتہ حاجت تکرار نیست و عالم علامہ و حبر فہامہ المحدث المکی مولانا علی القاری رحمہ اللہ الباری در کتاب نزہۃ الخاطر گفتہ است کہ شک و شبہ نیست در نسب شریف غوث الاعظم قطب الاکرم محبوب السبحانی غوث الصمدانی الشیخ السید عبد القادر الحسنی الحسینی البغدادی الجیلانی رضی اللہ عنہ سیادت ایشان صحیح و ثابت و متحقق است مثل آفتاب نصف النہار و بحد تواتر رسیدہ است نسب شریف و اجماع شدہ است برین کہ محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ سید اند و از نسل و صلب سادات اند از جانب پدر از اولاد امیر المؤمنین سیدنا امام حسن مجتبیٰ اند و از جانب مادر از اولاد امیر المؤمنین سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہما و انکار کسی نکردہ است مگر مبتدع رافضی کہ در دل حسد و نفاق و بغض دارد و گمراہ است

فی المبسوط السرخسی قال من اشتری الاجوز [illegible] وافضل العلوم علم الدین ابدا معرفۃ اصل الدین والیقین معرفۃ الفقہ والفاصل بین الحلال والحرام وقد سمی اللہ تعالیٰ ذلک خیرا کثیرا فقال اللہ تعالیٰ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا ویفسر اکثر اھل التفسیر الحکمۃ الفقہ وقال علیہ السلام ما عبد اللہ بشیء افضل من الفقہ والفقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد انتہیٰ وعن ابی ھریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا یجتمعان

۱۲

جہنم مین اور بڑی ہین وہ امی بہائی صاحبون تم اس تفرق ڈالنے سے بچو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہین فانه لیس احد یفارق الجماعة شبرًا فیموتُ الامات میتة جاهلیة یہہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم مین ہے اور مصداق اس حدیث کی ہو واتّبعوا السّواد الأعظم فإنّه مَن شذّ شُذّ فی النّار یہہ روایت مشکوة مین ابن ماجه وغیرہ سے نقل کی ہے اور نسب شریف اور سیادت حضرت محبوب سبحانی قندیل نورانی غوث صمدانی حضرت شیخ سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ کا ایکسو پچاس کتاب سے ثابت ہے اور عبارت ہر ایک کتاب کی اور نام کتاب کا و مصنف کا اور صفت مصنف کی تحریر کی ہے باب اوّل اسی کتاب مین تحقیق سب تحریر ہے اور عبارتین درج ہین نظر انصاف سے دیکھو اور گمراہی سے بچو اور پہلا باب اور سب باب اس کتاب کے و فصول تین زبانین تحریر ہین اوّل عربی دویم فارسی سیوم ہندی مقصد و مطلب واحد ہے

الباب الاوّل فی بیان النسب محبوب السبحانی والقطب الربانی والغوث الصمدانی والقندیل النورانی الغوث الاعظم والقطب الاکرم شیخ شیوخ العالم سید السادات

شیخ الاسلام والمسلمین الشیخ محی الدین السید عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنه صحیح النسب کریم الحسب بروایات المتعددات المتواترات من الثقات العلماء الکاملین العاملین المتورعین المورخین صاحب المحاسن والتصانیف کما بیّنه نبتت بشواهد لعدول والثقات من المعتبرات کما ورد فی کتب المعتبرات فانظر یا اخی وقول اهل الزیغ والنفاق والشقاق بعید من الانصاف والاسلام بل هو منکر خارج عن جمهور اهل الاسلام الاوّل قال امام العلامة شیخ الاسلام

لاقامة الدلیل علی هذا النسب الشریف الواضح البرهان الثابت البنیان المشهور ذلک مکانه کما قال الشاعر ولا یصح فی الافهام شیئ اذا احتاج النهار الی دلیل انتهی صفحہ ۸ مطبوعہ الاسلام پریس

وقال الامام عبد اللہ الیافعی الشافعی الیمنی رحمة اللہ علیه فی کتابه روض الریاحین وحکایات الشیخ الاسلام استاد الاکابر الامام الجامع بین العلم الظاهر والباطن العلیم النقیب القامع النبوی الفاخر والشریف الحسیب الغوث الجلیل عبد القادر الجیلانی السید الجلیل قدس اللہ روحه ونور ضریحه انتهی صفحہ ۲۵۲

زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن ابن الامام شهاب الدين احمد بن رجب
الحنبلي البغدادي ثم الدمشقي في طبقاته التي الفها في اصحاب الامام
احمد حنبل رضى الله عنه عند ذكر ترجمة حضرت مولنا وسيدنا سيد
الاولياء وامام الاصفياء السيد ابو محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني
الحسني رضى الله عنه هو سيد عبد القادر بن سيد ابي صالح
موسى جنگى دوست ابن السيد عبد الله الجيلي ثم البغدادي الزاهد
شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ وسيد اهل الطريقة
في وقته محي الدين ابو محمد صاحب المقامات والكرامات والمعارف
والاحوال المشهورة ويتصل نسبه الى علي بن ابي طالب رضى الله عنه
فيزيد بعد عبد الله بن السيد يحيى الزاهد بن السيد محمد بن
السيد داود بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد موسى
الجون بن السيد عبد الله المحض بن السيد الحسن المثنى بن امير المؤمنين
سيدنا امام حسن بن امير المومنين سيدنا علي بن ابيطالب رضي الله
عنهم ولد سنة سبعين واربعماء تراو سنة احدى وسبعين
بگيلان انتهى الثاني قال الفقيه النبيه العلامة الامام الاكمل
ابوعبد الله السيد حسن بن عبد الرحمن الاهدل الحسيني اليمني الشافعي
في تاريخه المختصر الفه سنة (٨٢٦) عند ذكر حوادث سنة (٥٦١) مانصه
وفيها توفي قطب الاولياء محي الدين السيد عبد القادر ابن السيد ابي صالح
موسى ابن السيد عبد الله ابن السيد يحيى الزاهد ابن السيد محمد ابن السيد
داود بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد موسى الجون بن السيد
عبد الله المحض بن السيد الحسن المثنى بن سيدنا الامام الحسن بن سيدنا

علی بن ابیطالب قدس الله روحه وارواحهم نسبه الی جیل وهی بلاد متفرقة
من وراء طبرستان وبها ولد ویقال لها جیلان وگیلان وهو سبط ... ابی
عبد الله الصومعی الزاهد الحسینی من اجلة مشائخ جیلان له احوال
باهرة انتهی **الثالث** قال الامام القدوة الزاهد الورع العارف بالله تعالی
عفیف الدین ابو محمد بن اسعد بن سلیمان الیافعی فی تاریخه مرآة الجنان
قطب الاولیاء الکرام شیخ الاسلام رکن الشریعة وعلم الحقیقة وواضح
اسرار الحقیقة حامل رایة علماء المعارف والمفاخر شیخ الشیوخ وقدوة
الاولیاء العارفین الاکابر استاذ الوجود ابو محمد السید محیی الدین عبد القادر
بن السید ابی صالح موسی جنگی دوست الجیلی الحسنی الشریف قدس
سره ونور ضریحه انتهی **الرابع** قال خاتمة الحفاظ والمحدثین وارث
علوم السلف الصالحین الامام عبد الرؤف المناوی قدس سره فی طبقاته
الکبری المسماة بالکواکب الدریه فی تراجم سادة الصوفیه ما نصه السید
عبد القادر بن السید موسی بن السید عبد الله بن السید یحیی الزاهد
الجیلانی الحنبلی من ذریة الامام سیدنا الحسن السبط رضی الله عنه
طار ذکره فی الآفاق واجمع علی امامته اهل الخلاف والوفاق انتهی
الخامس قال الشیخ المحقق المدقق ابو عبد الله محمد بن
احمد المسناوی الدلائی البکری الصدیقی الناصی المغربی قدس سره
فی کتابه نتیجة التحقیق فی بعض اهل الشرف الوثیق ذکر بعض الحفاظ
الثقات انه کان سیدنا السید الشریف شیخ المسلمین والاسلام ابی
صالح محی الدین السید عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی الصدیقی
البغدادی رضی الله عنه انتهی **السادس** قال الحافظ ابو سعید

عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني فی تاريخه ابو محمد السيد عبد القادر من اهل جيلان امام الحنابلة وشيخهم فی عصره فقيه صالح دين خير كثير الذكر دائم الفكر سريع الدمعة كتبت عنه انتهى **السابع قال محب الدين محمد** بن النجار فی تاريخه السيد عبد القادر بن السيد ابي صالح جنكادوست الزاهد من اهل جيلان احد ائمة المسلمين العاملين بعلمهم صاحب الكرامات الظاهرة ذكر انه دخل بغداد فی سنة ثمان وثمانين واربعمائة وله ثمان عشرة سنة فقرا الفقه واحكام الاصول والفروع والخلاف وسمع الحديث واشتغل بالوعظ الى ان برز فيه ثم لازم الانقطاع والخلوة والرياضة والسياحة والمشاهدة الشديدة وتحمل الاحوال المشقة والدخول فی الامور الصعبة من مخالفة النفس وملازمة السهر والجوع والمقام فی الخراب والصحاري وصحب الشيخ حماد الدباس الزاهد واخذ عنه علم الطريقة ثم ان الله اظهره للخلق واوقع له القبول العظيم عند الخاص والعام انتهى **الثامن قال العلامة** محمد بن شاكر بن احمد الكتبي المتوفی (٧٦٤) فی الجزء الثانی من تاريخه فوات الوفيات ذيل تاريخ ابن خلكان ما نصه السيد عبد القادر الجيلاني ابن ابي صالح موسى جنگی دوست ينتهی نسبه الى الحسن بن علي رضی الله عنهما الشيخ ابو محمد الجيلی الحنبلی المشهور الزاهد صاحب المقامات والكرامات شيخ الحنابلة رضی الله عنهما انتهى **التاسع قال الاستاذ الامام العلامة** زين الدين بن عمر بن الوردی (نسخہ الوردی) فی الجزء الثاني من تاريخه عند ذكر حوادث سنة (٥٦١) ما نصه وفيها فی ربيع الآخر توفی الشيخ السيد عبد القادر بن ابي صالح موسى الجيلی ببغداد ومولده سنة سبعين اربعمائة وهو حنبلی المذهب قلت هو الشيخ محي الدين ابو محمد السيد عبد القادر بن ابي صالح موسى جنگی دوست بن ابي عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون

فی الشباب زف ثم شرح البيضاوی تفسير علم اليقين بكمال قاضی خان عند الله والتذييل ثم شرح مختصر الاصول وهو من تصانيف ابن الحاجب اذا كثرت الاجارة فی الوقائع واختلف فيهما كل واحد منهما مشتمل على معنى متنوت بينهما بحكم التضمن والالتزام حصل العلم بالقصد الاشتراك

بن عبد الله المحض المجل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن ابيطالب رضي الله
عنهم سبط السيد ابي عبد الله الصومعي الزاهد ينسب الى جيل انتهى
العاشر قال العلامة والحبر الفهامة الحافظ زين الدين بن رجب في طبقاته السيد
عبد القادر بن السيد ابي صالح عبد الله جنكي دوست بن ابي عبد الله الجيلي
ثم البغدادي الزاهد شيخ العصر وعلامة الصلحين وقدوة العارفين وسلطان
المشايخ وسيد اهل الطريقة محي الدين ابو محمد الى ان قال في اثناء ترجمته ظهر للناس
وحصل له القبول التام وانتصر اهل السنة الشريفة بظهوره وانخذل اهل البدع
والاهواء واشتهرت احواله واقواله وكراماته ومكاشفاته وجاءته الفتوى من سائر
الاقطار والبلاد وهابه الخلفاء والوزراء والملوك فمن دونهم انتهى كلامه ملخصا
الحادي عشر قال القطب الرباني والهيكل الصمداني العارف بالله سيدي
عبد الوهاب الشعراني في طبقات الكبرى المسماة بلواقح الانوار في طبقات الاخيار
ومنهم ابو صالح سيدي عبد القادر الجيلي رضي الله عنه وهو ابن موسى بن
عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون
بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن ابن علي بن ابيطالب رضي الله
عنهم اجمعين ولد رضي الله عنه سنة سبعين واربعمائة وتوفي سنة احدى
وستين وخمسمائة ودفن ببغداد رضي الله عنه انتهى **الثاني عشر** قال
العلامة الامام عفيف الدين عبد الله بن اسعد اليافعي اليمني الشافعي تغمده الله
تعالى برحمته في روض الرياحين في حكايات الصلحين وحكى ان الشيخ الامام
استاذ الاكابر الجامع بين العلم الباطن والظاهر الحسيب النسيب الشريف
النبوي الفاخر السيد الجليل عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه ونور
ضريحه طلب من بعض الناس وديعة كانت عنده لبعض الغائبين فامتنع

ويسمى التواتر من جهة المعنى وذلك كما نقل عن حاتم في اعطاء عطاياه من ابل وفرس وعين وثياب فانه يتضمن وجوده فيعلم وان لم يعلم شيء من تلك القضايا بخصوصها كما نقل عن علي رضي الله عنه انه قتل من الناس في غزوة خيبر كذا وفعل فيها كذا الى غير ذلك فانه يدل بالالتزام على شجاعته رضي الله عنه

من تسليمها اليه وقال له لو استفيتك مثل هذا ما افتيتني بتسليمها الى غير صاحبها فلما كان بعد ذلك بزمن يسير جاء كتاب صاحبها الى المودع المذكور وهو يقول سلم الوديعة الى الشيخ السيد عبد القادر فقد صارت للفقراء فسلمها اليه فعتب عليه الشيخ وقال تتهمني في مثل هذا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به قلت واليه ينسب اكثر شيوخ اليمن ومنهم من ينتسب الى الشيخ الكبير العارف الشهير ابي مدين قدس الله روحه ونور ضريحه هذا شيخ المغرب والاول شيخ المشرق اعني الشيخ السيد عبد القادر وهو القائل رضي الله تعالى عنه

او في الزمان مكانة مخصوصة	الا ومنزلتي اعز واقرب
وهبت رونق الايام وصفوها	نصفت مناهلها وطاب المشرب
انا من رجال لا يخاف جليسهم	ريب الزمان ولا يرى ما يرهب
قوم لهم في كل مجد رتبة	علوية وبكل جيش موكب
انا بلبل الافراح املأ دوحها	طربا وفي العلياء باز اشهب

رضي الله عنه ونفعنا به امين انتهى الثالث عشر قال العالم العلامة عز الدين احمد الفاروثي في كتابه النفحة المسكية الرفاعيه بما نصه ان بعض الصوفية ذكر نسبه السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني حرصا عليه كيلا يطعن في نسبه من لا علم له لما اشتهر عنه من العجم ولما قيل من كونه بشتيري والاصل الصحيح انما هو رجل فاطمي لا ريب فيه في نسبته الى الجد الاعظم صلى الله عليه وسلم سكن اجداده فارس الى زمن قدس سره رضي الله عنه وهذا ما يجب علينا اعتقاده فان الاولياء اعلم منا بالادب الديني والوجه الشرعي ولو لم تكن نسبته ثابتة الوصول ما ادعاها قط انتهى الرابع قال الشيخ تقي الدين الواسطي رحمة الله عليه في كتابه البهجة الرفاعية الكبرى ما نصه ان الغوثية وهي الرياسة المطلقة

في الاولياء لاتكون في كل العصر الا الواحد من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المقام المعروف بالقطبية وقد ذكرت عن الشيخ عبد القادر الحسني رضي الله تعالى عنه انتهى **الخامس عشر قال ابن ربيعة** الاشرفي في الروضة وقد انتقم الله من وزير الامام الناصر المعروف بابن يونس لظالم لحسده وحقده وبغضه وتعديه وسوء نيته وقبح طويته لاولاد سلطان الاولياء وبرهان الاصفيا مجدد شريعته جده البشير النذير مولانا وسيدنا شيخ الاسلام ابي محمد السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني ابن ابي صالح موسى جنگي دوست ابن عبد الله ابن يحي الزاهد الحسني البغدادي رضي الله عنه وعنهم اجمعين عند موته صار يخرج الغائط من فيه وتخرق جميع جسده وسأل منه القيح وخرج منه الدود وانتنت رايحته وكراهته اهله وندم على ما فعل يوم لاينفع الندم ومات على سوء حال حمانا الله واياكم من التعدى والظلم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واوليائه ثم ان الخليفة في الحال اعادهم الى بغداد والى اماكنهم واعتذر لهم واكرمهم واعزهم واحترمهم وعظمهم وقلد بعضهم المناصب العالية وعول عليهم وقربهم لديه وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون انتهى **السادس عشر قال ابن العماد الحنبلي** في شذرات الذهب ان كراماته قدس سره نقلت تواترا بخلاف كرامات غيره من الاولياء فانها نقلت احادا وفي هذا القدر مايكفي في التنبه على جلالة قدره قدس سره واما الدليل فلا يحتاج اليه وليس يصح في الاعيان شئ اذا احتاج النهار الى دليل على ان الامر غني عن التنبيه ايضا كما لا يخفى ثم رفع نسبه الى الامام الحسن رضي الله عنه بهذا الوجه فقال حضرت الشيخ السيد عبد القادر ابن موسى ابي صالح ابن عبد الله بن يحي الزاهد بن محمد بن داود بن موسى الثاني بن عبد الله الصالح بن موسى الجون

ومنها ان تتواتر الاحاديث الواردة في باب القضاء والقدر ويكون الكائنات بتقدير الله تعالى ومشيئته وان كانت احاد الآثار متواترة المعنى كشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم ... وفي النهاية قال ... خير الناس من ينفع الناس ومنها ان ... امتثال امر الله ...

بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت سيد الاولين والآخرين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين انتهى السابع عشر قال العلامة الآلوسي المتقدم الذكر رحمه الله تعالى في كتابه طراز المذاهب شرح قصيدة الباز الاشهب للمرحوم الاديب ومن له في البلاغة والفصاحة الكعب العجيب عبد الباقي افندي العمري عند قوله كم خواف من حضرة الباز لاحت حين وافى ولا فواد اجدل وبعد ان اتى بما يلزم من شرح الخوافي والحضرة والباز واراد بالباز حضرت مولانا الغوث الصمداني والهيكل الرباني الشيخ السيد عبد القادر الكيلاني قدس سره وقدس نابره وهو على ما شذراة الذهب ابن ابي صالح جنگي دوست بن ابي عبد الله عبد الله بن يحيى بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي كرم الله تعالى وجهه وهو سبط سيد عبد الله الصومعي انتهى الثامن عشر قال العارف الجليل والعلم الطويل ولي الله الشهير صاحب المقام القدسي الشيخ عبد الغني النابلسي النقشبندي القادري طريقة قدس الله سره العزيز يمدح هذا الامام الجليل الغوث الاعظم النبيل باز الله الاشهب والسيف الاشطب سلطان الاولياء والصالحين مولانا وقدوتنا ومفزعنا ابا صالح السيد محيي الدين عبد القادر الحسني الحسيني الجيلاني الحنبلي رضي الله عنه بهذه القصيدة الغراء وهي

ظهرت شموس طوالع العرفان	بالشيخ عبد القادر الكيلاني
قطب الوجود بحر كل حقيقة	محفوظة بقواطع البرهان
هو بلبل الأفراح طبق كلامه	يشدو برونق بهجة الاحسان
وانت له عن اذن خالق العلا	فبداء بعز تحكم السلطان

ثم شمسها ... بالإضطرار انتهى فانتجا الله بفضله وأكملتم وبالشهادة ودين الإسلام عليه يقينا امتثال ما أمر الله تعالى به انتهى ما رضي الله عنه وصمنا استجاب الإكرام الثابت فيما بين العباد والأعظام القادر بين أهل البلاد

وله المعارف والعلوم بربه ... عن كشف حق عنده وبيان
والاولياء جميعهم في عصره ... خضعوا لمظهر فضله الانساني
وطريقه يهدى الى اوج التقى ... من سنة المختار والقرآن
ما بين اخلاص وتوحيد كما ... شهدت بذاك ائمة العرفان
هو حنبلي زائد الورع الذى ... يعلو به في اهل كل زمان
يا جوهر الشرف المزيل بنوره ... ظلمات اهل الغي والطغيان
انت الذى قد اسست لك نسبة ... في آل بيت المصطفى العدناني
ولقد سموت بها وبالفضل الذى ... قد نلته من ربك الرحمن
واتابك الدنيا الملك وارتقت ... بك دارك الاخرى الى رضوان
فجمعت في الدارين كل فضيلة ... كملت فليس لتلك من نقصان
واليك من كل الجوانب اقبلت ... همم الرجال تروم رفعة شان
فتصرفت فيهم يمينك بالذى ... شارته عن اذن من الديان
والامر امر الله فيما قلته ... والخلق في ذل به وهوان
وبيد الخلافة لا تقاومها يد ... في كل عصر ينقضي واوان
والله يفعل ما يشاء بكل من ... يغويه او يهديه للايمان
لا فاعل ابدا سواه وانما ... هو واضع الاسباب كالميزان
من شاء انقصه بقاعدة لا ومن ... قد شاء فضله كان في رجحان
جل المهيمن ربنا الحق الذى ... هو لا يزال وكل شيء فان
وقد اصطفى من خلقه بشرا ومن ... بشر جميع الانبياء دوان
بالفضل فازوا ثم فاز الاولياء ... من بعدهم بمراتب الايقان
والاولون تفاوتت درجاتهم ... فسقوا من التخصيص خمرة حان

حتى اتى فى كل عصر واحد ❊ منهم وليس له هنالك ثان
يعنو له اهل الزمان خلافة ❊ نبوية فى جملة الاعيان
واليه تنقاد القلوب وتنزوى ❊ عن شدة منهم له وليان
والله يحكم لامرد لحكمه ❊ بالمحو والاثبات فى الاكوان
هذا وعبد القادر القطب امرؤ ❊ قد كان فى هذا المقام الدانى
فرد من الافراد صرح بالذى ❊ هو فيه لاوان ولامتوان
اذ قال ماذونا له قدمى على ❊ رقبات كل الاولياء يعانى
وله تطأطأت الرؤس سوى ولى ❊ من أصفهان فزاغ كالشيطان
هو عبد رب قادر جمع التقى ❊ والصدق فى الدنيا ونيل أمان
لازال رضوان الاله يخصه ❊ ويعمه بالجود والاحسان
ماراق من عبد الغنى مديحه ❊ لمحبه وتعاقب الملوان

التاسع عشر قال العالم العلامة والامام الغطريف الفهامة السيد جعفر ابن السيد حسن ابن السيد عبد الكريم البرزنجي المدنى مفتى الشافعية بالمدينة المنورة صاحب مولد النبوى المنظوم والمنثور المشهور قدس سره فى الجنى الدانى فى ذكر نبذة من مناقب القطب الربانى السيد الشيخ عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه فاقول هو الشيخ الكامل ، والجهبذ الواصل خزينة المعارف ، ومرجع كل قطب وعارف ، ذو المقامات العالية ، والقدم الراسخة ، والتمكن التام والاحوال المنيفة الشامخة غوث الثقلين علم الشرق ابو صالح السيد محى الدين عبد القادر ابن السيد ابى صالح موسى ابن السيد عبد الله ابن السيد يحيى الزاهد ابن السيد محمد ابن السيد داؤد ابن السيد موسى ابن السيد عبد الله ابن السيد موسى الجون ابن

السيد عبد الله المحض ابن السيد الحسن المثنى ابن السيد الامام الحسن السبط ابن سيدنا الامام الهمام امير المؤمنين علي بن ابي طالب ابن فاطمة الزهرا البتول بنت سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ؛

نَسَبٌ كان عليه من شمس الضحى	نورًا من فلق الصباح عمودًا
نَسَبٌ له في وجه آدم لمعةٌ	سجدت ملائكة السماء سجودًا
نَسَبٌ كتابُ الله اوفى حجةٍ	في مدحه مَن ذا يرومُ جحودًا
اللهم انشر نفحات الرضوان عليه	وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه

العشرون قال مولانا العلامة الشيخ محمد يحي التادفي الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه قلائد الجواهر في مناقب الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه هو سيدنا شيخ الاسلام مقتدى الاولياء العظام ؛ علم الهدى ؛ الذي من انتمى ؛ اليه كان من السعداء ؛ القطب الرباني ؛ والفرد الجامع الصمداني ؛ والاصل الطاهر ؛ محي الدين ابو محمد عبد القادر ؛ بن ابي صالح جنگي دوست وقيل جنكا دوست السيد موسى ابن السيد ابي عبد الله ابن السيد يحي الزاهد بن السيد محمد بن السيد داود بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض يبعث بالمجلى اخذه من الاجلال ابن السيد الحسن المثنى ابن امير المومنين ابي محمد الحسن بن امير المؤمنين علي رضي الله عنه ابن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوئي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركة بن الياس بن مضر بن معد بن عدنان القرشي الهاشمي العلوي الحسني الجيلي الحنبلي سبط سيدنا عبد الله الصومعي الزاهد المذكور كان من جملة مشايخ جيلان

ورؤساء زهادهم له الاحوال السنيه والكرامات الجليه انتهى الخ الحادی والعشرون
قال العالم الجليل والفاضل النبيل الجهبذة العلامة الشيخ سيدی محمد الامين
بن احمد التونسي المالكي فی كتابه رياض البساتين فی اخبار سيدي عبد القادر
الجيلي محي الدين قال الشمسی فی نظم الدرر والعقيان ثم ان الله تعالی جعل
البركة فی عقبه فملك منهم ثلاثة طوايف بنوا الاخضر ملوك اليمامة وهم
من ولد ابراهيم بن موسی الجون المذكور بنو عزيز والهواشم ملوك مكة
المشرفة قال المساوي وكتب الشيخ القصار علی كلام الشمسی ما نصه والبركة
الكاملة والنعمة الشاملة سيدی عبد القادر الجيلانی صاحب الملك الحقيقی
والخلافة القطبانية وكم فی ذريّة سيدنا عبد القادر من الاخيار وعبد الله
والد موسی الجون يلقب بالكامل وبالمجلّ اسم مفعول من الاجلال وبالمحض
والمحض عندهم الرجل يكون من ابن عم وابنة عم قاله مصعب الزبيری ودعی به
عبد الله لان امه ابنة عم ابيه وهی فاطمة بنت الحسين رضی الله عنه عنهما
كما انها ام اخويه الحسن المثلث وابراهيم القمر وهم اول من اجتمع له ولادة الحسن
والحسين رضی الله عنهما وقد روی الامام مالك امام دار الهجرة رضی الله عنه
عن عبد الله المحض المذكور وقد سئل عن السدل فقال رأيت من يقتدي
بفعله عبد الله بن الحسن يفعله والمثنی المذكور وصف للحسن بن الحسن
رضی الله عنهما القب لقبه به النسابون لقصد التميز ولم يكن يوصف به فی حياته
وكذلك المثلث المذكور وصف لولده قاله فی بحر الانساب قلت وقد نظمت
اسماء هؤلاء السادات متوسلا بهم لصاحب المعجزات شاكيا اليه جور من بغی
علی وطغی فقلت وعلی الله القبول وبيده القوة والحول نظم

لقد خانني دهري واخلف وعده		وصار مدی الايام يضرم وقده	

ومالي اصطبار بل دلالي ناصر | يعين على ضعفي ويبذل جهده
سوى عمدتي يوم اللقا محمد | شفيع الورى منجي الله رشده
هو المجتبى المختار من آل هاشم | ورب الورى بالمعجزات امده
فيا راقي السبع الطباق ومن حوى | من الفضل ما لم تبلغ الرسل حده
اغثني بعبد القادر الجيلي الذي | اذاع اله العرش في الخلق مجده
هو القطب محيي الدين من حاز نعمة | على شرف الجوزا في الفضل وحده
هنيا لموسى حين جاء بسيد | سليل كرام نور الله قصده
ووالده عبد الاله الذي حوى | من الفخر ما لم تحصر الخلق عده
ويحيى ابوه الزاهد الفاضل التقي | هو الطود لا ترقى الافاضل زهده
وولده الاسمى محمد ذو العلى | جليل حوى كل المكارم عنده
ووالده داود ذو المجد والتقى | ابان طريقا لموسى وامده
ووالده عبد الاله الذي اذا | اتاه بجير حاز في الحين رفده
وكذلك موسى الجون والده الذي | له كرم ما نالت الناس مده
ووالده عبد الاله الذي اذا | وعوه اليه لبى نادبه وحده
ولقب بالمحض الجلي لفضله | وذلك فخر قد قضى لله خلده
فكم بات محتاجا ولم يشك ضره | وكم بات عطشانا ولم ينس ورده
كذا الحسن المثنى ابوه لقد سما | بمجد اثيل ما حوى الناس حده
ووالده سبط الرسول محمد | هو الحسن الداعي الى الخير جنده
لقد حاد عن ملك ولا مال نحوه | وسلمه طوعا ولم يشك فقده
ووالده سيف الرسول وصهره | علي الذي قد انجز الله وعده
هو الاسد الضرغام والصارم الذي | ابى ان يرى غير التهامي غمده

نخبة للعلى

وقايعهم

وقائعه في يوم بدر شهيرة	وفي خيبر قد مد ذا العرش وفده
هم آل بيت المصطفى و بحبهم	وعدنا بامن في المقام وبعده
بجاهم نكل بمن قد اضرنا	ومزق له الاعضاء واسلبه عهده
وعامل عبيد ضره الظلم و لا نسي	واصلحه وقتا وبلغه قصده
فانت وكيلي يا وكيل عليهم	وغيرك مولانا الذالن نعده
وصل صلاة تملاء الارض والسماء	على المصطفى من طهر الله برده

الثاني والعشرون قال العالم العلامة والحبر الفهامة الشيخ نور الدين ابي الحسن علي بن يوسف بن جرير اللخمي الشطنوفي نفعنا الله بهما في كتابه بهجة الاسرار ومعدن الانوار اخبرنا الفقيه العالم ابو المعالي احمد بن الشيخ المحقق ابي الحسن علي بن احمد بن عبد الرزاق بن عيسى الهلالي البغدادي قال اخبرنا قاضي القضاة السيد ابو نصر قال اخبرنا والدی السيد عبد الرزاق قال سئلت والدي الشيخ السيد محي الدين عن نسبه قال السيد عبد القادر ابن السيد ابي صالح موسى جنگی دوست بن السيد ابي عبد الله بن السيد يحي الزاهد بن السيد محمد بن السيد داؤد بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض ويلقب ايضا بالمجل بن السيد الحسن المثنى بن سيدنا امير المؤمنين حسن بن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنهم سبط السيد ابي عبد الله الصومعي الزاهد وبه كان يعرف حيث كان بجيلان نسئل عن مولده فقال لا اعلم حقيقة لكني قدمت بغداد في السنة التي مات فيها التيمي وعمري اذ ذاك ثماني عشرة سنة ثلث والتيمي هذا هو ابو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحرث بن اسد توفي سنة ثمان وثمانين واربعمائة فيكون مولده رضي الله عنه على هذا البيان سنة سبعين واربعمائة واخبرنا الفقيه

ابوعبد الله محمد ابن الشيخ ابي العباس احمد بن عبد الواسع بن اميركاه بن شافع
الجيلي الحنبلي رحمه الله تعالى ان مولد الشيخ محي الدين السيد عبد القادر الجيلي
رضي الله عنه سنة احدى وسبعين واربعمائة بجيلان وانه دخل بغداد
سنة ثمان وثمانين واربعمائة وعمره ثماني عشرة سنة قلت وهو رضي الله عنه
منسوب الى جيل بكسر الجيم وسكون الياء وهي بلاد متفرقة وراء طبرستان
وبها ولد في نيف قصبة منها ويقال فيها ايضا جيلان وكيلان وكيل ايضا قرية
بشاطي الدجلة على مسيرة يوم من بغداد الى طريق واسط ويقال ايضا جيل
بالجيم ومن ثم يقال كيل العجم وكيل العراق وجيل العجم وجيل العراق انتهى وايضا
في بهجة الاسرار ومعدن الانوار قوله في النسب الجون هو لقب لموسى وهو
من اسماء الاضداد يطلق على الابيض والاسود وهو الاكثر في استعماله وهو المراد
به هنا لان موسى كان آدم اللون له ام هند بنت ابي عبيدة وانك ان تكون
جونا انزعا واحذر ان تضرهم او تنفعا وحملت به وهي بنت ستين سنة ويقال
لا تحمل لستين سنة الا قرشية ولا لخمسين الا عربية وام ابيه عبد الله هي ام
سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي
الله عنه وقوله فيه المحض هو لقب لعبد الله وهو من كل شئ الخالص ولقب
به عبد الله لان اباه الحسن بن الحسن بن علي وامه فاطمة بنت الحسين بن
علي فنسبه من ابويه خالص لسلامته من الموالي وانتهائه الى علي كرم الله وجهه
ومن لقبه بالمجل اخذه من الاجلال لهذا المعنى وهو بضم الميم وفتح الجيم اسم
مفعول من اجله وفاطمة هذه خلف عليها بعد الحسن بن الحسين عبد الله
المطرف بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه ولدت له محمد الديباج
لقب به لحسنه ولقب ابوه عبد الله بن المطرف لجماله ولما نشاء عبد الله بن

عمر قال لناس حسن مطرف بعد عبد الله بن الزبير وكان عبد الله الزبير فائق الجمال وام المطرف بن حفصة بنت عبد الله بن عمر الخطاب رضی الله عنهما المطرف بضم الميم وفتح الراء اسم مفعول من اطرفته بكذا وقوله فيه المثنى هو نعت للحسن بن الحسن وهو بضم الميم وفتح النون اسم مفعول من ثنيته اذا صيرت له ثانيا انتهى

الثالث والعشرون قال العالم العلامة العامل والفاضل الكامل زبدة المحققين وعمدة المحدثين العارف الولي ابي المجد مولٰنا الشيخ الاجل عبد الحق المحدث المحقق الدهلوي البخاري الترك السمرقندي رحمة الله عليه في كتابه زبدة الاسرار ذكر نسبه وصفته هو الغوث الاعظم شيخ شيوخ العالم سيد السادات شيخ الاسلام والمسلمين الشيخ محي الدين ابو محمد السيد عبد القادر بن السيد ابي صالح موسى بن السيد عبد الله بن السيد يحي الزاهد بن السيد محمد بن السيد داؤد بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض وينعت ايضا بالمجل بن السيد الحسن المثنى بن السيد نا الحسن بن علي المرتضى رضي الله عنهم اجمعين سبط السيد عبد الله الصومعي الزاهد وبه كان يعرف بجيلان وهو رضي الله عنه منسوب الى جيل بكسر الجيم وسكون الياء وهي بلاد متفرقة وراء طبرستان وبها ولد في نيف قصبة منها ويقال فيها ايضا جيلان وكيلان وكيل ايضا قرية على شاطي دجلة على مسيرة يوم من بغداد مما يلي طريق الواسط ويقال فيها ايضا جيل العجم ومن ثمه يقال كيل العجم وكيل العراق والجيل ايضا قرية تحت المدائن قوله في النسب المتقدم الجون هو لقب لموسى وهو من اسماء الاضداد يطلق على الابيض والاسود هو الاكثر في استعماله وهو المراد ههنا لان موسى كان آدم اللون وحملت به امه ابنة ستين سنة وقيل لاتحمل ستين سنة

الامن كانت قرشية ولا لحسين الاعربية وامه سلمة بنت محمد بن طلحة بن
عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضى الله عنه وقوله فيه المحض هو
لقب لعبد الله وهو من كل شئ الخالص ولقبه سيدنا لله لان اباه الحسن بن الحسن
بن على وامه فاطمة بنت الحسين بن على فنسبه من ابويه خالص لسلامته من
الموالى وانتهائه الى على كرم الله وجهه ومن لقبه بالمجل اخذه من الاجلال وهو
بضم الميم وفتح الجيم اسم مفعول من اجله وقوله فيه المثنى هو لقب الحسن لانه
حسن بن الحسن وهو بضم الميم وفتح النون اسم مفعول من ثنيته اذا صرت
له ثانيا رضى الله تعالى عنهم اجمعين انتهى الرابع والعشرون قال الاديب
الفاضل الشيخ عبد الباقي العمري الموصلي العراقي فى ديوانه الترياق الفاروقي
هذه القصيدة يمدح بها سلطان الاولياء والعارفين القنديل النوراني والقطب
الصمداني مولانا وسيدنا السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني
الحسيني رضى الله عنه وقد شرح هذه القصيدة شرحا لطيفا بمجلد ضخم
علامة العراق مفتي بغداد المرحوم الشيخ محمد الآلوسي البغدادي المشهور
رحمة الله تعالى وهى هذه ابيات شعر

ابيات شعري حكت آيات تنزيل	تتلى بحضرة ممدوحي بترتيل
وعن لمن الاعلى لها اذن	تشنفتها بتكبير وتهليل
قد انطوى عالم الاسماء باحرفها	فعطر النشر منها طيب تاويل
عن حسنها قاصرات الطرف قد قصرت	احبب بكاعبة الخدرين عطبول
ماست دلالا لانا طيني الرضا بطلا	فهمت ما بين عسال ومعسول
تاهت على اللؤلؤ المنثور اذ نظمت	في مدح مولاى عبد القادر الجيلي
قطب عليه مدار العالمين له	دور تسلسل لا في قيد تعطيل

غوث وغيث لراجيه وخائفه ... يحيي ويحمي بافضال وتفضيل
سبحان لتجلي ذاته ظهرت ... لعينه عينه من غير تمثيل
جلاء نقطة عين العين تربته ... كم فزت منها بتعفير وتكحيل
طوفان علم به نوح النبوة في ... فلك الفتوة ينجي كل محمول
خضم فيض بعيد الغور فيه رست ... سفن الولاية لا في ساحل النيل
مصباح فضل بنبراس الجمال زهت ... مشكاته فيه لا في ضوء قنديل
نهر بسيط على وجه البسيطة بل ... بحر محيط بمعقول ومنقول
قرآن جمع الاشتات لصيان من ال ... ذرات لا تبض بسط العرض والطول
فرقان فرق العلى آياته رسمت ... في جبهة كللت منه باكليل
مفتاح غيب بلا ريب ببرزخه ... باب الشهود لديه غير مقفول
في عالم الغيب قد صحت مشاهدة ... لم فجاء يكشف غير معلول
توارثته اولياء الله بعثته ... منذ الست ومن جيل الى جيل
في النشأتين له حال تصرفه ... تا الله في كل معقود ومحلول
باب الرجاء وقطب الاولياء ... وفخر الاتقياء وماوى كل مذلول
عين الكمال وسلطان الرجال ... وممدوح الفعال وحامي كل مذلول
ملجا المريدين منجا اللائذين به ... كنز المقلين مذخوري وما مولي
(في الهامش: نسخه ماسول)
ذخري وفيه غنا فقري ومدحته ... فخري انال بحشري منه تنويلي
الى موائده اللائي حوت مددا ... مددت باعا بها علقت كشكولي
تفصيل اجمال جزء من خوارقه ... عن حصرها كل اجمالي وتفصيلي
ذات البقا بفنائي في محبته ... فمشاغلي فيه اضحى عين مشغول
وبان صحوي بمحوي في هواه وعن ... وهمي بان هواه بان تخييلي

اتى من العلم فى مثل الذى اتىيا ... موسى وعيسى بتوراية وانجيل
فدب اذاعم خطب اودجى حزن ... جلاه فى سيف حزم غير مفلول
تهديه بهجة الغراء وغنيته ... تغنيك عن كل مقصود ومامول
فناده عند ناديه لفاتحة ... وسئله ماشئت تاتى خير مسئول
وقبل الترب من اعتاب سدته ... وابداء الخشوع بدمع منك مسبول
فسدرة للنهى لاشك حضرته ... لقد تناهى اليها علم جبريل
ترى المحبين صرعى تحت قبته ... وقلبهم عن هواه غير مشغول
اماتراهم وفى الطارهم ربطوا ... ببابه كاسود الغيل باالغيل
اليه من موصل قدجئت منقطعا ... فيا القطع بحبل الله موصول
كم ظن قوم قبولا منه ثم لهم ... وحققوا الظن انى غير مقبول
فدع رجالا على جهل تعنفنى ... فهل سمعت بصب غير معذول
وابغ رضى الله عنه في مديح تقدمه ... لفارق بين مفضال ومفضول
عليه ازكى سلام الله تتبعه ... تحية الملأ الاعلى بتبجيل
مادوحت ديمة الرضوان مرقده ... وجللته وغشته بمنديل

الخامس والعشرون قال الربانى الفقيه النزيه الشيخ عبد الغني النابلسى فى اخر شرحه على الصلوات الكبرى المسمى بكوكب المعانى ؛ وموكب المعانى ؛ شرح صلوات ان الشيخ السيد عبد القادر الكيلاني ؛ وهذا اخر مايسره الله تعالى لنا من الكتاب على وجه الاختصار ؛ بطريق الشرح والبيان حسبما سمحت به الاقدار ؛ على اوراد صلوات شيخنا بالعهد والميثاق ؛ والتذكير بالذمة للسيد الالهية ذات البسط والانفاق ؛ واستاذ بالامداد الرباني ؛ والاستعداد الانساني ؛ فى المقام الروحاني ؛ قطب دائرة الوجود ؛ وكوكب

سمٰوات المعانیۃ والشهود ، الفرد الکامل ، والعالم العلامۃ العامل ، السید الشیخ
عبد القادر ، بن السید ابی صالح موسی جنگی دوست ابن السید ابی عبد اللہ ابن
السید یحیی الزاهد ابن السید محمد ابن السید داؤد ابن السید موسی بن السید
عبد اللہ بن السید موسی الجون بن السید عبد اللہ المحض بن السید الحسن المثنی
بن سیدنا الامام حسن بن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
وعنهم اجمعین الجیلانی نسبۃ الی جیلان وهی بلاد متفرقۃ من وراء طبر
ستان وبها ولد ویقال لها ایضاً جیلان وگیلان وقال المناوی ولد بجیلان
سنۃ سبعین واربعمائۃ وهو سبط السید عبد اللہ الصومعی من اجلۃ مشائخ
جیلان انتهی السادس والعشرون قال العالم العامل والفاضل بین الحق
والباطل الشیخ السید علی ابن الشیخ یحیی ابن الشیخ احمد ابن الشیخ علی فی
کتابہ تحفۃ الابرار ، ولوامع الانوار ، ذکر نسبہ الطاهر ، ومحتدہ الظاهر ، ومو
لدہ وبلدہ وهجرتہ الی موجدہ رضی اللہ عنہ ، اعلم ایدک اللہ تعالی برشدہ
وجعلک من حزبہ وجندہ ان ید القدرۃ قد استخرجت من البحر النبوی درۃ
یتیمۃ عقدها ، وفریدۃ مجدها ، ونسیجۃ وحدها ، ووحیدۃ فردها ، استخلصها
مالکها لنفسہ ، وطهرها بجوار قدسہ ، ونورها ببهجۃ انسہ ، وصافاها
بحبہ ، واصطفاها لقربہ ، واصطنعها لحضرتہ وجذبها لرحمتہ ، وبادا ها بفضلہ
وناداها بوصلہ ، واودعها من علمہ ، وسر معادتہ ، والبسها من نورہ ، وخیر محاسنہ
فبرزت طلائعها ، فی مواکب المعالی والمفاخر ، واسفرت من صبح طلعۃ الشیخ
عبد القادر ، وهو علی ما ذکرہ غیر واحد من الائمۃ الاعلام ، والعلماء الاثبات
الفخام الکرام ، شیخ الاسلام ، مقتدی الاولیاء العظام ، علم الهدی ، الذی
من انتما الیہ کان من السعداء ، القطب الربانی ، والفرد الجامع النورانی ،

ذو الاصل الطاهر * والمجد الباهر * محي الدين ابو محمد السيد عبد القادر الجيلاني
ابن السيد ابي صالح موسى جنكي دوست ابن السيد عبد الله ابن السيد يحيى
الزاهد ابن الامام محمد ابن الامام داود ابن الامام موسى ابن الامام عبد الله ابن
الامام موسى الجون ابن الامام عبد الله المحض ويلقب بالمجل ابن الامام الحسن المثنى
ابن الامام الحسن السبط ابن الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله تعالى
وجهه ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف معدن الجود والعفاف ابن قصي
بن كلاب بن مرة ابن كعب ابن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه
بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان * نسب كان
عليه من شمس الضحى * نورا ومن فلق الصباح عمودا * الهاشمي العلوي الحسني الحسيني
الجيلي سبط السيد ابي عبد الله الصومعي الزاهد وبه يعرف لما كان بجيلان ولد
رضي الله تعالى عنه بجيلان سنة سبعين واربعمائة انتهى السابع والعشرون
قال الامام المشهور بين الانام عالم الديار الرومية والناقد البصير في كل قضية محمود
بن سليمان الشهير بالكفوي في كتابه المسمى بكتاب اعلام الاخبار في الكتيبة العاشر
منه سيد العارفين * وقبلة الواصلين * الشيخ الرباني * المنسلخ عن الهياكل
الناسوتية * والعارف الصمداني المتوصل الى السبحات اللاهوتية * قطب الاولياء
وغوث الاصفياء * ابو محمد السيد عبد القادر بن السيد ابي صالح بن السيد عبد الله
الجيلي الگيلاني الحسني الحسيني قدس سره وكانت امه ام الخير امة الجبار بنت
السيد ابي عبد الله الصومعي ولد سنة احدي وسبعين واربعمائة وكان صاحب
احوال فاخرة وكرامات باهرة خرق الله تعالى على يديه العوائد وقلب له الاعيان
واظهر العجائب انتهى الثامن والعشرون قال سيد السادات العارف
ابو بكر السيد عبد الرزاق ابن شيخ الاسلام الشيخ محي الدين السيد عبد القا

قال العلامة والحبر الفهامة محمد بن عمر البالي المدني المحقق في كتاب سبيل السلام في حكم اباء سيد الانام اخرج ابن سعد في الطبقات من مرسل عبد الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افترق الناس فرقتين الا جعلني الله في خيرهما ثم ذكر حديث حملة العرش ... اسحاق بن ... عيسى المروزي

رضی الله تعالیٰ عنه فی فتوح الغیب قال والدی رضی الله تعالیٰ عنه مؤید الائمة سیّد الطوائف ابو محمد محی الدین السید عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی الصدیقی ابن ابی صالح موسی جنکی دوست ابن الامام عبد الله ابن الامام یحیی الزاهد ابن الامام محمد ابن الامام داؤد ابن الامام موسی ابن الامام عبد الله ابن الامام موسی الجون ابن الامام عبد الله المحض ابن الامام الحسن المثنی ابن الامام امیر المؤمنین سیدنا الحسن السبط ابن الامام الهمام اسد الله الغالب فخر بنی غالب امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه ورضی الله عنه وعنهم اجمعین آمین انتهی

التاسع والعشرون قال الامام العالم الفاضل والهمام الکامل ادیب عصره وفرید دهره العالم العلامة المحقق المدقق الفهامة ذی الفضل الشهیر الساری فی الملأ مولانا علی بن سلطان محمد القاری المشهور رحمه الله بلطفه العالی فی کتابه نزهة الخاطر الفاتر فی ترجمة سیدی الشریف عبد القادر محی الدین سلطان الاولیاء والعارفین الاکابر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی الله عنه اما بعد فیقول راجی برکة الصالحین من ربه الباری علی بن سلطان محمد القاری انه بلغنی ان رفضة الحسدة المنافقین المحجوبین ؛ الجهلة بمقام مولانا وسیدنا تاج المفاخر ؛ الذی خضع له رقاب الاکابر ؛ القطب الربانی ؛ والغوث الاعظم الصمدانی ؛ سلطان الاولیاء والعارفین ؛ الباز الاشهب ؛ والسیف الاشطب والطراز المذهب ؛ السید الشریف ؛ شیخ الاسلام ؛ محی الملة والدین ؛ عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی قدس الله روحه وفتح علینا فتوحه قال ان حضرة سیدنا الشیخ لیس بسید فی النسب وانه لم یعقب اولادا حتی بهم ینتسب الی ان بعض المتفقة المقصر فی المکتسب افتی وفق کلام اهل الضلال والطغیان الجهلة العامة حیث لم یوفق بتحقیق الخاصة وکان حقه ان یقول لا ادری فانه

لیس بشئ عن سعید بن ابی زیاد حدثنی ابن ابی عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق عن ابیه عن ابی بکر الصدیق رضی الله عنهم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تسبوا ابویّ ولا امی فانهما کانا مسلمین وقال العلامة الطحطاوی الذی ینبغی اعتقاده حفظ الوالدین الکریمین من الکفر وان الله تعالی احیاهما حتی آمنا به صلی الله علیه وسلم قال ولا ینبغی ذکر هذه المسئلة الا مع مزید الادب انتهی وتحقیقه فی رد المحتار

نصف العلم کما جاء في حديث المروي واما الجراءة فی باب النسب بنفی واثبات من غير نقل وتحقيق عن عدول واثبات فغير لايقة لارباب العلوم والديانات انی اخشی عليه في مقام البوار ان يدخل في مضمون ما ورد اجرؤکم علی الفتيا اجرؤکم علی النار (فاجبت) ان اذکر بعض ما يتعلق بنسبه الشريف وحسبه اللطيف المنيف فان من جمع بين الامرين من اللونين عزيز الوجود غريب الشهود فی الکونين فدونت هذه الرسالة اللطيفة وسميتها نزهة الخاطر الفاتر فی ترجمة سيدي الشريف عبد القادر (اقول الحق وبالله التوفيق) اما بيان نسبه الشريف اجمالا فقد ذکر مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامی قدس الله سره السامي في نفحات الانس من حضرات القدس ان سيدنا الشيخ السيد عبد القادر الجيلانی رضی الله عنه سيد ثابت النسب الجامع بينه وبين الحسب فانه علوي حسني من جانب الاب وهو من جانب الام سبط السيد ابي عبد الله الصومعي الزاهد الحسيني احد المشايخ العظام والاولياء الکرام له الاحوال السنية والکرامات الجلية واما تفصيلا فقال الشيخ عفيف الدين عبد الله بن اسعد اليافعی اليمنی الشافعي رضي الله عنه فی تتمة الروض الرياحين لحکايات الصالحين ان سيدنا السيد محي الدين ابو محمد عبد القادر ابن السيد ابي صالح موسی جنکی دوست ابن السيد عبد الله ابن السيد يحي الزاهد ابن السيد محمد ابن السيد داؤد ابن السيد موسی الثاني ابن السيد عبد الله ابن السيد موسی الجون بضم الجيم يعنی الابيض لقب موسی ابن السيد عبد الله المحض هو لقب ومعناه الخالص ابن السيد الامام الحسن المثنی ابن السيد الامام الهمام الحسن السبط ابن الامام الهمام امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالی عنه سبط ابي عبد الله الصومعي الزاهد الحسيني وبه يعرف حين کان بجيلان عليه الرحمة والرضوان

قال

قال وامه ام الخير امة الجبار فاطمه بنت ابي عبد الله الصومعي الزاهد وكان
لها حظ وافی من الخير والصلاح وعمته المرأة الصالحة الشريفة عايشة بنت
السيد عبد الله ذات الكراماة الظاهرة والمقامات الباهرة قال ولقب السيد
عبد الله جده بالمحض لان اباه الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن سيدنا
علي رضي الله عنه وامه فاطمة بنت الحسين ابن سيدنا علي رضی الله عنه
وهي نسبة سالمة من الموالي وخالصة في الشرف العالی انتهى **الثلاثون** قال
العالم الفاضل الشيخ عبد القادر ابن محي الدين الاربلی فی كتابه تفريج الخاطر
في مناقب الشيخ السيد عبد القادر الگيلاني رضی الله عنه المنقبة الخامسة
والستون فی نسبه من الطرفين اما نسبه من طرف والده فهو السيد عبد القادر
ابن السيد ابي صالح موسى جنكي دوست بن السيد عبد الله بن السيد يحي الزاهد
بن السيد محمد بن السيد داود بن السيد موسى الثانی بن السيد عبد الله
الثاني بن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض بن السيد الحسن المثنى
بن سيدنا الحسن بن سيدنا علي كرم الله وجهه رضی الله تعالى عنهم اجمعين انتهى
الحادی والثلاثون قال العالم العلامة الشيخ صلاح الدين محمد بن شاكر
الكتبي الداراني ثم الدمشقي فی كتابه فوات الوفيات السيد عبد القادر الجيلاني
بن ابي صالح جنكي دوست ينتهي نسبه الى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما
الشيخ ابو محمد الجيلي الحنبلي المشهور الزاهد صاحب المقامات والكرامات وشيخ
الحنابلة رحمه الله تعالى قدم بغداد وتفقه على القاضي ابي سعيد وسمع الحديث
وكان ياكل من عمل يده وتكلم فی الوعظ وظهر له صيت وكان ذا سمت وصمت
قال الشيخ شمس الدين ولد بجيلان سنة احدى وسبعين واربعمائة وتوفی
سنة احدي وستين وخمسمائة انتهى **الثاني والثلاثون** قال فی مادة البشيری

فی القاموس وزاد فی الشرحی السیّد مرتضی فی کتابہ تاج العروس فی شرح
القاموس البشتیري اهله الجماعة وهو بالضم وسکون الشین وکسر المثناة الفوقیة
وسکون التحیة هکذا فی نسختنا هو شیخ الاسلام والمنة الکبری علی الله الانام
القطب محي الدین السیّد عبد القادر ابن السیّد ابي صالح موسی جنکی دوست
الجیلی الحَسَنِي ولد سنة اربعمائة وسبعین وتوفی سنة خمسمائة احدی وستین
کذا بخط الذهبي کذا نسبه حفیده الامام المحدث عماد الدین القاضي نصر
ابن السیّد عبد الرزاق بن السیّد عبد القادر الجیلی رضي الله عنه انتهی
الثالث والثلاثون قال وذکر فی الخلاصة ان الاربعة الاقطاب رضی الله
عنهم کلهم اشراف من اهل البیت ینتهی نسبهم الی الامام الحسین بن علي رضی الله
عنهما ما عدا الشیخ السیّد عبد القادر الجیلاني فانه ینتهی نسبه الی الامام الحسن
رضی الله عنه بن علی رضی الله عنه انتهی **الرابع والثلاثون** قال السیّد
الموسوی فی بحر الانساب اثبات نسب سیّد الکل فی الکل قطب الاقطاب السیّد
الشیخ عبد القادر الجیلاني قدس سره وبیانه علی هذا الوجه السیّد الشیخ
عبد القادر الجیلاني بن ابي صالح موسی جنکی دوست ابن السیّد عبد الله ابن
السیّد یحیی الزاهد ابن السیّد محمد بن السیّد داود ابن السیّد موسی الجون
ابن عبد الله المحض بن حسن المثنی ابن الامام الحسن ابن الامام امیر المؤمنین
علي بن ابي طالب رضي الله تعالیٰ عنهم اجمعین عقب ذلك بذکر طرف من
اعقابه واولاده بعد ان قال وله اعقاب مشهورة بمصر والهند وحماه وبغداد
انتهی **الخامس والثلاثون** قال فی المنتخب من بحر الانساب اثبات نسب
غوث الاعظم السیّد الشیخ عبد القادر ورفعه الی الامام الحسن رضی الله تعالیٰ
عنه بهذا الوجه وهو السیّد الشیخ عبد القادر بن موسی جنکی دوست بن عبد الله

بن يحي الزاهد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ الثاني بن عبد الله بن موسى الجون بن
عبد الله المحض بن حسن المثنیٰ بن الامام الحسن رضي الله تعالیٰ عنهم اجمعين
ثم اعقب ذلك بذكر طرف من اعقابه واولاده بعدان قال وعقبه بمصر والهند
وحماه وبغداد رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعين انتهى **السادس والثلاثون**
قال في تاريخ الاسلام الشيخ ابو محمد محي الدين والسُنة السيّد عبد القادر
بن ابي صالح موسیٰ ابن عبد الله جنكادوست الجيلي الزاهد صاحب المقامات
وشيخ الفقهاء والفقراء وكان امام زمانه وقطب عصره وشيخ شيوخ الوقت
بلا مدافعة وقال في اخر ترجمته كان الشيخ السيّد عبد القادر رضي الله رأسا
في العلم والعمل فكراماته متواترة جمة ولم يخلف بعده مثله انتهى **السابع والثلاثون**
قال في سيرة النبلاء الشيخ الامام العلم الزاهد العارف القدوة شيخ الاسلام
علم الاولياء تاج الاصفيا محي السنة ومميت البدعة معقل العلم السيد الشريف
الحسيب النسيب لحافظ الاحاديث جده سيّد المرسلين محمد صلى الله عليه
واله وسلم الشيخ محي الدين ابو محمد السيّد عبد القادر ابن السيّد صالح الجيلي
الحنبلي شيخ بغداد وغيرها رضي الله عنه انتهى كلامه ملخصًا **الثامن**
والثلاثون قال العلامة خاتمة المفسرين ابو الثناشهاب الدين السيّد محمود
افندی الآلوسی المفتی ببغداد رحمه الله تعالى فی كتابه شجرة الانوار سلطان
الاولياء السيّد عبد القادر الجيلاني ولد فی عشق سنة ٤٧٠ وعيش فی كمال نو
فی ٩١ انتهى **التاسع والثلاثون قال في تاريخ اليافعي** واما كراماته
فخارجة عن الحصر وقد اخبرني من ادركته من اعلام الائمة ان كراماته قد
تواترت اوقربت من التواتر ومعلوم بالاتفاق انه لم يظهر ظهور كراماته لغيره
من شيوخ الآفاق كرامته له على الاطلاق وكان قد لبس الخرقة من يد الشيخ

ابي سعيد المبارك بن علي المخزومي نسبة الى محلة يزيد بن المخزوم ببغداد سمعت
في كتاب اجازة ابي بكر الكفوي الذي اعطاها شيخه الشيخ ابو الوفا الشيخ محمد
بن السيد قاسم بن بجير بن الحسين بن علي بن محمد بن احمد بن صالح بن نصر بن
عبد الرزاق ابن القطب الغوث الاكبر محي الدين ابي محمد عبد القادر الجيلاني
بن ابي صالح موسى جنكي دوست بن عبد الله بن يحي الزاهد بن محمد بن داود بن موسى
بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن
علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هكذا ثبت فيه وقال فيه وينتهي نسبه
الكريم من قبل ابيه الى سيدنا ابي محمد الحسن بن علي رضي الله عنه ومن قبل
امه الى السبط الشهيد ابي عبد الله الحسين رضي الله عنه انتهى الاربعون
قال العالم العلامة السيد الشيخ محمد سيف الدين في كتابه الدرر السنية
في المواعظ الگيلانية حضرة الغوث الاعظم الرباني والقطب الفرد الصمداني سيدنا
السلطان السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الگيلاني رضي الله تعالى عنه
ابن الامام ابي صالح موسى جنكي دوست ابن الامام عبد الله ابن الامام يحيى
الزاهد ابن الامام محمد ابن الامام داود ابن الامام موسى الثاني ابن الامام عبد الله
ابن الامام موسى الجون ابن الامام عبد الله المحض ابن الامام الحسن المثنى ابن
الامام الهمام سيدنا الحسن السبط ابن سيدنا ومولانا امير المؤمنين وصي الرسول
الامين ابي الحسنين الامام سيدنا علي كرم الله وجهه انتهى الحادي والاربعون
قال العالم العلامة والمدقق الفهامة الجامع بين المعقول والمنقول والبارع
في الفروع والاصول محمد غوث بن ناصر الدين محمد المخاطب بشرف الملك صب الله
سجال فضله عليه في كتابه انهار المفاخر في مناقب الغوث الاعظم السيد الشيخ
عبد القادر ما نصه الجدول الثاني في نسبه الشريف رضي الله تعالى عنه هذا الجدول

مشتمل علی شعبتين الشعبة الاولى فی آبائه روی عن الشيخ ابي بكر عبد الرزاق ولده برواية قاضی القضاة ابي صالح نصر رحمه الله ان والده الشيخ السيد عبد القادر ابن السيد ابي صالح موسى جنكي دوست ابن السيد ابي عبد الله ابن السيد يحيى الزاهد بن السيد محمد بن السيد داود بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض بن السيد الحسن المثنى ابن الامام الحسن المجتبى ابن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنهم الى ان قال انتهى

الثاني والاربعون

قال العالم الفاضل الكامل العلامة نجم آل بيت الرسول والشمس المشرقة في علي المعقول والمنقول قامع المبتدعين ودامغ المبطلين ابي الظفر السيد ظهير الدين القادري الحسيني الحسيني الحنفي حفه الله بلطفه الجلي والخفي فی كتابه فتح المبين فيما يتعلق بترياق المبين المحررة فی ترجمة الغوث الجيلاني ابي محمد السيد الشيخ عبد القادر محي الدين وقد جعلته هدية لاخواننا المسلمين قال العالم العامل والفاضل الفاصل بين الحق والباطل الشيخ علي ابن الشيخ احمد ابن الشيخ علي في كتابه تحفة الابرار ولوامع الانوار ذكر نسبه الطاهر ومحتده الزاهر ومولده وبلده وهجرته الى موجده رضي الله تعالى عنه اعلم ايدك الله تعالى برشده وجعلك من حزبه وجنده ان يد القدرة قد استخرجت من البحر النبوي درة يتيمة عقدها وفريدة مجدها ونتيجة وجدها ووحيدة فردها استخلصها ما لكها لنفسه وطهرها بجوار قدسه ونور ببهجة انسه وصافا بحبه واصطفاها لقربه واصطنعها لحضرته وجذبها الهمته وباداها بفضله وناداها بوصله واودعها من علمه وسر معادته والبسها من نوره وخير محاسنه فبرزت طلائعها فی مواكب المعالي والمفاخر واسفرت عن صبح طلعة الشيخ عبد القادر وهو على ما ذكره غير واحد من الائمة الاعلام والعلماء الاثبات القمقام الكرام شيخ الاسلام مقتدى الاولياء العظام علم الهدى الذي من انتمى

الیہ کان من السعداء القطب الربانی والفرد الجامع النورانی ذو الاصل الطاهر والمجد الباهر محی الدین عبد القادر الجیلانی ابن ابی صالح موسی جنکی دوست ابن عبد الله بن یحیی الزاهد ابن الامام محمد ابن الامام داؤد ابن الامام موسی ابن الامام عبد الله ابن الامام موسی الجون ابن الامام عبد الله المحض ویلقب بالمجل ابن الامام الحسن المثنی ابن الامام الحسن السبط ابن الامام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم الله تعالی وجہہ ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف معدن الجود والعفاف ابن قصی بن کلاب بن مرة ابن کعب بن لوئی بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر بن کنانة بن خزیمة بن مدرکة بن الیاس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان ؎

نسب کان من شمس الضحی * نورا ومن فلق الصباح عمودا

الهاشمی العلوی الحسنی الحسینی الجیلی سبط ابی عبد الله الصومعی الزاهد وبه یعرف لما کان بجیلان ولد رضی الله عنه بجیلان سنة سبعین واربعمائة قال العارف ابو بکر عبد الرزاق ابن شیخ الاسلام الشیخ محی الدین عبد القادر رضی الله تعالی عنه سالت والدی عن مولده فقال لا اعلمه حقیقه لکن قدمت الی بغداد فی السنة التی مات فیها التمیمی وعمری اذ ذاک ثمان عشرة سنة والتمیمی هذا هو ابو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزیز بن الحرث بن اسد توفی سنة ثمان وثمانین واربعمائة فیکون مولده رضی الله عنه کما تقدم علی هذا البیان وهو منسوب الی جیل بکسر الجیم وسکون الیاء ولام آخر الحروف وهی بلاد متفرقة وراء طبرستان وبها ولد بقصبة منها ویقال نیها جیلان وکیلان علی دجلة مما یلی طریق واسط انتهی قال الامام المحدث شیخ الاسلام ومقتدی الانام العارف بالله المولی الاجل الشیخ عبد الحق الدهلوی قدس سره فی کتابه زبدة الاسرار فی مناقب الغوث الاعظم سلطان الاولیاء والاقطاب ابی محمد محی الدین شیخ الاسلام

السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ما نصه هو الغوث الاعظم
شيخ شيوخ العالم سيد السادات شيخ الاسلام الشيخ محي الدين ابو محمد عبد القادر
بن ابي صالح موسى بن ابي عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داؤد بن موسى بن
عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض وينعت ايضا بالمجل ابن الحسن المثنى
ابن الامام الحسن ابن امير المؤمنين علي المرتضى رضوان الله تعالى عليهم اجمعين
سبط ابي عبد الله الصومعي الزاهد وبه كان يعرف بجيلان وهو رضي الله تعالى
عنه منسوب الى جيل بكسر الجيم وسكون الياء وهي بلاد متفرقة من وراء طبر
ستان وبها ولد في نيف قصبة منها ثم اخذ في بيان مناقبه الجليله واوصافه
العاليه النبيلة بما يشفي العلل التي في الصدور وكذا ساق نسبه الشريف على
هذا الوجه المنيف في كتابه الآخر المسمى بزبدة الآثار المؤلف باللغة الفارسية انتهى
الثالث والاربعون قال العلامة والحبر الفهامة العالم الفاضل الشيخ زروق
في قواعده المتضمنة لفوائده لما تكلم في النسب المصطفوي ان المعتبر
اصل النسب الديني وفرعه مجردا ثم ان انضاف الى الطيني كان له مؤكدا فلا تلحق
رتبة صاحبه بحال ابدا وبذا اجيب عن قول الشيخ ابي محمد السيد عبد القادر
قدمي هذه على رقبة كل ولي لله في زمانه لانه جمع من علو النسب شرف
العبادة والعلم ما لم يكن لغيره من اهل وقته انتهى **الرابع والاربعون** قال الامام
احمد بن محمد بن جزي الاندلسي الغرناطي الشهير في كتابه مختصر البيان في آل عدنان
صرح باسماء النسب الجيلي الى الحسن السبط **الخامس والاربعون** قال صاحب جوهرة
العقول في ذكر آل الرسول وهو العلامة شيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي
ولم يذكر فيها الا الاشراف المجمع على شرفهم كما نبه على ذلك وكان تاليفه لها باذن
والده شيخ الجماعة **السادس والاربعون** قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الغبطة الناظر

٤٢ قال الشبلنجي في كتابه نور الابصار في صفحة ٢٢٣ قال ابن الحاج في شرح رسالة ابن ابي زيد ... عنه انه قال قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى قال ... لله تعالى ... ولي ... ولا في الغرب ولا في ... جوار البحر المحيط ولا في جبل قاف الا ... في تلك الساعة ... اصفهان لم يتادب مع الشيخ فسلب حاله

السابع والاربعون قال العلامة ابن عرضون بنقل علامة المغرب الشيخ سيدي محمد قنونی الثامن والاربعون قال فی مرآت الزمان لسبط ابن الجوزی التاسع والاربعون قال فی مرآت المحاسن العلامة النسابة الشيخ محمد العربي الفاسی قال مانصه وبفاس الشرفاء القادريون من بني القطب سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونسبتهم اليه ثابتة الى ان قال وهو رضي الله عنه سيد عبد القادر ابن السيد ابي صالح موسى وذكر النسب المعروف الخمسون قال فی النسب القرطاسي ذكر نسبه الى الحسن السبط رضي الله عنه الحادی والخمسون قال الامام النسابة ابن فرحون فی کتابه المسمی الاعتبار وتواريخ الاخبار والتعريف بالنسبة الى النبي المختار وليس هو ابراهيم الفقيه المعروف بل اسم هذا علي وهو صاحب كتاب ذم الخبائث الثاني والخمسون قال العلامة النسابة ابن الطيب في نظمه المسمى بالاشراف على نسبة الاقطاب الاربعة الاشراف والاربعة هم المذكورون فی قوله بعد استفتاح النظم ٭ هذا نظام لعمود نسب ٭ الاربع الاقطاب اهل الرتب ٭ الشيخ عبد القادر الجيلاني ٭ وابن مشيش مفرد الايمان ٭ والشاذلی الكامل الوصول ٭ وابن سليمان هم الجزولي ٭ الثالث والخمسون قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الفاسی فی المنح البادية ولا تخشى براعته فی تحرير الانساب وقد عد فی علم الانساب من علومه التی منحه الله بها وله فيها اجازات من اهل ذلك العلم انتهى الرابع والخمسون قال الشيخ مراد البغدادی فی المشجر الخامس والخمسون قال الشيخ محمد قاسم القصار قال المناوي وقفت فی غيرما تقييد وكان رحمه الله من يعتمد عليه ويرجع فی هذا الباب اليه لشدة بحثه عنه ومزيد اعتنائه به ورسوخ علمه ومتانة دينه واطال الثناء عليه لاسيما فی تحرير النسب الشريف الى ان قال قال شيخ الجماعة سيدي عبد القادر الفاسی فی حق شيخ القصار بعد الثناء

وقد روى ان الشيخ ابا محمد بن محمد خفقة ان بلاد المغرب فسأله اصحابه عن ذلك فقال ان سيدنا الشيخ عبد القادر قال في هذه الساعة قدمي هذه على رقبة كل ولي فارخ اصحابه ذلك اليوم حتى قدم السفر من ارض العراق فاخبروا بقوله ذلك في ذلك اليوم وليا قال ذلك وهو على منبر وخطبه يوم الرابع من ام ... بلده نطاطار اسحق قال على تغيبي وكذلك سائر الاولياء في بائن السلطان انتهى

عليه بالتحقيق فی العلوم انه كان عارفا بانساب الاشراف محققا فی ذلك لا يقاومه احد اذا تكلم فيها ولا يقاربه اهـ قال الحافظ التنسی فی نظم الدر والعقيان عند الكلام على موسى الجون جد الامام الجيلی ثم ان الله تعالى جعل البركة فی عقبه فملك منهم ثلاث طوائف بنوا الاخيضر ملوك اليمامة والهواشم وبنوا ابی عزيز ملوك مكة وفی بنی ابن عزيز بقی ملك مكة الى الآن اهـ باختصار فكتب الشيخ القصار على كلام التنسی المذكور عاطفا على الملوك المشار اليهم ما نصه والبركة الكاملة والنعمة الشاملة سيدنا عبد القادر الجيلانی صاحب الملك الحقيقی والخلافة القطبانية وكم فی ذرية سيدنا عبد القادر من الاخيار اهـ قلت وابو عزيز المذكور وهو قتادة الذی اجاب الخليفة الناصر حين كتب له يعاتبه على عدم وفوده له الى بغداد فكان جوابه

ولی كف ضرغام اذا ما بسطتها	بها اشتری يوم الوغی وابيع
معودة لثم الملوك ظهرها	وفی بطنها للمجد بين ربيع
اتركها تحت الرهان وابتغی	بها بدلا انی اذا الوضيع
وما انا الا المسك فی ارضكم	اضوع واما عندكم فاضيع

السادس والخمسون قال شيخ العالم الشيخ محمد بن عياد الاندلسی **السابع والخمسون** قال شيخ العالم الشيخ علی بن عبد الوهاب الشامی **الثامن والخمسون** قال شيخ الشيخ عبد الواحد الونشريسی **التاسع والخمسون** قال شيخ العلامة امام اهل الورع فی زمانه الشيخ رضوان بن عبد الله **الستون** قال العالم الشيخ عبد الواحد بن احمد الحميدی **الحادی والستون** قال رقيم الشيخ علی الصقلی الحسنی هاته الكتب الستة الاخيرة اطلع عليها المحقق المسناوی ونقل منها ما يشفی الغليل ولولا الاطالة لجلبناه مستوفی **الثانی والستون** قال النسابة العارف الشيخ ابو التوفيق المليحی المصری فی كتابه سرور المقلب انتهی

الثالث والستون قال في كتاب الدر السني في بعض من بفاس من اهل النسب الحسني الرابع والستون قال العلامة والحبر الفهامة العالم الفاضل الشيخ الشبلنجي المدعو السيد بمؤمن نفع الله به في كتابه نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار الاول من الاقطاب الاربعة سيدي عبد القادر الجيلي رضي الله عنه هو ابو محمد صالح عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن يحيي الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن حسن المثنى بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين ولد رضي الله عنه سنة سبعين واربعمائة كذا في طبقات الشعراني قال وحكي عن امه رضي الله عنها قالت لما وضعت ولدي عبد القادر كان لا يرضع ثديه في نهار رمضان ولقد غم على الناس هلال رمضان فاتوني وسألوني عنه فقلت لهم انه لم يلتقم اليوم ثديا ثم اتضح ان ذلك اليوم كان من رمضان واشتهر ببلدنا في ذلك الوقت انه ولد للاشراف ولد لا يرضع في نهار رمضان انتهى الخامس والستون قال الحافظ النسابة الشيخ عبد الله بن طاهر السجلماسي حيث ساله بعض معارفه الفاسيين قائلا له يا سيدي اني احب الاشراف فعلى من تدلني منهم بفاس فقال له على الشرفاء القادريين فان بعض من له الصيت بها والشهرة في الشرف وسمي بعض المشاهير به ليس لهم من صحة النسب ما لهم اهـ السادس والستون قال في شجرة الانساب تلخيص العالم سيدي علي بن موسى الجزائري السابع والستون قال في المشجر المحمدي وقد وقفت على النسخة الاصلية منه وعليها كتابات الموافقة والاعتراف بصحة ما فيها من نحو سبعة واربعين من نقباء الامصار ونساب الاقطار منهم العلامة الولي الشهير سيدي ابو الغيث القشاش التونسي والسيد احمد المكي نقيب السادة الاشراف بيافا والسيد محمد علي

قال الشبلنجي في نور الابصار وفي طبقات الشعراني وفي بهجة الاسرار عن الشيخ عبد القادر رضي الله عنه لان امه حملت به وهي بنت ستين سنة ... ولا تحمل بنت الستين الا قرشية وهو في بطن امه ... والشعراني ... الرجال ... رضي الله عنه ... قال ابن الاثير ... الجيلي ... الصالح ... الذهبي ... حنبلي ... انتهى

نقيب القدس الشريف وسيدي علي عزوز وغيرهم وبعضهم باختامهم مع خطوطهم هذا آخر ما اطلعت عليه من كتب النسابين ثم اعضدها باقوال من صرح ايضا بشرف الامام الجيلي من المورخين واصحاب الطبقات والمناقب من العلماء والعارفين فنقول اهـ **الثامن والستون** قال العالم الكبير العارف الشهير سيدي احمد زروق الفاسي المغربي المالكي في كتابه القواعد الطريقة اهـ **التاسع والستون** قال الحفيف بن المبارك صاحب الفتح الرباني اهـ **السبعون** قال الاستاذ ابن بامخرمة **الحادي والسبعون** قال الشيخ مراد الشاذلي في الفتح الكامل **الثاني والسبعون** قال الشيخ علي ابن يوسف الميبي **الثالث والسبعون** قال الشيخ نور الدين عبد الرحمن الجامي قدس الله سره العزيز في كتابه نفحات الانس **الرابع والسبعون** قال العالم الفاضل محمد بن محمود الملقب بدهدار في كتابه الحاشية على نفحات الانس الشيخ محي الدين السيد عبد القادر الجيلي رضي الله عنه ونسبه الشريف السيد محي الدين عبد القادر ابن ابي صالح موسى جنكى دوست ابن عبد الله ابن يحيي الزاهد ابن محمد بن داؤد بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض وينعت بالمجل ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضى الله عنه وعنهم وامه فاطمة شريفة حسينية وقال الباز الاشهب الشيخ السيد عبد القادر وقال كل قطب يطوف بالبيت سبعا وانا البيت طايف وقال رضى الله عنه جدي المصطفى شفيع الانام وقال وحكى عن امه رضى الله عنها قالت لما وضعت ولدى عبد القادر كان لا يرضع ثديه في نهار رمضان ولقد غم على الناس هلال رمضان فأتوني وسألوني عنه فقلت لهم انه لم يلتقم اليوم ثديا ثم اتضح ان ذلك اليوم كان من رمضان واشتهر ببلدنا في ذلك الوقت انه ولد للاشراف ولد لا يرضع في نهار رمضان وبمضمون الحديث

ترجمه بعبارة الاسلام الحافظ ... بالفارسية شيخ محي الدين سيد عبد القادر جيلي او از اين جيل گيلان ترجمه بعض از توضيح ... از جيل ... تعداد است ... ست ... شيخ ... لاجيان ... ايشان ... و حالا اولاد ايشان آنجا مى باشند و خانقاهى با رونق دارند و نسب عليه ايشان اينست السيد محي الدين عبد القادر ابن ابى صالح موسى جنكى دوست ابن عبد الله ابن يحيى الزاهد ابن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون ابن عبد الله المحض

الشريف السعيد من سعد في بطن امه انتهى الخامس والسبعون قال انس الجليس شارح ابن باديس السادس والسبعون قال الامام عبد الله اليافعي اليمني الشافعي رحمة الله عليهما في كتابه خلاصة المفاخر في مناقب غوث الملكوت قطب الصمداني شفيع الرباني شرف الاقطاب سيد السادات سيد محي الدين السيد عبد القادر الحسني الحسيني الجيلاني رضي الله عنه وارضاه ذكر نسبه رضي الله عنه الشيخ محي الدين ابو محمد السيد عبد القادر بن ابو صالح موسى جنكي دوست بن ابي عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داؤد بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض وينعت ايضا بالمجل بضم الميم وتشديد اللام من الاجلال بن حسن المثنى بن حسن بن علي بن ابيطالب رضوان الله عليهم سبط السيد عبد الله الصومعي الزاهد انتهى السابع والسبعون قال في وقايع الخلفاء العباسية تحت ذكر المستنجد بالله ابو المظفر يوسف بن محمد في سنة احدى وستين واربعمائة توفي الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وهو محي الدين عبد القادر بن ابي صالح موسى ابن ابي عبد الله بن يحيى بن محمد بن داؤد بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الامام حسن رضي الله عنه ولد في سنة احدى وسبعين واربعمائة وقال رضي الله عنه كل ولي على قدم نبي وانا على قدم جدي صلى الله عليه وآله وسلم وما رفع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قدما الا وضعت في موضعه الا ان يكون قدما من اقدام النبوة فانه لا سبيل ان يناله غير نبي انتهى اصل هذا الكتاب بالفارسية اه الثامن والسبعون قال العلامة الجامع سيدي احمد بن المبارك اللمطي صاحب الابريز التاسع والسبعون قال في كتاب الجامع الاصول الشهير الثمانون قال الشيخ المحبي في خلاصة الاثر في ترجمة السيد نعمة الله من سلالة

الجیلی الحادی والثمانون قال العالم الفاضل السید عبد اللطیف المعروف بسید شاہ محی الدین قادری نقوی مدراسی فی کتابه فصل الخطاب سند القرین سید المحبوبین شیخ شیوخ العالم الغوث الاعظم امام الربانی السید عبد القادر الجیلانی رضی الله عنه انتهی الثانی والثمانون قال الامام العارف بالله ذو الصبابة فی الحضرة النبویة سیدی عبد الرحیم البرعی ذکر ذلک فی قصیدة له ربانیة متوسلا فیها بالحضرة النبویه ورجال الخرقة الجیلیة مطلعها لکل خطب مهم حسبی الله ارجو به الامن مما کنت اخشاه الی ان قال بعد ذکر ابی سعید شیخ الامام الجیلی

ومنه فی الشیخ عبد القادر ابتهجت ❊ طلائع الفضل نورا فی محیاه
کالشمس تسفر من اقصی مطالعها ❊ حسنا وکالبدر ملأ العین مرءاه
وکالغمام اذا استمطرته کرما ❊ وکالصبا خلقا ان رق مهواه
من آل فاطمة الزهراء ذو شرف ❊ اتی بدا الدهر فرداعن مثناه
علی جلاله انوار هیبته ❊ کالسیف ان راق حسنا رد حداه

الثالث والثمانون قال الشیخ الجبرتی فی تاریخه فی ترجمة السید عبد الخالق المصری حفید الجیلی الرابع والثمانون قال سیدی محمد المنلا التونسی الخامس والثمانون قال الشیخ ذو الانوار والکرامات الغزار سیدی محمد بن اسمعیل الکیالی الحلبی فی رسالته وهو ممن حصل المشارب السنیة من الطریق القادریة والشذلیة والرفاعیة والنقشبندیة مقدم فی جمیعها بشهادة خمسة وسبعین من الاعلام السادس والثمانون قال الشیخ محمد عیسی القیروانی السابع والثمانون قال العالم ذو الاذواق الصوفیة الشیخ محمد الامین الکیلانی التونسی فی المواهب الجلیلة الثامن والثمانون قال القطب الکامل سیدی عبد الله باعلوی الیمنی التاسع والثمانون قال ابن فضل الله صاحب مسالک الامصار

التسعون قال ابن شاكر في تكملته الحادى والتسعون قال الشيخ ابن الزكى الثاني والتسعون قال سيدى مصطفى البكري الثالث والتسعون قال العلامة اليفرني الرابع والتسعون قال الامام ابن الازرق الخامس والتسعون قال سيدي عبد السلام الاسمر السادس والتسعون قال الامام المنزلي السابع والتسعون قال في نفحة الرحمن للعالم الرباني لسيد ابي بكر شطا المكي الثامن والتسعون قال الشيخ عيسى البناني في شرح استغاثته صرح بنسب الجيلي عند قوله في النظم * مولاي عبد القادر الجيلاني * عونا على ذي خسة اظماني * التاسع والتسعون قال العلامة في النظم واسماء ابائه الكرام رضي الله عنهم

يا ربّنا بالهيكل النوراني	قطب الوجود ومجد السّاني
غوث الورى وغياثه وملاذه	الباز عبد القادر الجيلاني
بدر اضاء الكون من انواره	شمم تسلسل من ذرى الامكان
اسلك بنا نهج الهداية وحمنا	من شر كل معاند او جان
وأنلنا ما نرجوه منك ونجنا	يا سيّدي من طارق الحدثان
وافتح لنا ابواب فضلك واسقنا	كاس الصفا واملأه بالايقان
بابيه عبد الله فرج كربنا	واقضي حوائج عندك الوهان
وبجنكي دوست يا الهى اغنني	واجعلني في بحر المجد الفاني
بالقطب عبد الله داود گيلي	واشفي سقامي واذهبن احزاني
وانعش فوادي بالمودة والرضى	وبيحيي احي القلب بالعرفاني
بمحمد وابيه داود واكسنى موسى	ثوب البها والود في الازماني
بابيه عبد الله اصلح شاننا	ولدينا فاحمى من النقصان
والطف بنا في كل ما قدرته	بالجون موسى جد بفيض تهاني

اسم صاحب هذه القصيدة ابو المحاسن القاوقجي الشاذلي ولذلك قال يا سعد القاوقجي اغثنا يا رب بالهيكل النوراني انتهى

والمحض عبد الله بدر حقائق ... ورقائق ودقائق واماني
اجعلني محضا للشهود درقني ... اوج المعالي وحلني بمعاني
بالانوار الحسن المثنى نورت ... عقلي ولا تتركني للاكواني
وابيه اول كل قطب باهر ... سبط النبي المصطفى العدناني
حسن الزكي امين الامام المرتضى ... حامي الوغا غيث لنكد الهتاني
نسب علي فاخر من فاخر ... يزهو على القمرين باللمعاني
ادعوك يارب الانام بجاههم ... وفروعهم وبكل عبد داني
يسر لنا كل الامور وعافنا ... من كل هم او بلا او عاني
وادر علينا الرزق وافتح جمعنا ... فتحا قريبا يا عظيم الشاني
انت الغني فهبني فيضا زاخرا ... سخر جميع الانس لي والجاني
وانلني جذبا بالنفوس تعطفا ... وانعم لنا بالروح والريحاني
وادر لنا كاس المحيا واسقنا ... صرفا بكاس السيد الجيلاني
وتلقنا بالانس عند ختامنا ... واختم لنا بالحسن والايماني
واحشرنا تحت لواءه المصطفى ... مع زمرة الاحباب والخلاني
وصلوة ربي دائما تهدى الى ... روح النبي وآله الاعياني
وصحابه ما قد سرى ريح الصبا ... وفرد القمري على الاغصاني
او انشد القادري سعوا راغبا ... يا ربعنا بالهيكل النوراني

المائة قال العالم الفاضل المحدث الشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه الله في كتابه زبدة الاثار ذكر نسبه هو الغوث الاعظم شيخ شيوخ العالم سيد السادات شيخ الاسلام الشيخ محي الدين ابو محمد السيد عبد القادر بن السيد ابي صالح موسى بن السيد ابي عبد الله بن السيد يحيي الزاهد بن السيد محمد بن السيد داؤد

بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض وينعت ايضاً بالمجل بن السيد الحسن المثنى بن السيد الحسن بن السيد علي المرتضى رضي الله عنهم اجمعين سبط ابي عبد الله الصومعي الزاهد وبه كان يعرف بجيلان وهو رضي الله عنه **الواحد ومائة** قال العالم الشيخ ابي بكر عبد الله بن نصر الصديق الشافعي في كتابه انوار الناظر في مناقب السيد عبد القادر رضي الله عنه **الثاني ومائة** قال العالم الامام محمد بن سعيد الزنجاني الشافعي رحمة الله عليهما في كتابه روضة الناظر ونزهة الخاطر في مناقب السيد عبد القادر رضي الله عنه **الثالث ومائة** قال العالم الحافظ قسطلاني الشافعي رحمهما الله تعالى في كتابه الروض الظاهر في مناقب السيد عبد القادر رضي الله عنه **الرابع ومائة** قال الشيخ مجد الدين فيروزآبادي الشافعي لغوي صاحب قاموس في كتابه الروض الناظر في مناقب السيد عبد القادر رضي الله عنه **الخامس ومائة** قال السيد عبد القادر عيدروس الشافعي رحمة الله عليهما في كتابه الدر المفاخر في مناقب السيد عبد القادر رضي الله عنه **السادس ومائة** قال السبط المارديني في كتابه مرآت الناظر **السابع ومائة** قال الزرقاني في كتابه نزهة الناظر في مناقب الشيخ السيد عبد القادر رضي الله عنه **الثامن ومائة** قال الامام المقدسي في بهجة الناظر في مناقب الشيخ السيد عبد القادر رضي الله عنه **التاسع ومائة** قال السيد الامام حاتم الاهدل في انوار المفاخر في مناقب الشيخ السيد عبد القادر رضي الله عنه **العاشر ومائة** قال الامام حافظ الذهبي في عقد الجواهر **الحادي عشر ومائة** قال الشيخ عبد الكريم الجيلي رحمة الله في كتابه النفحات الربانية في المقامات الجيلانية **الثاني عشر ومائة** قال الامام ناصر الدين الدمشقي في كتابه نثر الجواهر في مناقب السيد عبد القادر رضي الله عنه **الثالث عشر ومائة**

قال ابو الحسن علي اليعقوبي رحمه الله في كتابه الدر الناظر في مناقب الشيخ السيد عبد القادر رضي الله عنه **الرابع عشر ومائة** قال الامام ابن الملقن سراج الدين عمر ابو حفص عمر بن علي بن احمد بن محمد الانصاري الشافعي المتوفى ٨٠٤ه في كتابه درر الجواهر **الخامس عشر ومائة** قال الهاشمي الكيلاني الحسني نقيب حماه في لوامع الانوار **السادس عشر ومائة** قال الشيخ العلامة القدوة الفهامة محمد بن محمد البخشي الحلبي في كتابه الشمس الفاخر في مناقب السيد عبد القادر رضي الله عنه **السابع عشر ومائة** قال العالم الفاضل سلالة الافاضل البارع الظريف حائز قصب السبق في التاليف الزكي الشيخ السيد محمد المكي ابن الاستاذ سيدي مصطفى ابن عزوز نفعنا الله ببركاته التونسي في كتابه السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني نذكر اولا كتب علماء النسب التي صرحت باتصال النسب الجيلي بالجناب الحسني ثم نثني عنان القلم الى اثباته فقها ثم نرجع لتتبع الشبه الزائغة في كلامه جملة جملة الاما كرره فكما قيل الضرب لواحدة ضرب لبقيتهن اعلم هدانا الله واياك سواء الصراط، ووقانا اياك بمنه مواقع الاغلاط، ان شرف الشيخ سيدي عبد القادر نفعنا الله به واتصال نسبه بسيدنا الحسن السبط رضي الله عنه صرح به العلماء النسابون والمحققون البارعون وكلهم يذكره بصيغة الجزم ولنذكر من عرفناه منهم رحم الله جميعهم الاول العلامة التهامي العلمي الحسني في كتابه المسمى شذ والذهب في خير نسب فانه قال في شرفاء بغداد ثلاثة جموع وعد الجيلانيين احد الثلاثة قال وجدهم سيدي عبد القادر الجيلاني لا يخفى نسبه رضي الله عنه حسني اه ومن شدة تحري هذا المؤلف اخرج قبائل من الشرف في المغرب كانوا ينتسبون الى الشرف الثاني الامام احمد بن محمد بن جزي الاندلسي الغرناطي الشهير في كتابه

قال جليس زينب ٢٠ قال سول الله من احب ان ينظر الى من اصحاب بدر وسلم يعني زينب صلى الله عليه وسلم الانا نوم ها قال يفتح فيهم مثل الكون منها صم بعضهم بعضا بعبها قال ابي بن الشعبي في قال ابراهيم ان اتقوا حظ تخطئه الذي خلقه وقال اخي ابراهيم ان انما الالتقاء من ان الكريم موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام اصطفاه الله فيقيع عليهم السلام على ابراهيم ونوح الانبياء

مختصر البيان في نسب آل عدنان صرح باسماء النسب الجيلي الى الحسن السبط
الثالث صاحب جوهرة العقول في ذكر آل الوسول وهو العلامة النسابه الشيخ
عبد الرحمن ابن عبد القادر الفاسي ولم يذكر فيها الا الاشراف المجمع على شرفهم
كما نبه على ذلك وكان تاليفه لها باذن والده شيخ الجماعة الرابع الحافظ ابن
حجر العسقلاني في الغبطة الخامس العلامة ابن عرضون بنقل علامة المغرب
الشيخ سيد محمد قنوني السادس مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي السابع مرآة
المحاسن للعلامة النسابة الشيخ محمد العربي الفاسي قال ما نصه وبفاس ايضا
الشرفاء القادريون من بني القطب سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه
ونسبتهم اليه ثابتة الى ان قال وهو رضي الله عنه عبد القادر بن ابي صالح
موسى وذكر النسب المعروف الثامن في انساب القرطاس ذكر نسبه الى الحسن
السبط التاسع الامام النسابة ابن فرحون في كتابه المسمى لاعتبار وتواريخ الاخبار
والتعريف بالنسبة الى النبي المختار وليس هو ابراهيم الفقيه المعروف بل اسم
هذا علي وهو صاحب كتاب ذم الخبائث العاشر العلامه النسابة ابن الطيب
في نظمه المسمى بالاشراف على نسبة الاقطاب الاربعة الاشراف والاربعة
هم المذكورون في قوله بعد استفتاح النظم

هذا نظام لعمود نسب	الاربع الاقطاب اهل الرتب
الشيخ عبد القادر الجيلاني	وابن مشيش مفرد الايمان
والشاذلي الكامل الوصول	وابن سليمان هو الجزولي

الحادي عشر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الفاسي في المنح البادية ولا تخفى براعته
في تحرير الانساب وقد عد في المنح علم الانساب من علومه التي منحه الله
بها وله فيها اجازات من اهل ذلك العلم الثاني عشر مشجر الشيخ مراد البغدادي

نتيجة التحقيق في بعض اهل النسب الوثيق للشيخ المسناوي وهو من اهل التحرير والضبط في انساب الاشراف وصوب في بعض تآليفه غلطات في مرجع انساب بعض الاشاهر الرابع عشر الشيخ محمد بن قاسم القصار قال المسناوي وقفت عليه في غير ما تقييد بخطه وكان رحمه الله ممن يعتمد عليه ويرجع في هذا الباب اليه لشدة بحثه عنه ومزيد اعتنائه به ورسوخ علمه ومتانة دينه واطال الثناء عليه لاسيما في تحرير النسب الشريف الى ان قال قال شيخ الجماعة سيدي عبد القادر الفاسي في حق الشيخ القصار بعد الثناء عليه بالتحقيق في العلوم انه كان عارفا بانساب الاشراف محققا في ذلك لا يقاومه احد اذا تكلم فيها ولا يقاربه اه قال الحافظ التنسي في نظم الدرر والعقيان عند الكلام على موسى الجون جد الامام الجيلي ثم ان الله تعالى جعل البركة في عقبه فملك منهم ثلاث طوائف بنو الاخيضر ملوك اليمامة والهواشم وبنو ابي عزيز ملوك مكة وفي بني ابن عزيز بقي ملك مكة الى الآن اه باختصار فكتب الشيخ القصار على كلام التنسي المذكور عاطفا على الملوك المشار اليهم ما نصه والبركة الكاملة والنعمة الشاملة سيدنا عبد القادر الجيلاني صاحب الملك الحقيقي والخلافة القطبانية وكم في ذرية سيدنا عبد القادر من الاخيار اه قلت وابو عزيز المذكور هو قتادة الذي اجاب الخليفة الناصر حين كتب له يعاتبه على عدم وفوده له اليه بغداد فكان جوابه

ولي كف ضرغام اذا ما بسطتها	بها اشتري يوم الوغى وابيع
معودة لثم الملوك الظهرها	وفي بطنها المجد بين ربيع
اتركها تحت الرهان وابتغي	بها بدلا اني اذا الوضيع
وما انا الا المسك في ارض غيركم	اضوع واما عندكم فاضيع

الخامس عشر شجر العالم الشيخ محمد بن عياد الاندلسي السادس عشر شجر العا

الشيخ علي بن عبد الوهاب الشامي السابع عشر مشجر الشيخ عبد الواحد الواثري
الثامن عشر مشجر العلامة امام اهل الورع في زمانه الشيخ رضوان بن عبد الله التاسع
عشر العالم الشيخ عبد الواحد بن احمد الحميدي العشرون رقيم الشيخ علي الصقلي
الحسني هاته الكتب الستة الاخيرة اطلع عليها المحقق السناوي ونقل منها ما يشفي
الغليل ولولا الاطالة لجلبناه مستوفى الحادي والعشرون النسابة العارف
الشيخ ابو التوفيق الميحي المصري في كتابه سرور القلب الثاني والعشرون كتاب
الدر السني في بعض من بفاس من اهل النسب الحسني الثالث والعشرون ابن
الوردي في تاريخه الرابع والعشرون الحافظ علي بن سلطان القاري المكي الخامس والعشرون
صاحب نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار ولا يخفى ما لهذا المؤلف من الاعتناء
بانساب آل البيت وتفريعهم واتصال سلاسلهم المباركة السادس والعشرون الحافظ
النسابة الشيخ عبد الله بن طاهر السجلماسي حيث ساله بعض عارفه القاسيين
قائلا له يا سيدي اني احب الاشراف فعلى من تدلني منهم بفاس فقال له على الشرفاء
القادريين فان بعض من له الصيت بها والشهرة في الشرف وبعض المشاهير
بها ليس لهم من صحة النسب ما لهم اه السابع والعشرون شجرة الانساب تلخيص
العالم سيدي علي بن موسى الجزائري الثامن والعشرون المشجر المحمدي وقد وقفت
على النسخة الاصلية منه وعليها كتابات الموافقة والاعتراف بصحة ما فيها
من نحو سبعة واربعين من نقباء الامصار ونسابي الاقطار منهم العلامة الولي
الشهير سيدي ابو الغيث القشاش التونسي والسيد احمد المكي نقيب السادة
الاشراف بيافا والسيد محمد علي نقيب القدس الشريف وسيدي علي عزوز
وغيرهم وبعضهم باختامهم مع خطوطهم هذا آخر ما اطلعت عليه من كتب النسابين
ثم اعضدها باقوال من صرح ايضا بشرف الامام الجيلي من المورخين واصحاب الطبقات

والمناقب من العلماء والعارفين * فنقول التاسع والعشرون جامع علمي الظاهر والباطن القطب الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراني في طبقاته الثلاثون العالم الكبير العارف الشهير سيدي احمد زروق الفاسي الحادي والثلاثون الشيخ الصفدي الثاني والثلاثون العفيف بن المبارك صاحب الفتح الرباني الثالث والثلاثون الاستاذ ابن بامخرمة الرابع والثلاثون الشيخ مراد الشاذلي في الفتح الكامل الخامس والثلاثون الشيخ علي بن يوسف الميي السادس والثلاثون الشيخ نور الدين الجامي في نفحات الانس السابع والثلاثون انس الجليس شارح ابن باديس الثامن والثلاثون الامام عبد الله اليافعي اليمني التاسع والثلاثون الحافظ الذهبي بنقل المناوي عنه الاربعون الاستاذ عبد الرزاق ابن الامام الجيلي في فاتحة فتوح الغيب قال قال والدي ابو محمد محي الدين السيد عبد القادر بن فلان الى الحسن السبط بل قال في محل آخر سالت والدي عن نسبه فاجابني بانه ابن فلان بن فلان الخ قلت نقلت هنا عن الشيخ عبد الرزاق ابطالا القول المعترض ان هذه النسبة لم يقبها الشيخ ولا ابناوه وانما هي من الاحفاد الحادي والاربعون العلامة الجامع سيدي احمد بن المبارك اللمطي صاحب الابريز الثاني والاربعون كتاب جامع الاصول الشهير الثالث والاربعون الشيخ المحبي في خلاصة الاثر في ترجمة السيد نعمة الله من سلالة الجيلي الرابع والاربعون الامام العارف بالله ذو الصبابة في الحضرة النبوية سيدي عبد الرحيم البرعي ذكر ذلك في قصيدة له ربانية متوسلا فيها بالحضرة النبوية ورجال الخرقة الجيلية مطلعها لكل خطب مهم حسبي الله * ارجو به الامن مما كنت اخشاه * الى ان قال بعد ذكر ابي سعيد شيخ الامام الجيلي

ومنه في الشيخ عبد القادر ابتهجت	طلائع الفضل نورا في محياه
كالشمس تسفر من اقصى مطالعها	حسنا وكالبدر ملء العين مرآه

وكالغمام اذا استمطرته كرما	وكالصبا خلقا ان رق مهواه
من آل فاطمة الزهراء ذو شرف	اتى به الدهر فرداً عن مثناه
على جلالته انوار هيبته	كالسيف ان راق حسنا راق حداه

الخامس والاربعون الشيخ الجبرتي في تاريخه في ترجمة السيد عبد الخالق المصري حفيد الجيلي السادس والاربعون سيد محمد المنلا التونسي السابع والاربعون القلائد للشيخ ابن يحيى التادفي الثامن والاربعون تفريح الخاطر للمقدس الاربلي التاسع والاربعون الشيخ ذو الانوار والكرامات الغزار سيدي محمد بن اسماعيل الكيالي الحلبي في رسالته وهو ممن حصل المشارب السنية من الطريق القادرية والشاذلية والرفاعية والنقشبندية مقدم في جميعها بشهادة خمسة وسبعين من الاعلام الخمسون الشيخ محمد عيسى القيرواني الحادي والخمسون العالم ذو الاذواق الصوفية الشيخ محمد الامير الكيلاني التونسي في المواهب الجليلة الثاني والخمسون القطب الكامل سيدي عبد الله باعلوي اليمني الثالث والخمسون ابن فضل الله صاحب مسالك الامصار الرابع والخمسون ابن شاكر في تكملته الخامس والخمسون الشيخ ابن الزكي السادس الخمسون سيدي مصطفى البكري السابع والخمسون العلامة اليفرني الثامن والخمسون الامام ابن الازرق التاسع والخمسون سيدي عبد السلام الاسمر الستون الامام المنزلي الحادي والستون نفحة الرحمن للعالم الرباني السيد ابي بكر شطا المكي الثاني والستون الشيخ عيسى البتاني في شرح استغاثته صرح بنسب الجيلي عند قوله في النظم

مولاي عبد القادر الجيلاني ۞ عونا على ذي خسة اظماني

الثامن عشر ومائة قال السلطان محمد داراشكوه ابن السلطان شهاب الدين شاهجهان الدهلوي في كتابه سفينة الاولياء قال ان حضرت غوث الثقلين شلم

محي الدين سيد عبد القادر الحسني الحسيني رضي الله عنه وهو سيد العارفين فخر العابدين قطب الصمداني السيد عبد القادر الجيلاني هو ابن السيد ابو صالح موسى جنكي دوست بن ابي السيد عبد الله بن السيد يحيي الزاهد بن السيد محمد بن السيد داود بن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي المرتضى رضي الله عنهم حسني من جانب الاب وحسيني من جانب الام رضي الله عنه

التاسع عشر ومائة قال العالم الفاضل محمد صادق لطيفي القادري المتخلص بشرمي في كتابه خوارق الصادقية من مواهب القادرية قال في بحر الانساب وغيره من الكتب صح نسبه الشريف السيد الشريف والجوهر اللطيف القطب الرباني المحبوب السبحاني ابو محمد محي الدين الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني ابن السيد ابي صالح موسى وهو ابن السيد عبد الله وهو ابن السيد يحيي الزاهد وهو ابن السيد محمد وهو ابن السيد داود وهو ابن السيد موسى الثاني وهو ابن السيد عبد الله الثاني وهو ابن السيد موسى الجون وهو ابن السيد عبد الله المحض وهو ابن السيد الحسن المثنى وهو ابن الامام حسن المجتبى وهو ابن الامام علي المرتضى رضي الله عنه وعنهم اجمعين انتهى

العشرون ومائة قال العالم الفاضل السالك الشيخ محمد شعيب البشاوري قدس سره في كتابه مرآة الاولياء الغوث الاعظم غوث الثقلين السيد عبد القادر وهو ابن ابي صالح السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد يحيي الزاهد بن السيد محمد بن السيد داود بن السيد موسى بن السيد عبد الله الجيد ابن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض بن السيد الحسن المثنى بن الامام المتقين حسن المجتبى ابن امير المؤمنين علي المرتضى كرم الله وجهه انتهى

الحادي والعشرون ومائة قال العالم الفاضل السالك ميرزا جان جانان مظهر الشهيد رحمه الله الدهلوي في كتابه معمولات المظهرية سيد السادات سيد عبد الرزاق وهو عن ابيه القطب الرباني المحبوب السبحاني

غوث الثقلین السید محي الدین عبد القادر الجیلاني وهو عن ابیه سید السادات السید ابي صالح موسی جنکی دوست وهو عن ابیه وشیخه السید عبد الله وهو عن ابیه وشیخه السید یحیی الزاهد وهو عن ابیه وشیخه السید محمد وهو عن شیخه وابیه السید داؤد وهو عن شیخه وابیه السید عبد الله وهو عن شیخه وابیه السید موسی الجون وهو عن شیخه وابیه السید عبد الله المحض وهو عن شیخه وابیه سید السادات جامع البرکات الحسن المثنی وهو عن ابیه امام المؤمنین قدوة المتقین امام الحسن رضي الله تعالی عنهم اجمعین وهو عن ابیه امام الهدی امیر المؤمنین علي المرتضی کرم الله وجهه وعن امه سیدة النسآ فاطمة الزهراء رضي الله تعالی عنهما وعن شیخه سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم

الثاني والعشرون ومائة قال العالم الفاضل خواجه محي الدین المعروف بسید شاه محي الدین ابن السید ابي صالح رحمه الله علیه القادري الکرنولي الساکن فی حیدرآباد فی کتابه معدن الاسرار فی بیان جواهر الابرار عند ذکر سلسلة القادریة سلطان الاولیآء السید عبد القادر الجیلاني وهو من ابیه السید ابي صالح موسی وهو من ابیه السید عبد الله وهو من ابیه السید یحیی الزاهد وهو من ابیه السید محمد ابي احمد وهو من ابیه السید ابي عبد الرحمن داؤد وهو من ابیه السید موسی وهو من ابیه السید ابي محمد عبد الله وهو من ابیه السید موسی الجون وهو من ابیه السید عبد الله المحض وهو من ابیه السید الحسن المثنی وهو من ابیه امام الحسن المجتبی وهو من ابیه سیدنا علي وهو من شفیع المذنبین صلی الله علیه وآله وسلم

الثالث والعشرون ومائة قال العالم الفاضل السید شاه محمد القادري في کتابه مشکوة ولایة الکبری سید الاولیآء الاولین والاخرین فرد الافراد غوث الاغواث حضرة محبوب السبحاني السید عبد القادر

الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله عنه وارضاه **الرابع والعشرون ومائة** [١٢٤] قال في التاريخ بلخ عبد المؤمن خاني اعلم ان حضرة الغوث الاعظم السيد محي الدين الجيلاني بن السيد ابو صالح موسى بن الحضرة السيد عبد الله بن الحضرة السيد يحيى الزاهد بن الحضرة السيد محمد بن الحضرة السيد داؤد بن الحضرة السيد موسى بن الحضرة السيد عبد الله بن الحضرة السيد موسى الجون بن الحضرة السيد عبد الله المحض بن الحضرة السيد الحسن المثنى بن الحضرة الامام الحسن بن الحضرة سيدنا علي المرتضى رضوان الله عنهم اجمعين وامه امة الجبار فاطمة بنت السيد ابي عبد الله الصومعي الزاهد رحمة الله عليهما **الخامس والعشرون ومائة** [١٢٥] قال العالم المحدث المحقق الشيخ عبد الحق الدهلوي في كتابه اخبار الاخيار وهي باللغة الفارسية قطب الاقطاب فرد الاحباب الغوث الاعظم شيخ الشيوخ العالم غوث الثقلين امام الطائفتين شيخ الطالبين شيخ الاسلام محي الدين ابو محمد عبد القادر الحسني الحسيني الجيلاني رضي الله تعالى عنه وهو من كمل الاولياء ومن اهل البيت من اعاظم السادات الحسنية من احفاد عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن امام المسلمين الحسن بن امير المؤمنين علي المرتضى رضوان الله وسلامه عليهم اجمعين **السادس والعشرون ومائة** [١٢٦] قال العالم الشيخ احمد المغربي لگنج بخش في الرسالة العربية **السابع والعشرون ومائة** [١٢٧] قال العالم مير محمد صادق القادري اورنگ آبادي في المحبوب المعاني **الثامن والعشرون ومائة** [١٢٨] في المحبوب القلوب في لسان هندي دكني **التاسع والعشرون ومائة** [١٢٩] قال العالم حسن القطبي في لطائف القادرية **الثلاثون ومائة** [١٣٠] قال العلامة المحدث محي الدين النووي رحمة الله عليه في بستان العارفين **الحادي والثلاثون ومائة** [١٣١] قال العالم السيد عطا حسين في كنز الانساب عند ذكر اولاد الامام الحسن المجتبى رضي الله عنه في نسبة الثاني السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه

در عبارت ... باللغة الفارسية ... قطب الاقطاب فرد الاحباب الغوث الاعظم شيخ شيوخ العالم غوث الثقلين امام الطائفتين شيخ الطالبين شيخ الاسلام محي الدين ابو محمد عبد القادر الحسني الحسيني الجيلاني رضي الله تعالى عنه ... از كمل اوليا و از اهل بيت و از اعاظم سادات حسنيه از احفاد عبد الله محض بن حسن مثنى بن امام المسلمين حسن بن امير المؤمنين علي المرتضى رضوان الله وسلامه عليهم اجمعين ... [illegible]

الثانی والثلاثون ومائۃ قال العالم الفاضل الکامل شاہ ابی المعالی فی التحفۃ القادریۃ اثبت نسبہ الشریف **الثالث والثلاثون ومائۃ** قال العالم الکامل ابو عبد اللہ السید محمد بن السید احمد بن السید الحسن الحسینی الترمذی الاکبر آبادی المدعوا بمظہر الحق فی عصر شاہ جہان بادشاہ فی سنۃ ۱۰۶۱ فی النظم بالفارسیۃ ان قطب الاقطاب غوث الثقلین وقطب الکونین شیخ الجن والانس السید محی الدین عبد القادر الجیلانی الحنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سید حسنی وحسینی وجعفری من جانب الاب حسنی ومن جانب الام حسینی فمن قال انہ لیس بسید فہو رافضی

نظم	آنکہ بیشک قطب ربانی بود	بیگمان محبوب سبحانی بود
	شاہ شاہان شیخ عبد القادر ست	دلنشین و دلربا و دلبر ست
	سید و عالی نسب درا و لیاست	نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ ست
۴۷۱	سال مولودش ز اوج کبریا	گفت ہاتف زیب تاج اولیا
۴۷۰	سال مولودش کہ بس رنگین تر ست	شد رقم محبوب عبد القادر ست
۵۶۱	عقل سال نقل آن عالی شیم	صاحب فردوس اعلی زد رقم

فی صفتہ وشانہ

آنکہ محبوب حضرت حق است	بہر آفاق رحمت حق است
قطب بغداد غوث جیلانی	لَیْسَ فِی الدَّہرِ مِثْلُہ ثانی
دہش چرخ مہ رکاب آمد	قدمش مالک الرقاب آمد
لقب او بدان بصدق و یقین	قطب کونین شاہ محی الدین
دستگیر جہان و اہل جہان	میر و پیر زمان و اہل زمان
نشود ہیچکس باو ہمسر	کی شود ہمسر مسیحا خر
ماہ نخشب نہ ماہ تابان ست	ماہ تابان نہ مہر رخشان ست

دری

دري وثاقب وفريد ووحيد عالي ووالي وحميد ورشيد
اعلم وافقه وبليغ وفصيح درهمه اوليا مليح وصبيح
رافضي را ازو گريز بود خارجي را ازو ستيز بود
ذات او صاحب كرامات است بيگمان آبروئ سادات است
غوث وقطب وولي وسلطان است بره حق دليل وبرهان است
جيلي وحنبلي وبغداوي بيشك وشبه مهدي وهادي
حسني وحسيني است وشريف احسن ومحسن ولطيف ونظيف
پدرش راست نسبت احسن بيشك وريب با امام حسن
مادرش را بجعفر صادق نسب راسخ است وهم واثق
هركرا بر سيادتش سخن است دهنش زن كه گنده تر دهن است
رافضي گفت شاه سيد نيست گفتهٔ رافضي مؤيد نيست
خارجي گفت آن بلند نزاد نه زني داشته ست ونه اولاد
آنكه اولاد اوست بيشك دان هست نسل برادرش بجهان
همچنين گفتگوي نامعقول آن دو بدكيش گشته اند فضول
ذات آن شاه روشن است چو ماه باز اولاد او برفعت وجاه
تا قيامت هميشه معمور است در دو آفاق فائض النور است
گر زبانم يكي هزار شود صد هزارش سخن گذار شود
مرقد پاك اوست در بغداد اهل عالم ازو گرفته مراد
هادي خلق بود سوي خدا قدس الله سره ابدا

الرابع والثلاثون ومائة قال العالم الكامل قدوة السالكين السيد آدم بنوري النقشبندي في نكات الاسرار انه جرى في مجلس الشيخ فريد الدين محمد گنج شكر

قال العالم العامل ... السيد شهيد الدين ... في الفتح المبين ان السيد الشيخ عبد القادر قدس سره وعنا به قد نال ما نال من القطبية بواسطة جده عليه الصلاة والسلام على اتم وجه واكمل حال فقد كان رضي الله تعالى عنه من اجلة اهل البيت حسينا من جهة الاب حسينيا من جهة الام لم يصبه نقص ولم يعتريه ريب ولا ينكر ذلك الا زنديق ...

الامام موسى الكاظم بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام زين العابدين بن الامام حسين بن امير المؤمنين علي رضي الله عنه و...

ذكر وضع قدم الشيخ السيد علي رقاب الاولياء فقال لئن كنت في ذلك الزمان لوضعت قدمه على رقبتي وبالافتخار اقول على حدقة عيني لان شيخي معين الحق والدين من الذين وضع قدمه على رقبته فنصيبي ان اقول على حدقة عيني **الخامس والثلاثون ومائة** ذكر في مخزن القادرية ان السيد الهمام والغوث الامام سيدي حسن العسكري رضي الله تعالى عنه وضع سجادته عند احد اصحابه امانة لايصالها الى الغوث الاعظم واوصاه بحفظها وباعطائها في آخر عمره الى احد ثقاته ويوصيه هكذا من يد الى يد الى وسط القرن الخامس حتى يظهر الغوث الاعظم المسمى بالسيد عبد القادر الحسني الكيلاني وهي له امانة ادوها اليه وبلغوه مني السلام عليه **السادس والثلاثون ومائة** في القلائد الجواهر للشيخ محمد بن يحيي التادفي الحنبلي رحمه الله قال الشيخ محمد الشبنكي سمعت شيخنا ابابكر بن هوارا يقول اوتاد العراق ثمانية معروف الكرخي والامام احمد بن حنبل وبشر الحافي ومنصور بن عمار والجنيد والسري وسهل ابن عبد الله التستري وعبد القادر الجيلاني قلت ومن عبد القادر قال عجمي شريف يسكن بغداد يكون ظهوره في قرن الخامس هو احد الصديقين الاوتاد الافراد اعيان الدنيا اقطاب الزمان انتهى وفي الطبقات الكبرى للقطب الرباني عبد الوهاب الشعراني رحمة الله عليه قال ابوبكر بن هوار البطائحي رضي الله تعالى عنه يقول اوتاد العراق ثمانية معروف الكرخي واحمد بن حنبل وبشر الحافي ومنصور بن عمار والجنيد والسري السقطي وسهل بن عبد الله التستري وعبد القادر الجيلي فقيل له ومن عبد القادر فقال عجمي شريف يسكن بغداد يكون ظهوره في القرن الخامس واحد الصديقين واعيان اقطاب الدنيا رضي الله عنه انتهى **السابع والثلاثون ومائة** قال العالم محمد صبغة الله بدر الدولة وامام العلماء قاضي الاسلام قاضي الملك سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه في نثر الجواهر في مناقب سيد عبد القادر رضي الله عنه قال الشيخ محمد الدهلوي رحمة الله عليه في زبدة الاسرار مانقل عن الشيخ القدوة ابي محمد الشبنكي رضي الله عنه انه قال سمعت شيخنا ابوبكر بن هوار البطائحي يذكر الشيخ السيد عبد القادر والذي يظهر في العراق سوف في وسط قرن الخامس وينص على فضله وما يكون على يديه يكون من كرامات وقد شهد بها مع كونه مقامات الاولياء فاذا صعق بي صدمة وكونه من اكثر اهل وقته ظهورا ... فاذا بعث والقطب ... بما ... الاقطاب وصدور كونه ... اذا دخل في كرامات الصديقين ... من الاسلام ... اطوار الكاشفين فاذا صعق يقتدي ... الاعلام ... الشيخ

خانقاه ... رضي الله عنه انتهى

قال الشيخ السيد عبد الرزاق ولد المؤلف قال والدي رضي الله تعالى عنه مؤيد الائمة
سيد الطوائف ابو محمد محي الدين السيد عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني الصديقي
ابن السيد ابي صالح موسى جنكي دوست ابن الامام عبد الله ابن الامام يحيى الزاهد ابن
الامام محمد ابن الامام داؤد ابن الامام موسى ابن الامام عبد الله ابن الامام موسى الجون
ابن الامام عبد الله المحض ابن الامام الحسن المثنى ابن الامام امير المؤمنين سيدنا الحسن
السبط ابن الامام الهمام اسد الله الغالب فخر بني غالب امير المؤمنين سيدنا علي بن
ابي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وعنهم اجمعين آمين [١٣٨] الثامن والثلاثون
ومائة قال في حبل المتين [١٣٩] التاسع والثلاثون ومائة قال السيد جلال الدين
البخاري في كتابه تحفة الاسرار [١٤٠] الاربعون ومائة قال العالم الفاضل الكامل
عبد الله البلخي في خوارق الاخيار [١٤١] الحادي والاربعون ومائة قال العالم المتبحر
الفهامة شرف الدين السيد عيسى رحمة الله عليه ابن غوث الاعظم رضي الله عنه
في جواهر الاسرار [١٤٢] الثاني والاربعون ومائة قال العالم بديع الدين شاه مدار
في ملفوظاته [١٤٣] الثالث والاربعون ومائة قال الشيخ جلال الدين السهروردي
في سير العارفين [١٤٤] الرابع والاربعون ومائة قال الشيخ عبد الرشيد المعروف
رشيد بن محمد جنيدي في حرز العاشقين [١٤٥] الخامس والاربعون ومائة
قال السيد المخدوم جهانيان جهان گرد في سير المسافرين [١٤٦] السادس والاربعون
ومائة قال زبدة العارفين والاولياء المتقين خواجه حسن السجزي معين الدين
الچشتي في التشريح الاولياء [١٤٧] السابع والاربعون ومائة قال الشيخ بهاء الدين
الآملي في انيس القادرية [١٤٨] الثامن والاربعون ومائة قال الشيخ شهاب الدين
السهروردي في الخلاصة القادرية [١٤٩] التاسع والاربعون ومائة قال الشيخ السيد
محمود گيسو دراز في الصحائف الغرائب [١٥٠] الخمسون ومائة قال السيد الحموي القادري

چشت شهریست در دامن کوه بفاصله دو منزل از هرات واقع ست حالا مشهور بشت این ست معمولات مظهریه ۲

في الاوراد القادرية ١٥١ الحادي والخمسون ومائة قال الشيخ فريد الدين گنج شكر في اسرار السالكين ١٥٢ الثاني والخمسون ومائة قال المولانا نور الدين عبد الرحمن الجامي في الشواهد النبوة ١٥٣ الثالث والخمسون ومائة قال الشيخ محمد ابراهيم البدري في ملفوظاته حقيقة الحقائق ١٥٤ الرابع والخمسون ومائة قال الشيخ موسى نعتوي في العاملة القصة ١٥٥ الخامس الخمسون ومائة قال العالم كمال الدين البغدادي في لطائف اللطيفة ١٥٦ السادس والخمسون ومائة قال الشيخ داؤد القيصري في شرح نصوص ١٥٧ السابع والخمسون ومائة قال المفتي غلام سرور اللاهوري في خزينة الاصفياء محبوب الثقلين سيد الكونين ابو محمد محي الدين الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني بن السيد ابو صالح موسى بن السيد عبد الله بن السيد يحي الزاهد بن السيد محمد بن السيد داؤد بن السيد موسى الثاني بن السيد عبد الله الثاني بن السيد موسى الثالث بن السيد عبد الله المحض بن السيد محمد المشهور بحسن المثنى بن الامام ذوي الاحترام سيدنا حسن بن سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنهم اجمعين ١٥٨ الثامن والخمسون ومائة قال العالم مولانا شاه محمد عالم اليقين في سلطان الاذكار ومناقب غوث الابرار ان الغوث الاعظم محي الدين ابو محمد السيد عبد القادر الجيلاني ابن السيد ابو صالح موسى زين الدين محمد ابن السيد عبد الله الجيلي ابن السيد يحي الزاهد ابن السيد محمد ابن السيد داؤد ابن السيد موسى بن السيد عبد الله ابن السيد موسى الجون ابن السيد عبد الله المحض ابن السيد الحسن المثنى ابن الامام سيدنا الحسن ابن الامام سيدنا علي المرتضى كرم الله وجهه رضي الله عنهم اجمعين ١٥٩ التاسع والخمسون ومائة قال في التنوير السير اعلم ان حضرت الغوث الاعظم قطب الاكرم سلطان الاولياء برهان الاصفياء قطب الاقطاب فرد الاحباب غوث الثقلين كهف الخافقين محي الدين

تذكرة نسب حضرة شيخ السالكين فريد مشائخ الكبار قدس سره حضرة الشيخ فريد الدين ابن الشيخ جمال الدين سليمان ابن شعيب شاه ولي كابلي ابن الشيخ محمد داؤد ابن الشيخ نصير خليل ابن الشيخ عبد الجليل ابن الشيخ عبد العباد ابن الشيخ عبد الله المصري ابن الشيخ عمر السلطان ابن الشيخ محمد ... ابن الشيخ ابراهيم ابن الشيخ ... ابن عبد الله ... امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ابو محمد السيد عبد القادر الحسني الحسيني الجيلاني رضي الله عنه وارضاه عنا
سيد حسني من جانب الاب وحسيني من جانب الام ولد بگيلان وهذا نسبه الشريف
من جانب الاب السيد محي الدين ابو محمد عبد القادر الجيلاني ابن السيد ابو صالح
موسى جنكي دوست ابن السيد عبد الله ابن السيد يحيى الزاهد ابن السيد محمد
وقال محمود ابن السيد داود ابن السيد موسى الثاني ابن السيد عبد الله ابن السيد
موسى الجون ابن السيد عبد الله المحض ابن السيد الحسن المثنى ابن سيدنا امير المؤمنين
امام الحسن ابن امير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنهم اجمعين
الستون ومائة قال العالم قاضي محمد يوسف في زين المجالس غوث الواصلين
محبوب رب العالمين قطب الرباني الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني قدس الله
سره النوراني سيد شريف حسني من جانب الاب وحسيني من جانب الام وهي
كتاب كبير باللغة الهندي المنظوم ومشتمل باحدى العشرة مجالس في مناقب الغوث
الاعظم رضي الله عنه **الحادي والستون ومائة** قال في الترجمة من تاريخ
ابن الاهدل رحمه الله **الثاني والستون ومائة** ذكر نبذة من فضائله ونسبه
الشريف منظوما للتونسي **الثالث والستون ومائة** في الترجمة الغوث الجيلاني
للامام العيني **الرابع والستون ومائة** في الترجمة لابن الجوزي الكبير **الخامس
والستون ومائة** قال في الترجمة ولده السيد عبد الرزاق لابن رجب **السادس
والستون ومائة** قال في الترجمة ايضا المقدسي **السابع والستون ومائة**
في الترجمة السيد الجيلاني لابن كثير المورخ **الثامن والستون ومائة** قال
في اقتباس الانوار **التاسع والستون ومائة** قال في اخبار الاولياء **السبعون
ومائة** قال الشيخ هاشم البيجاپوري في الرسالة الاولياء **الحادي والسبعون
ومائة** قال الامام الرباني مجدد الالف الثاني الشيخ احمد الفاروقي السرهندي المشهور بسرهندي

قدس سره فی اخر مكتوباته فی جلد الثالث المسمی بمعرفة الحقایق وهی باللغة الفارسية
ان القطبية كانت للائمة الاثنی عشر بطريق الاستقلال ولكن بعدهم بطريق النيابة
عنهم الى ان اظهر الله تعالى من صدف بحر الامكان حضرة الجوهرة التی لاتقوم الشيخ
السيد عبد القادر الجيلانی قدس سره فكانت له القطبية بطريق الاستقلال
وبعد ان طار باز روحه الى مقام صدق عند مليك مقتدر عادت لغيره بطريق
النيابة عنه الى ان يظهر للهدي وقد اشار هو الى ذلك بقوله غربت شموس الاولين
وشمسنا ابدا على فلك العلى لاتغرب + وقال فی تفريح الخاطر فی اظهار الشيخ احمد الفاروقی
الترمذي السرهندي كمال رتبة الغوث الاعظم رضي الله عنهما قال فی مكتوباته
ان الطريق الموصل الى الله طريقان احدهما طريق النبوة والواصلون من هذا الطريق
هم الانبياء بالاصالة وقد ختم بخاتم الانبياء صلى الله تعالى عليه وعليهم اجمعين
والثاني طريق الولاية والواصلون من هذا الطريق هم الواصلون بالواسطة وهم
الاقطاب والاوتاد والابدال والنجباء وعامة الاولياء والواسطة فی هذا الطريق سيدنا
علي كرم الله وجهه وتعلق هذا المنصب العالی بحضرته وكان قدما النبيّ صلى الله
عليه وسلم فی هذا المقام على فرقه المبارك كرم الله وجهه وفاطمة والحسنان رضی الله
تعالى عنها وعنهما مشتركون معه فی هذا المقام واظن ان سيدنا عليا قبل نشأة
عنصريته كان ملازما هذا المقام كما كان ملازما بعد نشأة عنصريته ومن وصل
اليه الفيض فانما يصل بواسطتهم اليه لان مبدأ ومنتهى نقطة هذا الطريق ومركز
دائرة هذا المقام تعلقت بهم ولما تم دور سيدنا على فوض هذا المنصب العالی الى الحسنين
وبعدهما الى الائمة الاثنى عشر على الترتيب وفی عصر كل واحد منهم تصل الفيوضات
الى اولياء عصره بواسطته وكان ملجأ لهم وملاذا ولما جاءت نوبة سلطان الاولياء
وبرهان الاصفياء غوث الارض والسماء وغوث الكل محي الدين ابي محمد السيد عبد القادر

فی بیان ان نسب امام الربانی قدس سره الشیخ احمد بن الشیخ عبد الاحد بن الشیخ زین العابدین بن الشیخ عبد الحی بن الشیخ محمد بن الشیخ حبیب الله بن الشیخ رفیع الدین بن الشیخ نصیر الدین بن الشیخ سلیمان بن الشیخ یوسف بن الشیخ اسحاق بن الشیخ عبد الله بن الشیخ شعیب بن الشیخ احمد بن الشیخ یوسف بن الشیخ شهاب الدین ...

الكيلاني رضي الله عنه وافاض علينا بره وفيوضه فوض هذا المنصب العالي الى حضرته ولم يتيسر لاحد بعد حضرات المذكورين سواه فوصول الفيض الالهي للاقطاب والنجباء والاولياء بواسطته في عصره وفي غير عصره ابدا والى هذا اشار بقوله افلت شموس الاولين وشمسنا ؛ ابدا على فلك العلى لا تغرب والشموس جمع شمس والمراد من الشمس شمس فيضان الهداية والارشاد ومن الافول انعدام الفيضات المذكورة وتعلق به ما كان متعلقا بالاولين ؛ وهو واسطة لايصال الفيض الالهي اليهم اجمعين ومادام ايصال الفيض علينا ؛ فبتوصيله يصل الينا انتهى **الثاني والسبعون ومائة** قال في تفريح الخاطر نقل الشيخ موسى التهتوي السهروردي في كتاب المكاشفات الجنيدية تجلى الله على سيد الطائفة الخلوتية الجنيد البغدادي يوم الجمعة في اثناء الخطبة واستغرق في بحر المكاشفة والشهود وقال قدمه على رقبتي بغير سجود وحنى رأسه ونزل مرقاة من مراقي المنبر وبعد افاقته واتمام الخطبة والصلاة سألوا منه عن كيفية ما قال في اثناء الخطبة فقال كشف لي من عالم الغيب انه سيظهر في وسط القرن الخامس رجل من ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يكون قطب العالم وملقبا بمحي الدين ومسمى بالسيد عبد القادر وهو الغوث الاعظم ومولده من كيلان ويكون مامورا بان يقول قدمي هذه رقبة كل ولي وولية لله من الاولين والآخرين سوى الصحابة والائمة من ذرية خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين وخطر لي اني لست من عصره كيف اضع له رقبتي بقوله فجاء في الخطاب من الله بالعتاب لاي شئ ثقل عليك هذا الامر فانه محبوبي ومن ذرية حبيبي وشأنه بين الاقطاب والاولياء كشأن رسولي محمد صلى الله عليه وسلم بين الانبياء وحضر جميع الاولياء بارواحهم واجسادهم حين قوله قدمي هذه على رقبة كل ولي وولية لله لوضع رقابهم وانقيادهم اليه

بن الشيخ نصير الدين بن الشيخ محمود بن الشيخ ابي عبد الله بن الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ الواعظ الاكبر بن الشيخ اسحق بن الشيخ ناصر الدين بن الشيخ عبد الله بن امير المؤمنين رابع الخلفاء سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وام الشيخ ناصر الدين بنت امير المؤمنين المذكور الحسن بن امير المؤمنين علي رضي الله عنه ... بن ...

فلهذا قلت قدمه على رقبتي فمرتبته فوق مراتب الاولياء رضوان الله تعالى عليهم اجمعين **الثالث والسبعون ومائة** قال الاديب الفاضل الشيخ مصطفى البابي الحلبي في ديوانه هذه القصيدة يمدح بها حضرة سيدنا ومولانا شيخ الاسلام والمسلمين غوث الثقلين السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني رضي الله عنه ونفعنا به

برق تألق وهنا والدجا هادي	على العواصم من اكناف بغدادي
جافى جنوب رجال عن مضاجعها	وبات يولع اشجانا باكباد
نار على الكرخ تصلي حر ما مهج	بالشام تمزج تقريبا بابعاد
تزجي سحائب اجفان موكلة	بالسفح ما عن برق او حدا حادي
شوقا الى الجانب الشرقي ان به	قوما حنيني اليهم بعض اورادي
قد مازج الروح مني حبهم ورسا	ودادي في فوادي قبل ايجادي
لا تسجع الورق الا من تذكرهم	ولا يترجم الا عنهم الشادي
في كل حسن بدا في الكون اشهدهم	واجتلي نارهم في كل وقاد
هم عدتي هم عمادي هم رجائي هم	اذا لبست شعار الفخر اسيادي
هلا انت يا بارك الزوراء اخبرنا	عن غير جهل بما عن ذلك النادي
عما تضمن من مجد ومن شرف	وما تكنف من صيد وامجاد
من كل ازهر يستسقى بغرته	صوب الغمام وتروى غلة الصادي
بل كل اغر ذي طهر ترهبه	صيد الملوك وتلوى لاسمه الهادي
اولئك القوم كل القوم جارهم	بمستقر السها عن سطوة العادي
نعم اذا الدهر ابدى لي نواجذه	فمعلقي وملاذي عترة الهادي
رقي السموم اطباء القلوب هدا	ة الخلق يوخذ عنهم كل استاذ

للباز الاشهب عبد القادر انتجعت	آمالنا واستزادت خير مرتاد
اذا طمى البؤس وانثالت مسائله	لذنا به واذ رانا صخرة الوادي
متى تردماء بعد ادركائبنا	فابشر فانت من الزلفى بميعاد
هنالك الشرف لاعلى ومحتد لا	فضل عميم وفيض رائح غادي

الرابع والسبعون ومائة قال في الملفوظ الغياثي الخامس والسبعون ومائة في هداية الاحوال السادس والسبعون ومائة قال في منازل الاولياء السابع والسبعون ومائة قال في الالتباس الثامن والسبعون ومائة قال في المرآة الضمير التاسع والسبعون ومائة قال في الانوار المحمدي الثمانون ومائة قال في المجموعة الفضائل الحادي الثمانون ومائة قال في المقامات الدستگيرية للنقشبندية الثاني والثمانون ومائة في بيان التاريخ آبائه الكرام الغوث الثقلين قطب الكونين ابو محمد محي الدين السيد عبد القادر الحسني الحسيني الجيلاني رضي الله عنه الى الامام الحسن رضي الله عنه قال في التنوير السير وهي باللغة الفارسية ان الحضرة الغوث الاعظم قطب الاكرم سلطان الاولياء برهان الاصفياء قطب الاقطاب فرد الاحباب غوث الثقلين كهف الخافقين السيد ابو محمد محي الدين السيد عبد القادر الحسني الحسيني الجيلاني رضي الله عنه وارضاه عنا سيد حسني من جانب الاب وحسيني من جانب الام وامه ام الخير امة الجبار بنت السيد عبد الله الصومعي الزاهد ولد في سنة احدى سبعين واربعمائة بجيلان وعيش احدى وتسعين سنة وتوفي اثنين وستين وخمسمائة ابن السيد ابو صالح موسى جنگی دوست اسمه موسى ولقبه جنگی دوست وكنيته ابو صالح ابن السيد عبد الله وامه عائشة بنت الشيخ ابو النصر بن الشيخ عبد الله من المشايخ الجيلان الكبار ولد يوم الاربعا من الخامس العاشر

كمال الدين عيسى ابن السيد الامام ابي علاء الدين محمد الجواد ابن الامام السيد علي الرضا ابن الامام موسى [illegible] ابن جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زين العابدين ابن الامام سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين ابن الامام السيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعنهم اجمعين

الشهر الشعبان في زمن شاه محمود بن شاه علاء الدين في سنة من الهجرية اذا بلغ
تسع وستين سنة ولد السيد عبد القادر في اول شهر الرمضان وعيش تسع
وثمانين سنة وتوفي يوم الجمعة اثنا عشر من ربيع الاول في زمن شاه عباس
بن شاه محمود وقبره بجيلان ونقش خاتمه هو الحي القيوم وخادمه احمد بن الصالح
واولاده الذكور اثنان السيد عبد القادر رضي الله عنه والسيد محمد السيد
محمد توفي شابا ابن السيد عبد الله الصالح المذكور اسمه عبد الله ولقبه الصالح
وكنيته ابي محمد صادق ابن السيد يحي الزاهد وامه حميدة بنت الشيخ عقيل ابن
الشيخ موسى الجيلاني ولد بجيلان يوم الاربعا احدى العشر من محرم في زمن شاه
علاء الدين بن شاه فيروز في سنة (٤٢٣) من الهجرة اذا بلغ عشرين سنة ولد
السيد ابو صالح موسى وعيش في سنة تسع واربعين وتوفي يوم الاحد سابع
الصفر في زمن شاه ضياء الدين بن شاه علاء الدين وتوفي في مرض حمى الدق ونقش
خاتمه وما امروا الا ليعبدوا الله وخادمه محمد هاشم وله ابنان عبد الوهاب
والثاني ابو صالح موسى وفي بحر الانساب الجامع وهو مستغرق بذكر سبحانه وتعالى
وباسم انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو وقبره في الجبل الكنور وهو قريب
بقريه بدرتيما ابن السيد يحي الزاهد بن السيد محمد بن السيد داود اسمه يحي
ولقبه زاهد وتقي وكنيته ابو علي وامه فاطمة بنت الشيخ محمد بن احمد الباقلاني
من المشايخ الكبار البالغين روسا وسار زهادهم وله احوال عالي وكرامات ظاهرة ولد بقلمينا
وهي قريب من الكيلان يوم السبت في الشوال في عصر شاه فيروز بن شاه عزة
في سنة (٤٠٥) اذا بلغ تسعة عشرة سنة ولد سيد عبد الله الصالح بجيلان
في المحلة توران وعيش ثمان واربعين سنة وتوفي يوم الجمعة تسعة وعشرين من
شهر رمضان في عصر شاه علاء الدين بن شاه فيروز سنة ثلث وخمسين واربعمائة

بمرض الكابوس وقبره بجيلان ونقش خاتمه هو الحي القيوم وخادمه نور الحق ابن الفضل
وله اولاد الذكور والاناث الذكور اثنان موسى وعبد الله الصالح وبنت واحد
اسمه سليمة موسى وسليمة مات صغيرا ابن السيد محمد بن السيد داؤد السيد
محمد عابدين اسمه محمد ولقبه عابدين وكنيته ابي احمد تاج الدين بن السيد داؤد
وامه حليمة بنت الشيخ نجيب ابن الشيخ ابن القاسم الشبنكي ولد بقلمينا يوم الاربعا
من ربيع الآخر في عصر شاه سليمان بن شاه احمد في سنة اربع وثمانين وثلثمائة
اذا بلغ الحادي والعشرون سنة ولد سيد يحي الزاهد وعيش احدى وخمسين سنة
وتوفي يوم الجمعة في التاريخ من العاشر رجب في عصر شاه سليمان بن شاه احمد في
سنة خمس وثلاثين واربعمائة بقلمينا وقبره بگيلان ونقش خاتمه ان الله بالغ امره
واولاده تسعة البنين ستة والبنات ثلثة الاول عبد الواحد والثاني عبد الوهاب
والثالث عبد الرزاق والرابع يحي الزاهد والخامس عبد القادر والسادس احمد
والبنات ثلاثة الاول امينة الثانية زينب والثالثة عايشة مات ثمان نفرا صغيرا
في القلمينا والباقي السيد يحي وخادمه محفوظ بن زكريا السيد ابابكر داؤد بن السيد
موسى زكريا اسمه داؤد ولقبه سراج الدين وكنية ابابكر وابوه موسى زكريا وامه
فاطمة بنت الشيخ عثمان القستري من الشيخ محمد من المشايخ الكبار العراق ولد
يوم الاثنين في التاريخ التاسع من جمادى الثاني في عصر شاه عزة بن شاه مصطفى
في سنة سبع وتسعين ومائتين في الكيماني اذا بلغ سبع وعشرون سنة ولد
السيد محمد وعيش ثلاث وتسعين سنة وتوفي يوم الخميس بمرض الافلج في عصر
شاه احمد بن شاه نواز في التاريخ سبع وعشرون من شعبان سنة تسعين وثلثمائة
في اطراف البلخ وذهب لسبب الحصول العلم في البلدة سمرقند وقبره بسمرقند
ونقش خاتمه ان الله على كل شئ قدير وخادمه قاسم بن عمر وله سبع اولاد

الذكور والاناث ومن الذكور الاول محمد قاسم والثاني عبد الله المحمد والثالث محمد
عابدين والرابع شهاب الدين ومن الاناث زينب وجنة وعزة السيد موسى
زكريا بن السيد عبد الله اسمه موسى ولقبه شرف الدين وكنية ابو زكريا وامه
حفيظة بنت الشيخ ابو سعيد ابن قائل بن ابي عبد الله الصوفي ولد يوم الاحد
في التاريخ احدى وعشرون من ذي الحجة الحرام في عصر سبحانقليخان ابن السلطان
قليخان في سنة تسعة وسبعين ومأتين من الهجرة في النعمان اذا بلغ عشرون سنة
ولد السيد ابابكر داؤد وعيش ستين سنة وعشر شهرا وتوفي يوم الجمعة في التاريخ
ستة من ربيع الاول في عصر سليمان قليخان بن سبحان قليخان في سنة اربعين
وثلثمائة في النعمان بمرض السرسام وقبره بجيلان ونقش خاتمه ان رحمة الله قريب
من المحسنين وخادمه عمر بن الخالد وله الاولاد الذكور والاناث والذكور ثلث
عبد الوهاب وعبد القادر وابابكر داؤد وعبد القادر توفي صغيرا في النعمان السيد
عبد الله بن السيد موسى الجون اسمه موسى ولقبه تاج الدين وابوه السيد
موسى الجون بن السيد عبد الله المحض وامه آمنة بنت مامون بن هارون ولد
في الطوس يوم الاربعا في الرمضان في عصر مقسط بالله بن مقتد بالله في سنة عشرون
ومأتين من الهجرة اذا بلغ السابع عشر سنة ولد السيد موسى زكريا وعيش سبعين
سنة وتسع شهرا وتوفي يوم السبت من السابع جمادى الاخر في عصر منعم بالله
بن منقسم بالله في سنة ثمانين ومأتين في الشتالف بحر بالمرو ابيون في الجبل الجم
بجرح الرمح من يد مسلم بن ابراهيم اولاد الاخ المروان وقبره في النعمان ونقش خاتمه
حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وخادمه هاشم بن احمد المتوكل وله ابن
وبنات ابن موسى زكريا وبنات عجوزة ورحمة توفي عجوزة ورحمة صغيرا في الشتالف
السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض اسمه موسى ولقبه الجون وكنيته

ابوشه ابن الدین، وامه لبانة بنت الشیخ فیض الله من المشایخ الکبار الموصل ولد یوم
الاثنین فی التاسع رجب فی سنة ستة واربعین ومائة فی عصر مامون بن هارون
فی البدیعی اذا بلغ خمس وعشرون سنة ولد السید عبد الله فی بلاد الطوس یوم
الجمعة من الشهر الصفر فی عصر مقتدر بالله سنة اربعة وعشرون ومأتین وعیش
تسع وخمسین سنة واربع شهرا وقاتله هادی بن مامون بن الولید بن عبد الملك
بن المروان وقبره فی الطوس ونقش خاتمه لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش
العظیم خادمه محمد بن احمد المتوکل وله اولاد الذکور خمس وبنات اثنین الاول صالح
والثانی شرف الدین والثالث یحیی والرابع یحیی والخامس عبد الله وبنات سلیمة وفاطمة
وفی کنز الانساب السید موسی الجون بنت امام محمد الباقر اسمه رقیة ولد ابنین
السید ابراهیم لیس له اعقاب والسید عبد الله وله اعقاب انتهی ابن السید عبد الله
المحض اسمه عبد الله لقبه بالمحل وکنیته ابو محمد ابن الامام السید الحسن المثنی وامه
فاطمة بنت امیر المؤمنین الامام الحسین رضی الله عنه ولد یوم الخمیس من الخامس
العاشر الشهر الشعبان فی النیسان فی سنة خمسة خمسین وفی روایة اربع وسبعین
هو الاصح فی عصر سلیمان بن ابراهیم اذا بلغ تسع وعشرون سنة ولد السید موسی
الجون وعیش تسع وستین سنة وخمس شهرا وتوفی یوم السبت من العاشر المحرم
فی سنة ثلث واربعین ومائة فی عصر ولید بن ابراهیم فی الموصل وقاتله ابن مسلم
بن عقبة ونقش خاتمه عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم وخادمه جعفر
بن احمد المتوکل واولاده الذکور والاناث ومن الذکور ابو القاسم محمد کنیته ابو القاسم
وموسی الجون وابراهیم وعبد الله ویحیی وسلیمان وادریس ومن الاناث زبدة النساء
وسکینة وزینب ابن السید الحسن المثنی ابن الامام سیدنا الحسن رضی الله عنه
اسمه حسن ولقبه محمد وابی عبد الله وکنیة ابو عبد النبی وامه کدبانو بنت شید

بن یزدجرد بن شهریار ولد یوم الاثنین فی الشلوزان فی التاریخ التاسع والعشرون
من رمضان المبارک فی سنة خمس واربعین سنة فی عصر امیر المؤمنین معاویة
رضی الله عنه اذا بلغ خمس عشرة سنة خاطب بنت العم الحسین رضی الله عنه ونکح
فاطمة بنت الحسین رضی الله عنه واذا بلغ سبع وعشرین سنة ولد عبد الله المحض
وعیش ست وخمسین سنة وتوفی یوم الخمیس من خامس الشوال سنة الحادی ومائة
وقبره فی النیسان ونقش خاتمه والله بصیر بالعباد وفی روایة مات الحسن بن
الحسن سنة سبع وتسعین وله خمس وثمانون سنة وخادمه احمد بن عبد الله
وله ابنان عبد الله المحض ومحسن وبنت خیر النساء وفی کنز الانساب حسن المثنی
من بطن صفورہ بنت سعد ابن زید ابن الخطاب وهو اخ سیدنا عمر بن الخطاب
رضی الله عنه وقال عمدة المحدثین وافضل المتورعین محمد بن
اسمعیل البخاری فی صحیح البخاری فی باب الجنائز باب ما یکره
من اتخاذ المسجد علی القبور ولما مات الحسن بن الحسن بن علی ضربت امراته
القبة علی قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا یقول الا هل وجدوا ما فقدوا فاجابه
آخر بل یئسوا فانقلبوا انتهی قال العالم الفاضل الشیخ الشبلنجی فی کتابه نور الابصار
فی مناقب آل بیت النبی المختار اما الحسن بن الحسن الملقب بالمثنی فکان جلیلا
مهیبا فاضلا رئیسا ورعا زاهدا وکان یلی صدقات امیر المؤمنین علی بن ابیطالب
رضی الله عنه یحکی عنه انه سایر الحجاج یوما بالمدینة والحجاج اذ ذاک امیر بها فقال
له الحجاج یا حسن ادخل معک عمک عمر فی النظر علی صدقات ابیه فانه عمک وبقیة
اهلک فقال الحسن لا اغیر شرطا اشترطه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله
عنه ولا ادخل فی صدقاته من لم یدخله فقال له الحجاج انا ادخله معک قهرا
فامسک الحسن عنه ثم ما کان منه الا ان فارقه وتوجه من المدینة الی الشام

ما یکره من اتخاذ المساجد علی القبور بیان میں ہے کہ جب امام حسن بن حسن بن علی رضی اللہ عنہم کی وفات ہوئی تو ان کی اہلیہ نے ایک سال تک ان کی قبر پر قبہ لگایا پھر اٹھا دیا گیا

قاصدا عبد الملك بن مروان فلما اتی الشام وقف بباب عبد الملك يطلب الاذن عليه فوافاه يحيى بن ام الحكم وهو على الباب فسلم عليه وقال ماجاءبك فاخبره بخبره فقال له اسبقك بالدخول على عبد الملك ثم ادخل انت فتكلم واذكر قصتك فترى ما افعل معك وانصفك عنده ان شاء الله تعالى فدخل يحيى فدخل بعده الحسن فلما نظره عبد الملك رحب به واحسن مسئالته وكان الحسن قد اسرع اليه الشيب فقال له عبد الملك قد اسرع اليك الشيب يا ابا محمد فقال يحيى ومايمنعه عن ذلك يا امير المؤمنين شيبته امانی اهل العراق يفد عليه الركب بعد الركب فی كل سنة يمنونه الخلافة فقال الحسن بئس والله الوفد رفدت وليس الامر كما قلت ولكنا اهل البيت يسرع الينا الشيب وعبد الملك يسمع كلامه فاقبل عبد الملك على الحسن وقال لا عليك هلم حاجتك يا ابا عبد الله فاخبره بقول الحجاج فقال عبد الملك ليس ذلك له وكتب له للحجاج كتابا يتهدده فيه ووصله باحسن صلة وجهزه وهو راجع الى المدينة وبعد ان خرج الحسن من عنده قصده يحيى الى منزله فقال كيف رأيت ما فعلت معك فقال والله انی عاتب عليك فيما قلت فقال انهالك والله ما آلوبك نفعا ولا ادخرت عنك جهدا ولولا كلمتی هذه ماهابك ولا قضى لك حاجة فاعرف لی ذلك وفی الفصول المهمة والاغانی يروی ان الحسن بن الحسن رضی الله عنهما خطب الى عمه الحسين احدی بنتيه فاطمة وسكينة فقال اختر يا بنی احبهما اليك فاستحی الحسن ولم يرد جوابا فقال له عمه الحسين رضی الله عنه قد اخترت لك ابنتی فاطمة فهی اكثر شبها بامی فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها منه وحضر الحسن بن الحسن مع عمه الحسين بطف كربلاء فلما قتل الحسين واسر الباقون من اهله اسر الحسن فی جملتهم فجاء اسماء بن خارجة فانتزع الحسن من بين الاسرى وقال

والله لا يوصل الى ابن خولة ابدا مات الحسن بن الحسن سنة سبع وتسعين وله
خمس وثمانون سنة واخوه زيد حي واوصى الى اخيه من امه ابراهيم بن محمد
بن طلحة وضربت زوجته فاطمة بنت الحسين عمه على قبره فسطاطا وكانت تقوم
الليل وتصوم النهار وكانت تشبه بالحور العين لجمالها فلما كانت رأس السنة قالت
لمواليها اذا اظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط فلما اظلم الليل وقوضوه سمعت قائلا
يقول هل وجدوا ما فقدوا فاجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا انتهى واعقب الحسن
بن الحسن خمسة رجال عبد الله المحض وابراهيم القمر والحسن المثلث وامهم
فاطمة بنت الحسين بن على بن ابي طالب كرم الله وجهه وداود وجعفر وامهما
ام ولد تدعى حبيبة كذا فى بحر الانساب انتهى ايضا قال الشبلنجي في نور الابصار
فصل في ذكر مناقب السيدة فاطمة بنت الحسين بن على بن ابي طالب رضوان الله
عليهم امها ام اسحق التيمية بنت طلحة بن عبيد الله كذا قاله الخطيب البغدادي
ومثله فى الفصول المهمة وتزوج فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهما ابن عمها
حسن المثنى بن الحسن السبط عمها فولدت له عبد الله ويلقب بالمحض وانما
سمى بالمحض لمكانه من الحسنين وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان شيخ بني هاشم قيل له لم صرتم افضل الناس فقال لان الناس كلهم يتمنون
ان يكونوا منا ولا نتمنى ان نكون من احد وكان قوي النفس شجاعا ورعا قال ومنه من الشعر شيء

بيض حرائر ماهممن بريبة	كظباء مكة صيدهن حرام
يحسبن من لين الكلام زوانيا	ويصدهن عن الخنا الاسلام

وكان عبد الله يلى صدقات امير المؤمنين على بن ابي طالب بعد ابيه الحسن
ونازعه فى ذلك زيد بن على بن الحسين ولهما في ذلك حكايات مشهورة في
كتب التواريخ ومات عبد الله المحض فى حبس ابي جعفر الدوانيقي مخنوقا وولدت

ایضا فاطمة بنت الحسین صاحبة الترجمة للحسن المثنی ابراهیم القمر والحسن
المثلث وکل منهم له عقب اهـ من بحر الانساب وفی بغیة الطالب ومات المحض
هو واخوته فی سجن المنصور العباسی وکان موته سنة خمس واربعین ومائة
قال وسمی بالمحض لانه اول من جمع بین ولادة الحسن والحسین من الحسنیة
واول من جمعها من الحسینیة محمد الباقر اهـ ثم مات عنها الحسن فتزوجها عبد الله
بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم وفی الاغانی خطب الحسن بن الحسن
بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم الی عمه الحسین فقال له الحسین یا ابن اخي
قد کنت انتظر هذا منك انطلق معی فخرج به حتی ادخله منزله فخیره فی ابنتیه
فاطمة وسکینة فاختار فاطمة فزوجه ایاها قال عبد الله بن موسی فی خبره ان
الحسین خیره فاستحي فقال له قد اخترت لك فاطمة بنتی فهی اکثر شبها بامی فاطمة
بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اهـ ومثله فی الفصول المهمة وتاریخ الخطیب
البغدادي من روایة الزبیر بن بکار وروی عنها الامام احمد وابن ماجه عن ابیها
الحسین رضي الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم حدیث ما من مسلم یصاب
بمصیبة فیذکرها وان قدم مشهدها فیحدث لها الاسترجاع الا کتب الله له من
الاجر مثل یوم اصیب وفی درر الاصداف ولما حضرت الحسن زوجها الوفاة قال
لفاطمة انك امرأة مرغوب فیك وکانی بعبد الله بن عمرو بن عثمان اذا خرج
بجنازتی قد خرج علی فرس مرجلا جمته لابسا حلته یسیر فی جانب الناس یتعرض
لك فانکحی من شئت سواه فانی لا ادع من الدنیا ورائی هما غیرك فقالت له آمن
من ذلك وحلفت له بالعتق والصدقة انها لا تتزوجه ثم مات الحسن وخرج
عبد الله بن عمرو بجنازته فی الحالة التي وصفه بها الحسن وکان یقال لعبد الله
بن عمرو المطرف لحسنه فنظر الی فاطمة حاسرة تضرب وجهها فارسل یقول لها

ان لنا في وجهك حاجة فارفقي به فاستحيت وعرف ذلك منها وخمرت وجهها
فلما حلت ارسل اليها يخطبها فقالت كيف بايماني التي حلفت له بها فأرسل اليها
يقول لها لك بكل مملوك مملوكان وعن كل شئ شيا آن فعوضها عن يمينها فنكحته
وولدت له محمدا والقاسم وكان عبد الله بن الحسن المثنى ولدها يقول ما ابغضت
بغضي عبد الله بن عمرو احدا ولا احببت حب ابنه محمد احدا اهـ وفي الفصول المهمة
ولما مات الحسن المثنى بن الحسن ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين على قبره فسطا
طا وكانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت تشبه بالحور العين لجما لها فلما كان رأس
السنة قالت لمواليها اذا اظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط فلما اظلم الليل وقوضوه
سمعت قائلا يقول هل وجدوا ما فقدوا فاجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا انتهى وكانت
فاطمة رضي الله عنها كريمة * وفي الفصول المهمة ايضا ان يزيد لما جهزهم الى المدينة
بعد قتل ابيها الحسين رضي الله عنه ارسل معهم رجلا امينا من اهل الشام في
خيل سيرها صحبتهم الى ان دخلوا المدينة فقالت فاطمة بنت الحسين لاختها
سكينة قد احسن هذا الرجل الينا فهل لك ان تصليه بشئ فقالت والله ما معنا
ما نصله به الا ما كان من هذا الحلى قالت فافعلي فاخرجت له سوارين ودملجين
وبعثتا بهما اليه فردهما وقال لو كان الذي صنعته رغبة في الدنيا لكان في هذا
مقنع بزيادة كثيرة ولكني والله ما فعلته الا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه
وسلم وكانت فاطمة اكبر سنا من سكينة اهـ قال القطب الشعراني في كتابه الانوار عن
شيخه الخواص ان السيدة فاطمة النبوية بنت الامام الحسين السبط مدفونة بالدرب
الاحمر اهـ وقال الشيخ عبد الرحمن الاجهوري الكبير السيدة فاطمة النبوية بنت الحسين
السبط مدفونة خلف الدرب الاحمر في زقاق يعرف بزقاق فاطمة النبوية في مسجد
جليل ومقامها عظيم وعليه من المهابة والجلال والوقار ما يسر قلوب الناظرين

ولنا فيها ارجوزة عظيمة ولنا اجاز يارات وما اشتهر من ان فاطمة النبوية بدرب سعادة غير صحيح وعلى تقدير صحته يحتمل ان يكون معبدها ويحتمل ان تكون فاطمة اخرى من بيت النبوة اهر وهو موافق لما قالوه من ان اولاد الحسين رضي الله عنه الاناث ثلاث سكينة وزينب وفاطمة واحدة ثم رأيت في درر الاصداف ماهو صريح في ان للحسين فاطمة صغرى وفاطمة كبرى وعبارته وبالاسناد عنهم لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه جاء غراب فتمرغ في دمه وطار حتى وقع بالمدينة على جدار فاطمه بنت الحسين بن علي رضي الله عنهما وهي الصغرى فرفعت رأسها ونظرت اليه وبكت بكاء شديدا وانشأت تقول

نعق الغراب فقلت من	تنعيه ويحك يا غراب
قال الامام فقلت من	قال الموفق للصواب
قلت الحسين فقال لي	بمقال محزون اجاب
ان الحسين بكربلا	بين الاسنة والضراب
ابكي الحسين بعبرة	ترضى الاله مع الثواب
ثم استقل به الجنا	ح فلم يطق رد الجواب
فبكيت مما حل بي	بعد الرضى المستجاب

فنعته لاهل المدينة فما كان باسرع من ان جاءهم خبر قتل الحسين رضي الله عنه انتهى هذا وقد مر آنفا ان فاطمة كانت مع ابيها بكربلاء وانها كانت اكبر سنا من سكينة لا يقال اذا كان للحسين فاطمة صغرى وفاطمة كبرى عن هذا فما المانع من ان فاطمة التي بدرب سعادة احداهما لانا نقول هذا مما يحتاج الى نقل والشيخ الاجهوري حجة نفعنا الله ببركاته وامدنا من امداداته تنبيه من اهل البيت بقرب مزار الشيخ الحموي بدرب سعادة السيدة صفية بنت اسمعيل بن محمد بن اسمعيل بن قاسم بن ابراهيم بن اسمعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنى

بن الحسن السبط بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم توفيت صفية ليلة الخميس تاسع المحرم سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة من الهجرة النبوية كذا نقلته من خط بعض الفضلاء وعزاه لكتاب الانساب للشيخ منصور بن عبد الحق الاهريتي الفيومي وفي رحلة ابن بطوطة بعد الكلام على غزة ما نصه وبالقرب من هذا المسجد مغارة فيها قبر فاطمة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم وبأعلى القبر واسفله لوحان من الرخام في احدهما مكتوب منقوش بخط بديع بسم الله الرحمن الرحيم لله العزة والبقاء وله ما ذرأ وبرأ وعلى خلقه كتب الفناء وفي رسول الله اسوة هذا قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه وفي اللوح الآخر منقوش صنعه محمد بن ابي سهل النقاش بمصر وتحت ذلك هذه الابيات

اسكنت من كان في الاحشاء مسكنه	بالرغم مني بين الترب والحجر
يا قبر فاطمة بنت ابن فاطمة	بنت الائمة بنت الانجم الزهر
يا قبر ما فيك من دين ومن ورع	ومن عفاف ومن صون ومن خفر

اهـ ما اورده الشيخ الصالح ومن كلام فاطمة رضي الله عنها والله ما نال احد من اهل السفه بسفههم شيأ ولا ادركوا من لذاتهم شيأ الا وقد ناله اهل المروآت فاستتروا بجميل ستر الله توفيت رضي الله عنها سنة عشر ومائة كذا في كتب التواريخ انتهى حسن المثنى المذكور ابن **الامام سيدنا الحسن السبط ابن الامام** علي بن ابي طالب رضي الله عنهما ابن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الحسن رضي الله عنه في منتصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة وهو اول اولاد علي وفاطمة رضي الله عنهما روي مرفوعا الى علي ابيه رضي الله عنهما قال لما حضرت ولادة فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت عميس وام سلمة رضي الله عنهما احضرا فاطمة فاذا وقع ولدها واستهل صارخا

له في تاريخ الخلفاء سيدنا الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم ابو محمد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وآخر الخلفاء بنصه اخرج ابن سعد عن عمران بن سليمان قال الحسن والحسين اسمان من اسماء اهل الجنة ما سميت العرب بهما في الجاهلية ولد الحسن رضي الله عنه في نصف رمضان سنة ثلث من الهجرة

فاذنا في اذنه اليمنى واقيما في اذنه اليسرى فانه لايفعل ذلك بمثله الاعصم من الشيطان
ولاتحدثا شيأ حتى آتيكما فلما ولدت فعلتا ذلك واتاه رسول الله صلى الله عليه
وسلم فسره ولبأه بريقه وقال اللهم انى اعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم
فلما كان اليوم السابع من مولده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سميتوه قال
حربا قال بل سموه حسنا وعاش سبعا واربعين سنة وشهد بالسم من يد العجوزة
من سابع بيع الاول يوم الخميس من وقت الصبح فى سنة خمسين وقيل تسع واربعين وقيل
غير ذلك من الهجرة وصلى عليه سعيد بن العاص فانه كان واليا يومئذ بالمدينة من
جهة معاوية رضى الله عنه ودفن بالبقيع عند جدته فاطمة بنت اسد وكان
عمره اذا سبعا واربعين سنة وكانت مدة خلافته منها ستة اشهر وخمسة ايام
قال الشبلنجي في نور الابصار عن اسماء بنت عميس قالت قبلت فاطمة بالحسن فلم
ارلها دما فقلت يارسول الله انى لم ارلفاطمة دما فى حيض ولانفاس فقال لها عليه
السلام اما علمت ان ابنتى طاهرة مطهرة لايرى لها دم فى طمث ولاولادة خرجه
الامام على بن موسى الرضا وعق عنه صلى الله عليه وسلم فعن على رضى الله عنه
عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن وقال يافاطمة احلقى رأسه وتصدقى
بزنة شعره فضة فوزنتاه فكان وزنه درهما اوبعض درهم اخرجه الترمذي وعن
اسماء بنت عميس قالت عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن يوم سابعه
بكبشين املحين واعطى القابلة الفخذ وحلق رأسه وتصدق بزنة الشعر ثم طلى
رأسه بيده المباركة بالخلوق وختنه صلى الله عليه وسلم عن جابر ان النبي صلى
الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة ايام وارضعته ام الفضل
امرأة العباس بن عبد المطلب بلبن ابنها قثم فعن قابوس ان ام الفضل قالت يارسول
الله رأيت كأن عضوا من اعضائك في بيتى فقال خيرا رأيتيه تلد فاطمة غلاما

فترضعيه بلبن قثم فولدت فاطمة الحسن فارضعته بلبن قثم خرجه الدولابي والبغوي
في معجمه قالت فجئت به الى النبيّ صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فبال فضربت
كتفه فقال عليه السلام اوجعت ابني رحمك الله وفي الصفوة عن علي قال الحسن
اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر الى الرأس والحسين اشبه
الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل من ذلك عن ابي هريرة رضي الله
عنه قال لا ازال احب هذا الرجل يعني الحسن بن علي بعد ما رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يصنع به ما يصنع قال رأيت الحسن في حجر النبيّ صلى الله عليه وسلم
وهو يدخل اصابعه في لحية النبيّ صلى الله عليه وسلم والنبيّ صلى الله عليه وسلم
يدخل لسانه في فيه ثم يقول اللهم اني احبه كذا في ذخائر العقبى صفة الحسن
رضي الله عنه كان ابيض مشربا بحمرة ادعج العينين سهل الخدين كث اللحية ذا وفرة
كأن عنقه ابريق فضة عظيم الكراديس بعيد ما بين المنكبين ربعة ليس بالطويل
ولا بالقصير من احسن الناس وجها وكان يخضب بالسواد وكان جعد الشعر حسن
البدن ذكره الدولابي وغيره عن محمد ابن علي قال الحسن اني لاستحيي من ربي عز وجل
ان القاه ولم امش الى بيته فمشى عشرين مرة من المدينة على رجليه وعن علي بن
زيد قال حج الحسن خمس عشرة حجة ماشيا وان النجائب لتقاد معه وفي حياة الحيوان
وقاسم الله عز وجل ماله ثلاث مرات حتى انه ليعطي نعلا ويمسك اخرى وكنيته ابو
محمد واما القابه فكثيرة وهي التقي والزكي والسيد والسبط والولي واكثرها شهرة التقي
واعلاها رتبة ما لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ان
ابني هذا سيد روى البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحرث قال صلى ابو بكر رضي الله
عنه العصر ثم خرج يمشي ومعه علي رضي الله عنهما فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب
مع الصبيان فحمله ابو بكر رضي الله عنه على عاتقه وقال بابي شبيه بالنبي صلى الله

ت اسعاف الراغبين واخرج ابو نعيم في الحلية عن الحسن انه قال اني لاستحيي من ربي ان القاه ولم امش الى بيته فمشى عشرين مرة من المدينة على رجليه واخرج الحاكم عن عبد الله بن عبيد قال لقد حج الحسن خمسا وعشرين حجة ماشيا وان النجائب لتقاد بين يديه وفي نور الابصار ونشاري الانصار ومروياته من الاحاديث ثلاثة عشر حديثا كذا والاسامات وكاتبه سعد الله بن ابي ... رضي الله تعالى عنهم

عليه وسلم ليس شبيها بعلي قال وعلي رضي الله عنه يتبسم وقد ورد في فضله رضي الله عنه احاديث كثيرة فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم مرفوعا الى البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم اني احبه فاحبه وروى الترمذي مرفوعا الى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو وروى عن الحافظ ابي نعيم فيما اورده في حديثه عن ابي بكر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيجيء الحسن رضي الله عنه وهو ساجد وهو اذ ذاك صغير فيجلس على ظهره ومرة على رقبته فيرفعه النبي صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا فلما فرغ من الصلاة قالوا يا رسول الله انا رأيناك تصنع بهذا الصبي شيئا ما رأيناك تصنعه باحد فقال ان هذا ريحانتي وان هذا ابني سيد وعسى الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين وروى الترمذي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة

وفي طبقات الكبرى للقطب الرباني عبد الوهاب الشعراني رحمة الله عليه الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذنه وسماه الحسن وكان حليما كريما ورعا دعاه ورعه وحلمه الى ان ترك الدنيا والخلافة لله عز وجل وكان من المبادرين الى نصرة عثمان رضي الله عنه وولي الخلافة بعد قتل ابيه وبايعه اكثر من اربعين الفا كانوا بايعوا اباه وبقي نحو سبعة اشهر خليفة بالحجاز واليمن والعراق وخراسان وغير ذلك ثم سار اليه معاوية من الشام وسار الى معاوية فلما تقاربا علم انه لن تغلب احدى الطائفتين حتى يقتل اكثر الاخرى

فوصل الى معاوية يبذل له تسليم الامر على ان تكون الخلافة له من بعده وعلى ان لايطالب احدا من اهل المدينة والحجاز والعراق بشئ مماكان ايام ابيه وغير ذلك من القواعد فاجابه معاوية الى ماطلب فاصطلحا على ذلك وظهرت المعجزة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وكان ذلك سنة احدى واربعين وكان اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاعي ولم يمت الحسن حتى قتل عبد الرحمن بن ملجم قاتل الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وسمع رضي الله عنه رجلا يسأل الله عز وجل ان يرزقه عشرة آلاف درهم فانصرف الحسن فارسل بها اليه وكان يقول انى لاستحي من ربي عز وجل ان القاه ولم امش الى بيته فمشى عشرين مرة الى مكة من المدينة على رجليه وكانت الجنائب تقاد معه وخرج من ماله لله تعالى مرتين وقاسم الله تعالى ثلاث مرات حتى انه كان ليعطي نعلا ويمسك نعلا وكان رضي الله عنه يجيز الواحد بمائة الف وكان اذا اشترى من احد حائطا ثم افتقر البائع يرد عليه الحائط ويردفه بالثمن معه وما قال قط لسائل لا وكان لا يعطي لاحد عطية الا شفعها بمثلها وكان يقول لبنيه وبني اخيه تعلموا العلم فان لم تستطيعوا حفظه فاكتبوه وضعوه في بيوتكم ولما شرب السم تقطع كبده فقال اني قد سقيت السم مرارا فلم اسق مثل هذه المرة وقال له الحسين رضي الله عنه يا اخي من تتهم قال لم قال لنقتله قال ان يكن الذى اظنه فالله اشد بأسا واشد تنكيلا وان لم يكن فما احب ان يقتل بي بريء فلما نزل به الموت قال أخرجوا فراشي الى صحن الدار فاخرج فقال اللهم اني احتسب نفسي عندك فاني لم أصب بمثلها ثم قبض سنة خمسين ودفن بالبقيع رضي الله عنه وفي نور الابصار وروى انه لما حضرته الوفاة قال لاخيه

الحسين

الحسين يا اخي قد حضرت وفاتي وحان فراقي لك واني لاحق بربي واجد كبدي
تقطع واني لعارف من اين دهيت وانا اخاصمه الى الله تعالى ثم توفي لخمس خلون
من شهر ربيع الاول سنة خمسين وقيل تسع واربعين وقيل غير ذلك من الهجرة
وصلى عليه سعيد بن العاص فانه كان واليا يومئذ بالمدينة من جهة معاوية
ودفن بالبقيع عند جدته فاطمة بنت اسد وكان عمره اذا سبعا واربعين سنة
وكانت مدة خلافته منها ستة اشهر وخمسة ايام **واما اولاده** فقال ابن ابي الخشاب
احد عشر ابنا وبنت واحدة وهم عبد الله والقاسم والحسن وزيد وعمرو وعبد الله
وعبد الرحمن واحمد واسمعيل والحسين وعقيل والبنت اسمها فاطمة وكنيتها
ام الحسن وهي ام محمد الباقر بن علي وقال الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان
في الارشاد اولاد الحسن بن علي رضي الله عنهم خمسة عشر ولدا ما بين ذكر وانثى
وهم زيد واختاه ام الحسن وام الحسين امهم ام بشر بنت ابي مسعود عقبة بن
عمرو بن ثعلبة الخزرجية والحسن وامه خولة بنت منصور الفزارية وعمرو واخوه
القاسم وعبد الله امهم ام ولد واستشهد واثلاثتهم بين يدي عمهم الحسين
بن علي بطف كربلاء وعبد الرحمن امه ام ولد والحسين الملقب بالا م واخوه
طلحة واختهما فاطمة امهم ام اسحق بنت طلحة بن عبد الله وام عبد الله وفاطمة
وام سلمة ورقية بنات الحسن لامهات اولاد شتى قال الشيخ كمال الدين بن
طلحة لم يكن لاحد من اولاد الحسن عقب غير اثنين وهما الحسن وزيد تذييل
في الكلام على مناقب زيد والحسن ولدي الحسن رضي الله عنهم اما زيد فانه
كان يلي صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جليل القدر كريم الطبع
طيب النفس كثير البر وكان مسنا ومدحه الشعراء وقصده الناس من الآفاق
لطلب بره وكان يلقب بالابلج وهو جد السيدة نفيسة بنت السيد حسن الانور

فيها اليد الطولى وكان خطه من نهاية الحسن ذكره العماد الاصبهاني في الخريدة وعدد فضائله ومحاسنه انتهى

ذكر اصحاب السير انه لما ولي سليمان بن عبد الملك كتب الى عاملة بالمدينة اما بعد اذا جاءك كتابي هذا فاعزل زيد بن الحسن عن صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وادفعها الى رجل من قومه سماه فلما افضت الخلافة الى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب الى عاملة بالمدينة اما بعد فان زيد ابن الحسن شريف بني هاشم وذو سنهم فاذا جاءك كتابي هذا فاردد اليه صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم واعنه على ما استعانك عليه وكانت الصدقة اولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي والعباس قال معمر فغلب عليها علي فكانت بيده ثم بيد ابنه الحسن ثم الحسين ثم علي ابنه ثم الحسن بن الحسن ثم زيد بن الحسن ثم عبد الله بن الحسن ثم وليها بنو العباس انتهى وفي زيد بن الحسن يقول محمد بن بشير الخارجي

وزيد ربيع الناس في كل شتوة	اذا اخلفت ابراقها ورعودها
حمول لاشتات الديات كانه	سراج الدجى قد قارنتها سعودها

مات زيد رضي الله عنه سنة عشرين ومائة وله تسعون سنة ورثاه جماعة من الشعراء فممن رثاه قدامة بن موسى الجمحي بقوله

فان يك زيد غالت الارض شخصه	فقد كان معروف هناك وجود
وان يك امسى رهن رمس فقد ثوى	به وهو محمود الفعال حميد
سريع الى المضطر يعلم انه	سيطلبه المعروف ثم يعود
وليس بقوال وقد حط رحله	لملتمس يرجوه اين تريد
اذا قصر الوغد الدني سما به	الى المجد اباء له وجدود
اذا مات منهم سيد قام سيد	كريم فيبني مجدهم ويشيد

قال صاحب الفصول المهمة مات زيد ولم يدع الامامة ولا ادعاها له مدع

من الشيعة

من الشيعة ولا من غيرهم قال وذلك لان الشيعة رجلان امامى وزيدى فالامامى
يعتمد في الامامة النصوص وهى معدومة في ولد الحسن باتفاق ولم يدع ذلك
احد منهم لنفسه فيقع فيه الارتياب والزيدى يراعى في الامامة بعد على والحسن
والحسين الدعوة والاجتهاد وزيد بن الحسن هذا كان مسالما لبنى امية ومتقلد
الاعمال من قبلهم وكان رأيه التبعية لاعدائه والتأليف لهم والمداراة وهذا
ايضا عند الزيدية خارج عن علامات الامامة وزيد خارج عنها بكل حال انتهى
واما الحسن بن الحسن الملقب بالمثنى فكان جليلا مهيبا فاضلا رئيسا ورعا زاهدا
وكان يلي صدقات امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقال الفاضل
الشيخ محمد بن على الصبان في اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل اهل
بيته الطاهرين نقل سبط ابن الجوزى في كتابه تذكرة الخواص عن ابن سعد
في طبقاته انه كان للحسن من الاولاد محمد الاصغر وجعفر وحمزة ومحمد الاكبر وزيد
والحسن المثنى وفاطمة وام الحسن وام الخير وام عبد الرحمن وام سلمة وام عبد الله
واسمعيل ويعقوب والقاسم وابو بكر وطلحة وعبد الله وعن الاسلمى انهم على الاكبر
وعلى الاصغر وجعفر وعبد الله والقاسم وزيد وعبد الرحمن واسمعيل والحسين الاثرم
وعقيل والحسن وفاطمة وسكينة وام الحسن واقتصر البلاذرى في الانساب على ذكر
الحسن وزيد وحسين وعبد الله وابى بكر وعبد الرحمن والقاسم وطلحة وعمر ونقل
المحب الطبرى عن ابى بشر الدولابى انهم حسن وعبد الرحمن وعمر وزيد وابراهيم وعن
ابى بكر بن الدراع انهم عبد الرحمن والقاسم والحسن وزيد ومعمر وعبد الله واحمد
واسمعيل والحسين وعقيل وام الحسن والعقب الصحيح الموجود الآن من الحسن السبط
لزيد والحسن المثنى لا غير فاما زيد فكان اكبر سنا من اخيه الحسن المثنى وبايع بعد
قتل عمه الحسين عبد الله بن الزبير بالخلافة لان اخته من امه وابيه ام الحسن

كانت تحت عبد الله وعاش مائة سنة على احد الاقوال واما الحسن المثنى فحضر
الطف مع عمه الحسين واثخن بالجراح فلما ارادوا اخذ الرؤس وجدوه وبه رمق
فقال اسماء بن خارجة الفزاري دعوه لي فحمله الى الكوفة وعالجه حتى برئ ولحق
بالمدينة والله اعلم انتهى وفي نور الابصار قال المناوي رأيت في شرح مقدمة
الوصول للشيخ ابراهيم للواهبي نقلا عن شيخه العارف ابي المواهب التونسي رضي
الله عنهما ان اول من تولى القطبانية من المصطفى صلى الله عليه وسلم فاطمة
الزهراء مدة حياتها رضي الله عنها ثم انتقلت منها الى ابي بكر وعمر ثم عثمان ثم
علي ثم الحسن رضي الله عنهم انتهى لكن نقل عن العارف المرسي رضي الله عنه
ان اول الاقطاب مطلقا الحسن بن علي رضي الله عنهما والله اعلم وفي اسعاف
الراغبين واما الحسن فهو رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم
وريحانته وآخر الخلفاء الراشدين بنص جده صلى الله عليه وسلم سمته امه
حربا فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم بل هو الحسن ولم يكن يعرف هذا الاسم
في الجاهلية وكذا اسم الحسين وعق صلى الله عليه وسلم عنه يوم سابعه وحلق
رأسه وامر ان يتصدق بزنة شعره فضة وكان اشبه الناس به عليه الصلاة
والسلام اى من جهة اعلاه والحسين من جهة اسفله كما قاله بعض الفضلاء
جامعا بين الروايتين ولي الخلافة بعد قتل ابيه بمبايعة اهل الكوفة فأقام
بها ستة اشهر واياما خليفة حق وامام عدل وصدق تحقيقا لما اخبر به جده
الصادق المصدوق بقوله الخلافة بعدي ثلاثون سنة فان تلك الاشهر هي
المكملة لتلك السنين فكانت خلافته منصوصا عليها وبعد تلك الاشهر سار
الى معاوية في اربعين الفا وسار اليه معاوية فلما تراآى الجمعان علم الحسن
رضي الله عنه انه لن تغلب احدى الفئتين حتى يذهب اكثر الاخرى فكتب

الی معاویة یخبره انه یصیر الامر الیه علی ان تکون الخلافة له من بعده وعلی ان لا یطلب احدا من اهل المدینة والحجاز والعراق بشیٔ مما کان ایام ابیه و علی ان یقضی عنه دیونه وعلی ان یدفع الیه فی کل عام مائة الف فبعث الیه معاویة برق ابیض وقال اکتب ماشئت فانا التزمه کذا فی کتب السیر والذی فی صحیح البخاری عن الحسن البصری رضی الله تعالی عنه قال استقبل الحسن بن علی معاویة بکتائب امثال الجبال فقال عمرو بن العاص لمعاویة انی لأری کتائب لا تولی حتی یقتل اقرانها فقال له معاویة وکان والله خیر الرجلین ای عمرو ان قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لی بامور المسلمین من لی بنسائهم من لی بضیعتهم فبعث الیه رجلین من قریش من بنی عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الرحمن بن عامر فقال اذهبا الی هذا الرجل فاعرضا علیه وقولا له واطلبا الیه فدخلا علیه وتکلما وقالا له یعرض علیک کذا وکذا ویطلب الیک ویسألک قال من لی بهذا قالا نحن لک به فما سألهما شیئا الا قالا نحن لک به فصالحه اھ ویمکن الجمع بان معاویة ارسل له اولا فکتب الحسن الیه یطلب ماذکر ولما اتصالحا علی ذلک کتب به الحسن کتابا لمعاویة والتمس معاویة من الحسن ان یتکلم بجمع من الناس ویعلمهم انه قد بایع معاویة وسلم الیه الامر ففعل ذلک وبما شرح الله صدره بهذا الصلح ظهرت معجزة النبی صلی الله علیه وسلم فی قوله فی حق الحسن ان ابنی هذا سید وسیصلح الله به بین فئتین عظیمتین من المسلمین رواه البخاری واخرج الدولابی ان الحسن قال کانت جماجم العرب بیدی یسالمون من سالمت ویحاربون من حاربت فترکتها ابتغاء وجه الله تعالی وحقن دماء المسلمین وکان نزوله عنها سنة احدی واربعین فی شهر ربیع الاول وقیل فی جمادی الاولی فکان اصحابه

يقولون له يا عار المؤمنين فيقول العار خير من النار ثم ارتحل من الكوفة الى المدينة واقام بها فصار اميرها يسبه ويسب اباه على المنبر وغيره ويبالغ في اذاه بما الموت دونه وهو صابر محتسب ولما نزل عنها ابتغاء وجه الله تعالى عوضه الله واهل بيته عنها بالخلافة الباطنية حتى ذهب قوم ان قطب الاولياء في كل زمان لايكون الا من اهل البيت وممن قال يكون من غيرهم الاستاذ ابو العباس المرسي كما نقله عنه تلميذه التاج ابن عطاء الله وهل اول الاقطاب الحسن اول من تلقى القطبانية من المصطفى صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء مدة حياتها ثم انتقلت منها الى ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ذهب الى الاول ابو العباس المرسي والى الثاني ابو المواهب التونسي كما في طبقات المناوي انتهى ابن امير المؤمنين وامام الاشجعين **سيدنا علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه** قال الشيخ الامام جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء والشبلنجي في نور الابصار علي بن ابي طالب رضي الله عنه واسم ابي طالب عبد مناف بن عبد المطلب واسمه شيبة بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوئي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة واما القاب الامام علي رضي الله عنه فالمرتضى وحيدر وامير المؤمنين والانزع البطين واما كنية فابو الحسن وابو السبطين وابو تراب كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت احب الكنى اليه كما سبق وكان نقش خاتمه اسندت ظهري الى الله وقيل حسبي الله واخرج ابن عساكر من طريق جعفر بن محمد عن ابيه ان خاتم علي بن ابي طالب كان من ورق نقشه نعم القادر الله واخرج عن عمر بن عثمان بن عفان قال نقش خاتم علي الملك لله وامه فاطمة بنت اسد بن هاشم وهي اول هاشمية ولدت هاشميا قد اسلمت وهاجرت وعلي رضي الله عنه احد العشرة المشهود لهم بالجنة واخو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمواخاة

قوله تزويج بنته الخ قال الامام احمد بن حنبل ما ورد لاحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه اخرجه الحاكم وعن سعد بن ابي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن ابي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي اخرجه احمد البزار

وصِهرُه على فاطمة سيدة نساء العالمين رضى الله عنه واحد السابقين الى الاسلام
واحد العلماء الربّانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين والخطباء المعروفين
واحد من جمع القرآن وعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه
ابو الاسود الدؤلي وابو عبد الرحمن السلمي وعبد الرحمن بن ابي ليلى وهو اول خليفة
من بني هاشم وابو السِّبطَين أسلم قديمًا بل قال ابن عباس وانس وزيد بن ارقم
وسلمان الفارسي وجماعة انه اوّل من أسلم ونقل بعضهم الاجماع عليه واخرج
ابو يعلى عن على رضي الله عنه قال بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
الاثنين وأسلمتُ يوم الثلثاء وكان عمره حين اسلم عشر سنين وقيل تسع وقيل
ثمان وقيل دون ذلك قال الحسن بن زيد بن الحسن ولم يعبد الاوثان قط لصغره
اخرجه ابن سعد ولمّا هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينة أمره ان يقيم بعده
بمكة اياما حتى يؤدّي عنه امانة والودائع والوصايا التي كانت عند النبيّ صلى
الله عليه وسلم ثم يلحقه باهله ففعل ذلك وشهد مع رسول الله صلى الله عليه
وسلّم بدرًا واحدًا وسائر المشاهد الا تبوك فانّ النبىّ صلى الله عليه وسلم استخلفه
على المدينة وله في جميع المشاهد آثار مشهورة واعطاه النبيّ صلى الله عليه وسلم
اللواء في مواطن كثيرة وقال سعيد بن المسيّب أصابت عليا يوم أحد ست عشرة
ضربة وثبت فى الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم اعطاه الراية فى يوم خيبر و
أخبر انّ الفتح يكون على يديه واحواله فى الشجاعة وآثاره فى الحروب مشهورة وكان
عليّ شيخا سمينا أصلع كثير الشعر ربعة الى القصر عظيم البطن عظيم اللحية جدّا قد
ملأت ما بين منكبيه بيضا كانها قطن آدم شديد الأدمة قال جابر بن عبد الله
حمل عليّ الباب على ظهره يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها وانهم جرّوه
بعد ذلك فلم يحمله الا اربعون رجلا اخرجه ابن عساكر واخرج ابن اسحق فى المغازي

وابن عساکرعن ابی رافع ان علیا تناول بابا عند الحصن حصن خیبر فتترس به عن نفسه فلم یزل فی یده وهو یقاتل حتی فتح الله علینا ثم القاه فلقد رأیتنا ثمانیة نفر نجهد ان نقلب ذلک الباب فما استطعنا ان نقلبه و روی البخاری فی الادب عن سهل بن سعد قال ان کان احب اسماء علی رضی الله عنه الیه ابو تراب وان کان لیفرح ان یدعی بها وما سماه ابو تراب الا النبی صلی الله علیه وسلم وذلک انه غاضب یوما فاطمة فخرج فاضطجع الی الجدار فی المسجد فجاءه النبی صلی الله علیه وسلم وقد امتلاء ظهره ترابا فجعل النبی صلی الله علیه وسلم یمسح التراب عن ظهره ویقول اجلس ابا تراب روی عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم خمسمائة حدیث وستة وثمانون حدیثا روی عنه بنوه الثلثة الحسن والحسین ومحمد بن الحنفیة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبیر وابو موسی وابو سعید وزید بن ارقم وجابر بن عبد الله وابو امامة وابو هریرة وخلائق من الصحابة والتابعین رضوان الله علیهم اجمعین وفی نور الابصار فی ذکر مناقب سیدنا علی بن ابی طالب ابن عم الرسول وسیف الله المسلول ولد رضی الله عنه بمکة داخل البیت الحرام علی قول یوم الجمعة ثالث عشر المحرم رجب سنة ثلاثین من عام الفیل قبل الهجرة بثلاث وعشرین سنة وقیل بخمس وعشرین وقبل المبعث باثنی عشر سنة وقیل بعشر سنین ولم یولد فی البیت الحرام قبله احد سواه قاله ابن الصباغ وامه فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف تجتمع مع ابی طالب فی هاشم جد النبی صلی الله علیه وسلم اسلمت وهاجرت مع النبی صلی الله علیه وسلم نقل عنها انها کانت اذا ارادت ان تسجد لصنم وعلی رضی الله عنه فی بطنها لم یمکنها یضع رجله علی بطنها ویلصق ظهره بظهرها ویمنعها من ذلک ولذلک یقال عند ذکره کرم الله وجهه ای عن ان یسجد لصنم وهی اول هاشمیة

ولدت هاشميا ولما ماتت كفنها صلى الله عليه وسلم بقميصه لانها كانت عنده بمنزلة امه وامر صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد وابا ايوب الانصاري وعمر بن الخطاب وغلاما اسود فحفروا قبرها بالبقيع فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده واخرج ترابه فلما فرغ اضطجع فيه وقال اللهم اغفر لامي فاطمة بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك محمد والانبياء الذين من قبلي فانك ارحم الراحمين فقيل يا رسول الله رأيناك صنعت شيأ لم تكن صنعته باحد قبلها فقال صلى الله عليه وسلم البستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة واضطجعت في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر لانها كانت من احسن خلق الله تعالى صنعا الي بعد ابي طالب وتربى علي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انه لما اصاب اهل مكة جدب وقحط اجحف بذي المروأة واضر بذي العيال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه وكان من ايسر بني هاشم يا عم ان اخاك ابا طالب كثير العيال وقد اصاب الناس ما ترى فانطلق بنا الى بيته لنخفف من عياله عنه فتاخذ انت رجلا وانا آخذ رجلا فنكفلهما عنه فقال العباس افعل فانطلقا حتى اتيا ابا طالب فقالا انا نريد نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما ابو طالب اذا تركتما لي عقيلا وطالبا فاصنعا ما شئتما فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه اليه واخذ العباس جعفرا فضمه اليه فلم يزل علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه علي رضي الله عنه و آمن به وصدقه وكان عمره اذ ذاك ثلاث عشرة سنة وقال ابن اسحق اسلم علي بن ابي طالب وهو ابن عشر وقيل غير ذلك وشهد المشاهد كلها ولم يتخلف الا في تبوك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في اهله فقال يا رسول الله تخلفني

فى النساء والصبيان قال اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هرون من موسى غير
انه لا نبي بعدى اخرجه الشيخان صفته كان آدم شديد الادمة ثقيل العينين
عظيمهما اقرب الى القصر من الطول اذا بطن كثير الشعر عريض اللحية اصلع ابيض
الرأس واللحية وفى ذخائر العقبى كان ربعة من الرجال ادعج العينين عظيمهما
حسن الوجه كانه قمر ليلة البدر عظيم البطن وكان رضى الله عنه عريض ما بين المنكبين
لمنكبه مشاش كمشاش السبع الضارى لا تبين عضده من ساعده ادمج ادماجا
شثن الكفين عظيم الكراديس اغيد كان عنقه ابريق فضة وفى اسد الغابة عن رازم
بن سعد الضبى قال سمعت ابى ينعت عليا قال كان رجلا فوق الربعة ضخم المنكبين
طويل اللحية وان شئت قلت اذا نظرت اليه قلت آدم وان تبينته من قرب قلت
ان يكون اسمر ادنى من ان يكون آدم وفى اسد الغابة لما اخذ ابن ملجم ادخل على
على رضى الله عنه فقال احبسوه واطيبوا طعامه والينوا فراشه فان اعش فانا ولى
دمى عفوا او قصاصا وان امت فالحقوه بى اخاصمه عند رب العالمين ومكث رضى
الله عنه جريحا يوم الجمعة والسبت وتوفى ليلة الاحد الثالثة عشر من رمضان
سنة اربعين وكان عمره اذ ذاك خمسا وستين سنة وقيل ثلاثا وستين كالنبى
وابى بكر وعمر وهو من عجيب الاتفاق قال الواقدي وهذا هو المثبت عندنا وقيل
غير ذلك وفى سفينة الاولياء وشهد فى ليلة الاثنين الحادى والعشرون من رمضان
فى سنة اربعين من الهجرة وقال بعضهم السابعة عشر من رمضان وقال بعضهم الثالث
والعشرون من رمضان وفى مخبر الواصلين التاسعة عشر من رمضان فى نور الابصار
وصيته رضي الله عنه الحسن والحسين رضي الله عنهما روى انه لما ضربه ابن ملجم
اوصى الحسن والحسين وصية طويلة فى آخرها يا بنى عبد المطلب لا تخوضوا دماء المسلمين
خوضا تقولون قتل امير المؤمنين الا لا تقتلوا بى الا قاتلى انظروا اذا انا مت من ضربته

بين فى آخره زيادة اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وللطبرانى عن ابى الطفيل قال جمع على الناس فى الرحبة ثم قال انشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما قال لما قام فقام اليه ثلثون من الناس فشهدوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه انتهى

هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا به فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم
یقول ایاکم والمثلة ولو بالکلب العقور اخرجه الفضائلی وفی روایة عن الحسن رضی الله
عنه لما حضرت الی الوفاة اقبل یوصی فقال هذا ما اوصی به علی بن ابی طالب اخو محمد
صلی الله علیه وسلم وابن عمه وصاحبه اول وصیتی انی اشهد ان لا اله الا الله وان
محمدا رسوله وخیرته اختاره بعلمه وارتضاه لخلقه وان الله باعث من فی القبور وسائل
الناس عن اعمالهم عالم بما فی الصدور ثم انی اوصیك یا حسن وکفی بك وصیا بما اوصانی
به رسول الله صلی الله علیه وسلم فاذا کان ذلك فالزم بیتك وابك علی خطیئتك ولا
تکن الدنیا اکبر همك واوصیك یا بنی بالصلاة عند وقتها والزکاة فی اهلها عند محلها
والصمت عند الشبهة والاقتصاد والعدل فی الرضا والغضب وحسن الجوار واکرام
الضیف ورحمة المجهود واصحاب البلاء وصلة الرحم وحب المساکین ومجالستهم والتواضع
فانه من افضل العبادة وذکر الموت والزهد فی الدنیا فانك رهن موت وعرض بلاء
وطریح سقم واوصیك بخشیة الله تعالی فی سرائرك وعلانیتك وانهاك عن مخالفة
الشرع بالقول والفعل واذا عرض لك شیء من امر الآخرة فابدا به واذا عرض لك شیء
من امر الدنیا فتأنه حتی تصیب رشدك فیه وایاك ومواطن التهمة والمجلس المظنون
به السوء فان قرین السوء یغیر جلیسه وکن لله یا بنی عاملا وعن الخنا زجورا وبالمعروف
آمرا وعن المنکر ناهیا وآخ الاخوان فی الله واحب الصالح لصلاحه ودار الفاسق عن
دینك وابغضه بقلبك وزایله باعمالك لئلا تکون مثله وایاك والجلوس فی الطرقات
ودع المماراة ومجاراة من لا عقل له واقتصد یا بنی فی معیشتك واقتصد فی عبادتك
وعلیك فیها بالامر الدائم الذی تطیقه والزم الصمت وبه تسلم وقدم لنفسك تغنم
وتعلم الخیر تعلم وکن ذاکر الله تعالی علی کل حال وارحم من اهلك الصغیر ووقر الکبیر
ولا تأکل طعاما حتی تتصدق منه قبل اکله وعلیك بالصوم فانه زکاة البدن

وجنة لاهله وجاهد نفسك واحذر جليسك واجتنب عدوك وعليك بمجالس الذكر
واكثر من الدعاء فاني لم آلك يا بني نصحا وهذا فراق بيني وبينك واوصيك باخيك
محمد خيرا فانه ابن ابيك وقد تعلم حبي له واما اخوك الحسين فهو شقيقك وابن امك
وابيك والله الخليفة عليكم واياه اسأل ان يصلحكم وان يكف الطغاة البغاة عنكم
والصبر الصبر حتى يقضي الله هذا الامر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ثم قال
يا حسن ابصر واضار بي اطعموه من طعامي واسقوه من شرابي فان عشت فانا اولى
بحقي وان مت فاضربوه ضربة ولا تمثلوا به فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور يا حسن ان انا مت لا تغال في كفني فاني سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلوا في الاكفان وامشوا بين المشيتين فان
كان خيرا عجلتموا بي اليه وان كان شرا القيتموني عن اكتافكم يا بني عبد المطلب لا الفينكم
تريقون دماء المسلمين بعدي تقولون قتلتم امير المؤمنين الا لا يقتلن بي الا قاتلي
ثم لم ينطق الا بلا اله الا الله حتى قبض رضي الله عنه وغسله الحسن والحسين و
عبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية رضي الله عنهم وكفن في ثلاثة اثواب ليس فيها
قميص ولا عمامة وصلى عليه ابنه الحسن ودفن في الغري ليلا موضع معروف يزار
الى الآن وقيل بالنجف وفيه يقول بعض الشعراء

سقته سحائب الرضوان سحا	بجود ديه ينسجم انسجاما
ولا زالت رواة المزن تهدى	الى النجف التحية والسلاما

وقيل دفن بين منزله والمسجد وقيل دفن بقصر الامارة بالكوفة كذا في الفصول
وقيل غير ذلك ومروياته في كتب الاحاديث خمسمائة وستة وثمانون حديثا وكاتبه
عبد الله بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاضيه شريح بن الحرث
الكندي ولما فرغوا من دفنه جلس الحسن رضي الله عنه وامران يؤتى بابن ملجم فجيء به

فلما وقف بين يديه امر بضرب عنقه واخذوه الناس واحرقوه **الثالث والثمانون**
ومائة قال السيد اسمعيل البغدادي في الفيوضات الربانی فی مناقب الشيخ السيد
عبد القادر الجيلانی رضي الله عنه **الرابع والثمانون ومائة** قال العالم فی نجم
الزاهر فی المفاخر الشيخ عبد القادر رضي الله عنه **الخامس والثمانون ومائة**
قال العالم داود اجودی في ملفوظات سيد عبد الرزاق ابن الغوث الجيلانی رضي
الله عنه **السادس والثمانون ومائة** قال الفاضل محمد علي خان فی كتابه
احسن الاذكار فی مناقب غوث الابرار وبيان نسبه الشريف وبيان قدمه على رقبة
كل ولي الله **السابع والثمانون ومائة** قال سيدنا الغوث الاعظم رضي الله عنه
في بيان الاسرار للطالبين **الثامن والثمانون ومائة** قال سيدنا الغوث الاعظم
رضي الله عنه فی الرسالة الحزبية **التاسع والثمانون ومائة** قال ابو الحسنات
قطب الدين احمد القادري القريشی فی اعجاز الغوثية فی بيان نسبه الشريف حضرة
غوث الثقلين ابو محمد محي الدين السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ابن
السيد ابي صالح موسیٰ ابن السيد عبد الله ابن السيد يحي الزاهد ابن السيد محمد
ابن السيد داود ابن السيد موسیٰ ابن السيد عبد الله ابن السيد موسیٰ الجون ابن
ابن السيد عبد الله المحض ابن السيد حسن المثنیٰ ابن الامام سيدنا الحسن المجتبیٰ ابن
الامام امير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه **التسعون ومائة** قال العالم مولانا
محمد سعيد المفتی فی الرسالة القول الجلی في بيان قدمی هذه على رقبة كل ولي
الحادی والتسعون ومائة قال ابن الحجر فی الفتاوی الحديثية وبيان قدمي
هذه على رقبة كل ولی الله **الثاني والتسعون ومائة** قال العالم العلامة الشيخ
احمد بن محمد الوتري الموصلی الرفاعی الشافعي في روضة الناظرين **الثالث والتسعون**
ومائة فی المجالس السابع عشر وهی بالنظم الهندي **الرابع والتسعون ومائة**

قال في تكلمه خلاصة المفاخر الخامس والتسعون ومائة قال في حقيقة الحقائق
السادس والتسعون ومائة في حيوة الحياة السابع والتسعون ومائة
في گلشن الكرامات الثامن والتسعون ومائة في مخارق القادرية التاسع
والتسعون ومائة في مرآت اليتمقان المأتان في شجرة الانساب مال البغداد
وهو من قدوة السالكين زبدة العارفين سند الكاملين سيد المتكلمين عمدة الفاضلين
المتمسك بحبل الله المتين شيخنا ومرشدنا وسيدنا ومولٰنا السيد محمد صالح الحنفي
الحسيني الجيلاني البغدادي العراقي الحنبلي رحمة الله عليه توفي في سنة عشرة وثلثمائة
والف في التاريخ اربعة وعشرون من ربيع الاول في بلاد السيد من توابع الهند ومرقده
في بلدة رامپور وهذا شجرته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله فاتح اقفال القلوب بذكره وكاشف استار الغيوب ببره ورافع اعلام الزيادات
للقائم بشكره احمده على ان جعلنا من اهل توحيده واشكره طالباً الفضله ومزيده
واصلي واسلم على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه افضل انبيائه وعبيده وعلى
آله واصحابه الحائزين بطويل الفضل ومزيده امابعد فيقول العبد الفقير المقر
بالعجز بالتقصير الراجي عفو ربه الولي السيد محمد صالح القادري ابن السيد خميس ابن
السيد سلمان ابن السيد مصطفى ابن السيد زين الدين ابن السيد نور الدين
ابن السيد محمد درويش ابن السيد حسام الدين ابن السيد نور الدين ابن السيد
ولي الدين ابن السيد زين الدين ابن السيد شرف الدين ابن السيد شمس الدين
ابن السيد محمد الهتاك ابن السيد عبد العزيز ابن السيد السادات قطب الوجود
الدرة البيضاء مالك ازمة المتصرفين رأس المحبوبين امام الجواهر للفرد سلاب
الاحوال قطب الاقطاب الغوث الاعظم الجامع بين المعشوقين السيد الشيخ عبد القادر

الجيلاني قدس الله سره العزيز ابن ابي صالح موسى جنكي دوست ابن السيد عبد الله الجيلي ابن السيد يحيى الزاهد ابن السيد محمد ابن السيد داود ابن السيد موسى ابن السيد عبد الله ابن السيد موسى الجون ابن السيد عبد الله المحض ابن السيد حسن المثنى ابن السيد الامام الحسن رضي الله تعالى عنه ابن السيد الامام علي رضي الله عنه ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أد ابن ادد ابن الهميسع ابن سلامان ابن حمل ابن بنت ابن قيذار ابن اسمعيل عليه السلام ابن ابراهيم عليه السلام ابن آزر او تارح ابن ناخور ابن شاروخ ابن ارغوت ابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخشذ ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لملك ابن اخنوخ ابن اليارد ابن ادريس ابن مهلائيل ابن قينان ابن انوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام ابي البشر وعلى نبينا افضل الصلوات والسلام وآدم من التراب والتراب من الارض والارض من الزبد والزبد من الموج والموج من الماء والماء من الدرة والدرة من القدرة والقدرة من الارادة والارادة من علم الله تعالى انتهى **الحادي ومائتان** قال العالم الفاضل القاضي طلا محمد البشاوري في عروة الوثقى في سلسلة قدوة السالكين مخزن اسرار حضور الشيخ عبد الغفور رحمة الله الشكور المعروف بابو البركات مستجمع الحسنات مولنا اخوند صاحب الصوات عليه الرحمة والتحيات وهي منظوم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذي السلطان من ازل	المرتجى عند خوم الحادث الجلل
مهيمن ما له في الخلق من شبه	مقتدر ما له في الامر من مثل

فقل هو الله فرد واحد صمد ... ولا يزال ولا يفنى ولم يزل

*وفيه صليت علومي لم تصب وطرا ... استغفر الله من علمي ومن عملي

خير الصلوة التي من سيب عارضها ... وافت بغير ضياع دوحة الامل

على النبي امين الله بدر دجى ... خير الخلائق من حاف ومنتعل

محمد اشرف الاشراف منقبة ... فهو الذي قد هدانا اوضح السبل

فدينا اشرف الاديان قاطبة ... اذ قام احمد فينا اشرف الرسل

عن النبي علوم الدين حدثنا ... مولى الانام امير المؤمنين علي

وبعد من باهت الحسنى به حسن ... حبيبنا بعده امر العباد ولي

وبعد داؤد القى الذكر في علن ... لاهله في اديم السهل والجبل

اذى وصيته المعروف سيدنا ... بلا فتور ولا مهل ولا فشل

وبعده قام عبد الله مرشدنا ... وفضله عند ارباب الكمال جلي

روى جنيد اصول الذكر عنه وقد ... نال العلا منه شبلي شيخ كل ولي

ومنه فاضت شآبيب العلوم الى ... علامة العصر عبد الواحد البطل

روى ابو الفرج الشامي علوم هدى ... عن ذلك الشيخ فخر الدين والملل

اتى ابو الحسن الوافي وبعد بدا ... ابو سعيد منيح القول والعمل

فعبد قادر الجيلي امام هدى ... شيخ الخلائق من عال ومنسفل

وهو الذي قال في القول الشريف علنا ... انا الذي قدمي في جيد كل ولي

شهدتول عنه روى ذكر الاله كما ... منور عنه راو غيره في خطل

شه عالم ثم احمد ثم مرشدنا ... جنيد نامنه ذكر المستعان تلي

صديقنا بعده شيخ ومن علن ... محمد فضله السامي تبين لي

وبعده في شعيب اسوة حسنة ... جزاء ربي جزاء الخير في العمل

عَبْدُ الْغَفُوْرِ اِمَامُ الْحَقِّ مُرْشِدُنَا   شَادَ الْاُصُوْلَ وَلَمْ يُمْهِلْ وَلَمْ يَمِلِ

لَهُ اِلٰى سَيِّدِنَا الْجُنَيْدِ اٰنٍ رَابِطَةٌ   اُخْرٰى اَقُوْلُ وَاَشْفِي الْقَلْبَ عَنْ غَلَلِ

نَعَبْدُ رَازِقُنَا نَالَ الْمَعَارِفَ مِنْ   اَبِيْهِ غَوْثِ الْوَرٰى كَالْوَابِلِ الْهَطِلِ

وَلَاحَ نُوْرُ الْهُدٰى مِنْ شَمْسِهِ شَرَفًا   اِذَا انْمَحٰى فِيْ طُلُوْعِ الْحَقِّ كَالطَّلَلِ

وَمِنْهُ نَالَ بَهَاءُ الدِّيْنِ لَامِعَةً   كَالشَّمْسِ ضَاحِيَةً لَا وَهِيَ فِي الطَّفَلِ

لَاحَتْ عُقَيْلٌ وَشَمْسُ الدِّيْنِ لَمْعَتُهُ   وَصَارَ مِنْهُمْ كَذَا رَحْمَانُ فِيْ شُغُلِ

اَعْنِيْ بِهِ شُغْلَ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ   سِرًّا وَجَهْرًا وَفِيْ اَمْنٍ وَفِيْ وَجَلِ

اَبُو الْحَسَنْ فَازَ مِنْهُ ثُمَّ عَارِفُنَا   شَيْخُ الْمَعَارِفِ لَيْثٌ فِيْ عَرٰى غِيَلِ

وَبَعْدُ سَيِّدْ كَذَا شَمْسٌ لِمِلَّتِنَا   وَمِنْ فُضَيْلٍ كَمَالُ الدِّيْنِ مِنْ كُمَلِ

سِكَنْدَرٌ بَعْدَهُمْ ثُمَّ الْمُجَدِّدُ فِي   الْعِرْفَانِ وَالْعِلْمِ رَقِيْ مُنْتَهَى الْقُلَلِ

وَاٰدَمٌ بَعْدَهُ ثُمَّ الْحَبِيْبُ لَقَدْ   وَفِيْ عُلُوْمٍ اَتَتْ مِنْ سَيِّدِ الرُّسُلِ

فَشَاهُ بَازُ يَلِيْهِ مُؤْمِنُ الْكَرْكِيْ   بِهِمْ صَدِيْقٌ بِحُسْنِ الْاِعْتِقَادِ يَلِيْ

هَلُمَّ نِسْبَةُ الْغَرِّ الْمُرْشِدِ نَا   كَمَا مَضَتْ قَبْلُ فِيْ شِعْرٍ عَلَيْكَ تَلِيْ

اَقُوْلُ نِسْبَتُهُ الْاُخْرٰى مُشَرَّحَةً   وِقَايَةُ اللّٰهِ يُحْمِيْنِيْ عَنِ الْخَطَلِ

فَبَعْدُ اٰدَمُ قَدْ وَصّٰى بِهَا ذُرَفَا   مَنْ قَدْ وَرَهُ فِي الْمَعَالِيْ خَيْرَةُ الْمُقَلِ

وَمِنْهُ عَلَّمَ مَاْمُوْنٌ اَخُوْ ثِقَةٍ   رُسُوْمَ ذِكْرٰى نَعِيْمًا صَادِقَ الْعَمَلِ

مُحَمَّدٌ بَعْدَهُ ثُمَّ الْجَلِيْ حَسَبًا   صَدِيْقُنَا وَهُوَ شَمْسُ الدِّيْنِ وَالدُّوَلِ

وَاَحْسِبُ طَرِيْقَتَهُ الْعُلْيَا لِمُرْشِدِنَا   كَمَا مَضَتْ اٰنِفًا فِي الْاَسْطُرِ الْاُوَلِ

رُوِيْتُ عَنْ نِسْبَةٍ اُخْرٰى وَاَظْهَرُهَا   بِلَا امْتِرَاءٍ وَلَا زَيْغٍ وَلَا مَيَلِ

خَيْرُ الْاَفَاضِلِ مَسْتَانُ الْجَلِيْ حَكَمًا   رَوٰى عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلِيْ

وَبَعْدُ سَيِّدُنَا اَحْمَدُ تَتَبَعَهُ   شَيْخُ الْمَشَائِخِ عَبْدُ اللّٰهِ ذُوْ نُبَلِ

سَيِّدُ جَلَالُ إِمَامِي ثُمَّ فِي إِثْرِهِ صَارَ البَهَاءُ عَنِ الدُّنْيَا بِمُشْتَغِلِ
فَبَعْدَهُ بِجَلَالِ الدِّينِ مُحْتَسِبًا مَحْفُوظَةً عَنْ حُدُوثِ الوَهْنِ وَالْخَلَلِ
وَبَعْدُ يَاسِينَ مَسْنَانٌ ثُمَّ أَرَى زَيْنَ الهُدَى فِي ازْدِيَادِ الدِّينِ ذَا جَلَلِ
نَعَبْدُ رَازِقِنَا الوَافِي وَثَمَّةَ مِنْ نَيْلِ المَرَامِ غِيَاثُ الدِّينِ ذُو جَذَلِ
بَحْرُ الفَضَائِلِ خَيْرُ اللهِ ثُمَّ إِلَى شَمْسُ المَعَارِفِ سَيِّدٌ مُنْتَهَى أَمَلِي
وَأَفْضَلُ العَصْرِ مَعْصُومٌ وَنِسْبَتُهُ إِلَى جُنَيْدٍ بِلَا كَيْفٍ وَلَا مَثَلِ
هُمُ نِسْبَةُ البَيْضَا لِسَيِّدِنَا أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ بُؤْسٍ وَمِنْ غِيَلِ
قُطْبٌ وَغَوْثٌ فَلَا تُحْصَى فَضَائِلُهُ تُضْرَبُ إِلَيْهِ كُبُودُ الأَيْنُقِ الذُّلُلِ
هَذَا الَّذِي بَاهَتِ الدُّنْيَا بِعِزَّتِهِ هَذَا هُوَ الأَخِرُ السَّامِي عَلَى الأُوَلِ
مَفْطُورَةٌ فِيهِ أَخْلَاقُ الكِرَامِ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى التَّهْذِيبِ فِي العَمَلِ
فِي الخُلْقِ وَالكَسْبِ بَوْنٌ إِذْ أَتَى مَثَلًا لَيْسَ التَّكَحُّلُ فِي العَيْنَيْنِ كَالكَحَلِ
شَيْخِي وَحِرْزِي وَمَوْلَايَ وَمُسْتَنَدِي وَسَيِّدِي وَمَلَاذُ الخَلْقِ فِي جَلَلِ

قلت هؤلاء الهادي وما نتان شيخا من افاضل الامة واعيانها وفيهم الاولياء العظام والعلماء الفخام من اكابر الاقطار وعمدة الامصار كلهم مطبقون على ثبوت نسب الجيلي الشريف ليس فيهم من اشار الى خلاف فيه ولو لقول ضعيف بعضهم تلقى ذلك من الدفاتر العتيقة في النسب وبعضهم استفاده من التواتر الذي يستحيل معه الكذب وبعضهم اخذه من كشفه الصحيح زيادة على ما لاهل الظاهر من الاثبات الصريح فهل يبقى بعد اجماعهم ما يخامر العقل من ارتياب ومن اراد الاطلاع على كتبهم المشار اليها فالعريب بالباب واما حكم النازلة فقها فان النسب يثبت بشهادة السماع والاستفاضة على الالسنة الغير المحصورة وهذا الحكم اتفقت عليه مذاهب الايمة الاربعة وهي محيط دائرة السنة المحمدية اما النص عليها في مذهبنا المالكي فهو معلوم في شروح المختصر الخليلي

والتحفة وغیرها واما اتفاق الائمة الثلاثة علی ذلک الحکم فهو مسطور فی دواوینها ومن اراد تخفیف المطالعة فقد صرح به عالم المذاهب ومحقق مدارکها سیدی عبد الوهاب الشعرانی فی المیزان الکبری والامام ابو حنیفة یعمل بالاستفاضة علی الالسنة فی خمسة اشیاء منها النسب والامام الشافعی فی ثمانیة منها النسب والامام احمد فی تسعة منها النسب والمذهب المالکی فی تسعة عشر منها النسب فهو متفق علیه عند جمیعهم قال المحقق التسولی فی شرحه علی التحفة ما نصه قیل لابن القاسم ایشهد بانک ابن القاسم من لا یعرف اباک ولا انک ابنه الا بالسماع فقال نعم یقطع بهذه الشهادة ویثبت بها النسب والارث ابن رشد لا خلاف فی هذا الان الخبر اذا انتشر افاد العلم الخ انظره ان شئت فقد اطال بما یؤید ذلک وقال ایضا فی محل آخر یعمل بالسماع فی النسب ولو فی الشرف اهـ والانساب تحاز کما تحاز الاملاک کما قاله الامام مالک نقل الاجهوری فی فتاویه والناس مصدقون فی انسابهم کما قاله سیدی خلیل فی التوضیح وایده الامام ولی الدین ابن خلدون فی مقدمته فی اثبات الشرف وقد افتی فی مثل هذه النازلة شیخ اشیاخنا عالم البسیطة سیدی ابراهیم الریاحی رئیس الشوری المالکیة بالقطر الافریقی برسالة نقل فیها عن الاعلام ان الناس مصدقون فی انسابهم ولو فی الشرف وحکم بوجوب الحد علی من نفی نسبا ثابتا ونقل فی ذلک نصوصا متینة عن المدونة وغیرها وختمها بقوله ولعل هذا القدر کاف لمن اکتحلت بصیرته بنور التوفیق ٥ وان کان نطاق الاحاطة بتفاصیل النازلة یضیق

باب اول

دربیان نسب شریف سیادت حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث

صمدانی غوث الاعظم قطب الاکرم شیخ شیوخ عالم سید السادات غوث الارض والسموات شیخ الاسلام والمسلمین غوث الثقلین وکهف الخافقین حضرت شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی الله عنه نسب شریف سیادت ایشان ثابت ومتحقق است بروایات ثقات معتبرات از علمای کاملین محدثین مورخین واز فقهای کاملین واولیاء الله العارفین واز کتب معتبرات عربی وفارسی وهندی دوصد ویک کتاب عبارت تحریر یافته وثابت شده است نسب شریف سیادت وکسی از علمای اهل سنت وجماعت خلاف نکرده است ونخواهد کرد یا معاند یا سفیه یا جاهل یا روافض یا مبتدع وقول اهل زیغ وعناد را نباید شنید واعتبار نباید کرد که گمراه است وگمراه کننده است ونسب شریف ایشان بحد تواتر رسیده است واجماع شده برین که بلا شک وشبهه

سادات اند واز نسل وصلب سادات اند از جانب پدر اولاد امیر المومنین سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اند واز جانب مادر اولاد امیر المومنین سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کربلا اند و ترجمہ عبارات کتب عربی وہندی بفارسی تحریر کردہ میشود وآن ترجمہ اینست وعبارات کتب فارسی بحسب مسطور الذیل است بنظر انصاف از روی اشفاق ملاحظہ باید نمود واستحقاق را از دست نباید داد واسمای کتب مع مصنفین وترجمہ کتب عربیہ واصل عبارت کتب فارسی ہمینہ یعنی شواہد جناب قاضی القضاۃ قاضی سید ابو نصر قدس سرہ این است اول عالم علامہ شیخ الاسلام زین الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن امام شہاب الدین احمد بن رجب حنبلی بغدادی دمشقی در طبقات خود آوردہ است کہ از اصحاب امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ است در نزد ذکر ترجمہ مولانا سردار اولیاء وامام اصفیا ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی حسنی رضی اللہ عنہ پسر سید ابی صالح موسی جنگی دوست پسر عبد اللہ جیلی بغدادی زاہد شیخ عصر وسلطان مشایخ وقدوہ عارفان وسردار طریقہ در وقت خود سید محی الدین ابو محمد صاحب مقامات وکرامات ومعارف واحوال مشہور ومتصل است نسب ایشان با میر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پس پیدا شد از عبد اللہ جیلی پسر سید یحیی زاہد پسر سید محمد پسر سید داؤد پسر سید موسی پسر سید عبد اللہ پسر سید موسی الجون پسر سید عبد اللہ محض پسر سید حسن مثنی پسر امیر المومنین امام حسن پسر امیر المومنین علی بن طالب رضی اللہ عنہم اجمعین تولد شد در سنہ چہار صد وہفتاد یا چہار صد وہفتاد ویک در گیلان انتہی تاریخ تولد ایشان وعمر ایشان ووفات ایشان درین بیت سنینش کامل عاشق تولد ؛ وفاتش جو زمعشوق الہی ؛ یعنی تولد ایشان در سنہ چہار صد وہفتاد ویک عمر نود ویکسال وفات پانصد وشصت ودو دوم عالم علامہ کامل وفقیہ بی بدل ابو عبد اللہ سید حسن بن عبد الرحمن اہدل حسینی یمنی شافعی سنہ ۸۲۶ در تاریخ مختصر خود کہ تصنیف کردہ است در شہر در نزد ذکر حادثہ سنہ پانصد وشصت ویک آنست کہ وفات یافت قطب اولیا محی الدین سید عبد القادر جیلانی ابن سید ابی صالح موسی ابن سید عبد اللہ ابن سید یحیی زاہد ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسی ابن سید عبد اللہ ابن سید موسی الجون ابن سید عبد اللہ المحض ابن سید حسن مثنی ابن امام حسن ابن امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہم ونسبت کردہ شدہ است ایشان بسوی جیلان وآن ملکیست متفرقہ ماوراء طبرستان کہ آنرا جیلان وگیلان گویند ودر آنجا تولد شدہ اند ونبیرہ سید ابی عبد اللہ صومعی زاہد حسینی کہ از جملہ مشایخ جیلان است

که احوال عجیبه داشت انتهی سیوم گفت عالم علامه امام زمانه عارف بالله عفیف الدین ابو محمد عبد الله بن سعد
بن علی بن سلیمان یافعی شافعی رحمة الله علیهما در تاریخ خود مرآت الجنان قطب اولیاء کرام شیخ الاسلام رکن شریعت
نشان حقیقت و واضح اسرار حقیقت صاحب آی علمای معارف و مفاخر شیخ شیوخ و قدوهٔ اولیاء عارفین
واکابر استاد وجود ابو محمد سید محی الدین عبد القادر بن سید ابی صالح موسی جنگی دوست جیلی حسنی شریف
قدس سره و نور ضریحه تاریخ وفات امام عبد الله یافعی رحمة الله علیه قطب مکه معظمه این ست از کتاب مخزن الواصلین

آن امامی که یافعی بوده	تابع راه شافعی بوده
مقتدای خداشناسان است	صاحب فیض وجود و احسان است
از مریدان او که دلخواه است	نور دین شاه نعمت الله است
سال ترحیل آن ستوده سرشت	خردم گفت اوج خلد بهشت
باز از روی اختلاف زبان	گفت ساکن بخلد پیر و جوان
هست در مکه قبر آن مغفور	زائرش روز و شب ملائک و حور

چهارم خاتم حفاظ محدثین وارث علوم سلف صالحین امام عبد الرؤف المناوی قدس سره گفته است در کتاب
خود طبقات الکبری المسمی بالکواکب الدریه فی تراجم سادة الصوفیه آنست که سید عبد القادر بن سید موسی بن سید عبد الله
بن سید یحیی زاهد جیلانی حنبلی از ذریت امام حسن رضی الله عنه است روشن است ذکر ایشان در آفاق و اجماع
کرده اند اهل خلاف و وفاق بر امامت ایشان انتهی پنجم شیخ محقق مدقق ابو عبد الله محمد بن احمد مسناوی
دلائی بکری صدیقی فاسی مغربی گفته است در کتاب خود نتیجة التحقیق فی بعض اهل الشرف الوثیق ذکر کرده اند
بعض حفاظ ثقات بدرستیکه بود سردار مایان سید شریف شیخ المسلمین و الاسلام ابی صالح محی الدین سید عبد القادر جیلانی
حسنی حسینی صدیقی بغدادی رضی الله عنه ششم عالم علامه حافظ ابو سعید عبد الکریم بن محمد بن منصور سمعانی
گفته است در تاریخ خود ابو محمد سید عبد القادر رضی الله عنه از اهل جیلان و امام حنابله و شیخ ایشان است
در عصر خود فقیه صالح دین صاحب خیر مشتغل بذکر دائم الفکر اشک ها جاری از خوف باری تعالی انتهی هفتم عمدة
المؤرخین محب الدین محمد بن محمد بن نجار گفته است در تاریخ خود آنکه سید عبد القادر بن سید ابی صالح جنگی دوست الخ

از اہل جیلان یک از امامان مسلمین عالمین بعلم ایشان صاحب کرامات ظاہر و ذکر کرده اند آنکه داخل شد در بغداد در سنه چهار صد و ہشتاد و ہشت و در عمر ہژده سال بودند ایشان که میخواندند علم فقه و احکام اصول و فروع و خلاف و می شنیدند احادیث را و اشتغال داشتند و وعظ تا که بر آمد ران بعد ازان لازم کردند بر خود انقطاع از خلق و ریاضت و سیاحت و مشاہده را و اختیار کردند عبادت شاقه را و دخول کردند در امور سخت و مخالفت نفس و ملازمت شب بیداری و گرسنه گی و گرفتند مقام در خرابات و صحرا و صحبت داشتند با شیخ حماد دباس زاہد رحمة الله علیه و آموختند علم طریقه از ایشان پس گردانید خدا یتعالی ایشان را بر خلق و قبول تمام خلائق خاص و عام شدند انتهی ہشتم عالم علامه محمد بن شاکر بن احمد کتبی که وفات یافته است در سنه ہفتصد و شصت و چهار گفته است در تاریخ خود فوات الوفیات ذیل تاریخ ابن خلکان آنست که سید عبد القادر بن سید ابی صالح جنگی دوست منتهی میشود نسب ایشان بامام حسن بن علی رضی الله عنهما شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلی حنبلی مشهور زاہد صاحب مقامات و کرامات و شیخ حنابله رضی الله عنه و عنهم نهم عالم علامه امام زین الدین عمر بن وردی گفته است در تاریخ خود جلد ثانی در نزد ذکر حوادث سنه ۵۶۱ پانصد و شصت و یک آنست که دران در شهر ربیع الآخر وفات یافت شیخ سید عبد القادر بن سید ابی صالح موسی جنگی دوست در بغداد و تولد آن در سنه چهار صد و ہفتاد و ایشان حنبلی مذہب بودند گفتم ہمین شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر بن سید ابی صالح موسی جنگی دوست بن سید ابی عبد الله بن سید یحیی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبد الله بن سید موسی الجون بن سید عبد الله المحض و نعت بالمجل بن سید حسن مثنی بن سیدنا امام حسن بن امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنهم سبط سید عبد الله صومعی زاہد که منسوب است بجیلان انتهی دہم عالم علامه حبر فہامه حافظ زین الدین بن رجب گفته است در طبقات خود سید عبد القادر بن سید ابی صالح عبد الله موسی جنگی دوست بن سید ابی عبد الله جیلی بعد ازان بغدادی زاہد شیخ عصر خود و عمده صالحین و قدوه عارفین و سلطان مشایخ و سردار اہل طریقت محی الدین ابو محمد تا اینجا گفت و ثنای کلام خود ظاہر شد بر مردم و حاصل شد ایشان را قبولیت تام و مدد کرد سنت نبی علیه السلام را یعنی زنده گردانید دین را بظاہر شدن او و باطل و خراب کرد اہل بدعت و اہل ہوا را و شہرت یافت اقوال ایشان و احوال ایشان و کرامات ایشان و می آوردند فتوی ہا را از تمامی شہرہا و تحفه ہا می آوردند خلفا و وزرا و ملوک و غیر ایشان انتهی

مناقب غوثیه فی رد رفاعیه دمشقیه

یازدہم قطب ربانی و ہیکل صمدانی سردار ما عبد الوہاب شعرانی شافعی رحمۃ اللہ علیہما گفتہ است در طبقات الکبری مسمی بلواقح الانوار فی طبقات الاخیار از ایشان سیدی عبد القادر جیلی رضی اللہ عنہ این پسر سید موسی پسر سید عبد اللہ پسر سید یحیی زاہد پسر سید محمد پسر سید داؤد پسر سید موسی پسر سید عبد اللہ پسر سید موسی جون پسر سید عبد اللہ محض پسر سید حسن مثنی پسر سید نا حسن پسر امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین تولد شد سید عبد القادر رضی اللہ عنہ در سنہ چہار صد و ہفتاد و وفات در سنہ پانصد و شصت و یک و مدفون شد در بغداد رضی اللہ عنہ انتہی **دوازدہم** عالم علامہ امام زمانہ عفیف الدین امام عبد اللہ بن اسعد یافعی یمنی شافعی رحمۃ اللہ علیہما گفتہ است در کتاب خود روض الریاحین فی حکایات الصالحین و حکایت کردہ است تحقیق شیخ امام و استاذ اکابر جامع درمیان علم باطن و ظاہر صاحب حسب و نسب شریف نبی فاخر سید جلیل عبد القادر جیلانی قدس اللہ روحہ و نور ضریحہ یعنی پر نور گرداند قبر او را و گفتہ است کہ اجماع کردہ اند در دو مشائخ کہ مثل ایشان در دنیا نیست یکی شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ دویم شیخ ابی مدین مغربی قدس اللہ روحہ در مغرب مثل ایشان نیست و در شرق مثل شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نیست انتہی **سیزدہم** عالم علامہ عز الدین فاروقی گفتہ است در کتاب خود نفحۃ المسکیۃ الزاعیۃ انست تحقیق کہ بعض صوفیہ ذکر کردہ اند نسب ایشان را کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ و احیانا طعن کردہ اند کہ نیست و نسب ایشان ما یان را علم و اشتہار یافتہ است از ایشان آنکہ عجم اند و آنکہ گفتہ است بشتیری و در اصل صحیح آمین است و آن است کہ ایشان ہر دی فاطمی اند یعنی اولاد سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ زہرا است رضی اللہ عنہا و شک و شبہہ نیست در نسب ایشان تا بجد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم و سکونت کردہ اند اجداد ایشان در فارس تا زمانہ ایشان و ازین سبب عجمی فہم کردہ آمدند و آن چیست کہ واجب است بر ما یان کہ اعتقاد داشتہ باشیم بآن و آنست کہ بدرستیکہ و بتحقیق اولیا را اللہ از ما یان عالمتر بودند بآداب شرع شریف و امور دینی و ہمین وجہ شرعی است یعنی دلیل شرعی است اگرچند ثابت نباشد وصول ایشان آنچیز برا کہ دعوی کردہ اند و حال آنکہ سیادت و نسب شریف ایشان مانند آفتاب نصف نہار است و بحد تواتر رسیدہ است چنانچہ مولانا علی قاری رحمہ اللہ در نزہۃ الخاطر گفتہ است و می آید ترجمہ عبارت ایشان و عبارت عربی تحریر یافتہ است انتہی **چہاردہم**

شیخ تقی الدین واسطی رحمة الله علیه گفته است در بهجة الرفاعیة الکبری آنست بدرستیکه غوثیت چیست و همین غوثیت ریاست مطلقه است در اولیا و نمیباشد در هر عصر مگر میباشد در یکنفر از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه وسلم و همین مقام معروف بقطبیت است و تحقیق ذکر کرده اند از شیخ عبد القادر جیلانی حسنی رضی الله عنه که قطب اند انتهی **پانزدهم** ابن ربیع اشرفی گفته است در کتاب خود مسمی بروضه تحقیق انتقام گرفت الله تعالی از وزیر امام ناصر که معروف بود به پسر یونس ظالم از جهت آنکه حسد و بغض و حقد و تعدی و بدنیتی و قبیح افعال داشت با اولاد سلطان اولیا و برهان اصفیا مجدد شریعت جد خود بشیر و نذیر صلی الله علیه وسلم مولانا و سیدنا شیخ الاسلام ابی محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی ابن ابی صالح موسی جنگی دوست ابن عبد الله ابن یحیی زاهد حسنی بغدادی رضی الله عنه و عنهم اجمعین در وقت مرگ از ابن یونس از دهن آن برآمد پلیدی و سوخت تمام بدن او و روان شد ریم و کرم از بدن او و بوی بد و مکروه داشتند آن از اهل خانه آن برای چیزی که فعل کرده بود او آخر روز ندامت آن کار نمی آید و مرد به بد حالی نگهدار و خدا یتعالی مایان و شمایان را که تعدی و ظلم کرده بود بر آل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و اولیاء آن بعد از ان بدرستیکه خلیفه امام ناصر فی الحال آمد در بغداد و بخانهای اولاد غوث رضی الله عنه آمد و عذر خواست و اکرام و اعزاز و احترام کرد ایشانرا و مقرر کرد بعضی مناصب عالی برای ایشان و تا که باینها قریب و محب شد قوله تعالی وما ربک بغافل عما یعمل الظالمون انتهی **شانزدهم** ابن عماد حنبلی گفته است در کتاب خود شذرات الذهب آنکه کرامات ایشان قدس سره بحد تواتر رسیده است بخلاف کرامات غیر ایشان از اولیا الظهور نیامده است پس بدرستیکه نقل کرده یگان یگان و باین مقدار کفایه میکنند از برای دانستن بر جلالت قدر ایشان قدس الله سره پس احتیاج دلیل نیست بسوی ایشان و نیست صحیح در نظر چیزی که وقتی محتاج باشد آفتاب بسوی دلیل برانکه امر مستغنی است از دانستن و بر هیچکس مختفی نیست و روشن و هویداست که نسب ایشان رفع میکند یعنی میرسد بجناب امام حسن رضی الله عنه باین وجه پس گفت حضرت شیخ سید عبد القادر ابن سید موسی ابی صالح ابن سید عبد الله ابن سید یحیی زاهد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی ثانی بن سید عبد الله صالح بن سید موسی جون بن سید عبد الله محض بن سید حسن مثنی بن امام حسن سبط بن سیدة فاطمه رضی الله عنها بنت سید اولین و آخرین محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وسلم اجمعین **هفدهم** علامه آلوسی گفته است در کتاب خود طراز المذهب

شرح قصیدهٔ الباز الاشهب از مرحوم ادیب لاثانی در بلاغت و فصاحت عجیب عبد الباقی افندی عمری سند در
قول ایشان ٭ کم خوارق من حضرة الباز ٭ لاحت حین وافی ولا فواد ماجدل ٭ و می آید در شرح خوارق مراد
از باز حضرت مولانا غوث صمدانی و هیکل ربانی شیخ سید عبد القادر گیلانی قدس سره همین است در شذرات الذهب
ابن ابی صالح موسی جنگی دوست بن ابی عبد الله عبد الله بن یحیی بن محمد بن داود بن موسی بن عبد الله بن سید موسی جون
بن سید عبد الله محض بن سید حسن مثنی بن امام حسن سبط بن علی کرم الله وجهه و ایشان نبیره سید عبد الله صومعی اند انتهی
شرد هم عارف جلیل صاحب علم طویل ولی الله شهیر صاحب مقام قدسی شیخ عبد الغنی نابلسی دمشقی نقشبندی
قادری قدس الله سره در مدح سلطان اولیاء و صاحبین امام جلیل غوث اعظم نبیل باز الله الاشهب والسیف القاضب
مولانا و قدوتنا الشیخ السید محی الدین عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی الحنبلی رضی الله عنه قصیده در سی و شش بیت
عربی گفته و ثبوت نسب شریف را اسماء اجداد شریف نظم کرده است که شیخ سید عبد القادر ابن سید ابی صالح موسی
جنگی دوست ابن سید عبد الله ابن سید یحیی زاهد بن سید محمد ابن سید داود ابن سید موسی ابن سید عبد الله ابن سید موسی جون
بن سید عبد الله محض ابن سید حسن مثنی ابن امام حسن ابن سیدنا علی کرم الله وجهه انتهی **فونرد** هم عالم علامه بر فهامه
امام سید جعفر بن سید حسن بن سید عبد الکریم برزنجی مدنی مفتی شافعی در مدینه منوره صاحب مولد النبوی المنظوم مشهور
منثور قدس الله سره گفته است در کتاب خود جنی الدانی در ذکر مناقب قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی
رضی الله عنه پس میگوییم من که همین شیخ کامل قدوة الواصل خزینه معارف مرجع کل قطب و عارف صاحب مقامات
عالی قدم راسخ صاحب تمکین تام و احوال متبرکه و مقامات بلند غوث الثقلین صاحب تصرف بر جن و انس آنکه آفتاب
که طلوع میکند ابو صالح محی الدین سید عبد القادر پسر سید ابو صالح موسی جنگی دوست پسر سید عبد الله پسر سید یحیی زاهد
پسر سید محمد پسر سید داود پسر سید موسی پسر سید عبد الله پسر سید موسی جون پسر سید عبد الله محض پسر سید حسن مثنی پسر
امام حسن سبط پسر امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه و پسر فاطمه زهرا بتول رضی الله عنها بنت
سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم نسب ایشان بود مانند آفتاب نصف النهار و مانند نور که بوقت صبح
می برآید انتهی بیستم عالم علامه شیخ محمد پسر یحیی تادفی حنبلی رحمة الله علیه گفته است در کتاب خود قلائد الجواهر
در مناقب شیخ سید عبد القادر رضی الله عنه همین سردار سایان و شیخ الاسلام و مقتدای اولیاء عظام نشان

علم الہدی الذی من انتمی الیہ کان من السعدا رقطب ربانی فرد جامع صمدانی دراصل طاہر محی الدین ابو محمد
سید عبد القادر بن سید ابو صالح موسی جنگی دوست بن سید ابی عبد اللہ بن سید یحیی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد
بن سید موسی بن سید عبد اللہ بن سید موسی جون بن سید عبد اللہ محض بن سید حسن مثنی بن امیر المومنین ابی محمد الحسن
بن امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب
بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر
بن عدنان قریشی ہاشمی علوی حسنی حسینی جیلی حنبلی ہیر کوا رایان عبد اللہ صومعی زاہد کہ از جملہ مشائخ کبار
وزاہد جیلان وسرداد ایشان صاحب حالات سنیہ وکرامات جلیہ انتہی **بیت وکیم** عالم جلیل وفاضل
نبیل عالم علامہ شیخ محمد امین بن احمد تونسی مالکی رحمۃ اللہ علیہ گفتہ است در کتاب خود ریاض البساتین در
اخبار سردار ما سید عبد القادر جیلی محی الدین گفتہ است شمسی در نظم الدرر سدا لعقیان پس ہر ستیکہ خداے تعالی
نہاد برکت در عقب ایشان پس سہ طائفہ ملوک گشتند بنو اخضر ملوک یمامہ وایشان اولاد ابراہیم بن موسی جون
مذکور اند وبنی عزیز وبنی ہاشم ملوک مکہ مشرفہ معظمہ اند مناوی گفتہ است ونوشتہ کردہ است شیخ قصار بر کلام شمسی ابن نسبت
کہ برکت کاملہ ونعمت شاملہ سردار ما سید عبد القادر جیلانی صاحب مالک حقیقی است وخلافت قطبیت در ایشان است
ودر ذریت سردار ما سید عبد القادر رانہ نہار وعبد اللہ بید موسی جون ملقب بہ کابل ومجل اسم مفعول است
از اجلال ومحض معنی خالص است انتہی عجیب نسب را بنظم عربی آوردہ است الخ انتہی **بیت ودویم**
عالم علامہ حبر فہامہ شیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر لخمی شطنوفی شافعی رحمۃ اللہ علیہما در کتاب خود
بہجۃ الاسرار ومعدن الانوار آوردہ است بروایت فقیہ عالم ثانی ابو المعالی احمد بن شیخ محقق ابی الحسن علی
بن احمد بن عبد الرزاق بن عیسی ہلالی بغدادی گفت خبر داد ما را قاضی القضاۃ سید ابو نصر گفت خبر داد ما را
والدم سید عبد الرزاق گفت سوال کردم من نزد والد خود شیخ سید محی الدین عبد القادر از نسب ایشان گفت
شیخ سید عبد القادر بن ابی صالح موسی جنگی دوست بن سید ابی عبد اللہ بن سید یحیی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد
بن سید موسی بن سید عبد اللہ بن سید موسی جون بن سید عبد اللہ محض ایضا ملقب بمجل بن سید حسن مثنی بن سیدنا
امام حسن بن امیر المومنین سیدنا علی المرتضی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعنہم نبیرہ سید ابی عبد اللہ صومعی زاہد

وہمین شناختہ میشدند در جیلان پس سوال کردم از ایشان از ولادت ایشان پس فرمودند
نمیدانم حقیقت آنرا مگر رفتم در بغداد در آن سال کہ وفات یافت تمیمی و عمر من ہمان وقت
از ہژدہ سال بود پس پرسیدم من از ایشان کہ تمیمی آن کدام کس است فرمودند ابو محمد
رزق اللہ بن عبد الوہاب بن عبد العزیز بن الحرث بن اسد وفات یافت در سال چہار
صد وہشتاد وہشت پس بود مولد وی رضی اللہ عنہ برہین بیان در سنہ ۴۷۰ چہار صد و
ہفتاد و خبر داد مارا فقیہ ابو عبد اللہ محمد ابن الشیخ ابی العباس احمد بن عبد الواسع
بن ابی برکات بن شافع جیلی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بدرستیکہ تولد شیخ محی الدین سید عبد القادر
جیلی حنبلی رضی اللہ عنہ در سنہ ۴۷۱ چہار صد وہفتاد و یک بود در شہر جیلان و بدرستیکہ
ایشان داخل شدند در بغداد در سنہ ۴۸۸ چہار صد وہشتاد وہشت و عمر ایشان در انوقت
از ہجدہ سال بود وجناب ایشان نسبت کردہ شدہ اند بجیلان بکسرہ جیم وسکون یا و
آن ملکیست متفرقہ غیر طبرستان و در آنجا تولد شدہ اند و آنرا جیلان وگیلان و
گیل نیز گویند انتہیٰ الخ بیت سیوم گفت عالم علامہ عامل وفاضل کامل زبدۃ المحققین
و عمدۃ المحدثین عارف ولی مولانا شیخ عبد الحق بن سیف الدین محدث دہلوی بخاری
و ترک سمرقندی در کتاب خود زبدۃ الاسرار ذکر کردہ است نسب ایشانرا واوصاف
ایشان را و آن حضرت غوث اعظم شیخ الشیوخ عالم سردار سادات شیخ الاسلام
والمسلمین شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر پسر ابی صالح سید موسیٰ پسر سید عبد اللہ
پسر سید یحییٰ زاہد پسر سید محمد پسر سید داؤد پسر سید موسیٰ پسر سید عبد اللہ پسر سید
موسیٰ پسر سید عبد اللہ محض و ملقب شدہ اند بجل پسر سید حسن مثنیٰ پسر امیر المومنین
امام حسن پسر امیر المومنین علی مرتضیٰ پسر ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین نبیرہ سید
سید عبد اللہ صومعی الزاہد وہمین شناختہ میشدند در جیلان رضی اللہ عنہ بیست
وچہارم گفت فاضل ادیب شیخ عبد الباقی عمری موصلی عراقی در دیوان خود تریاق

نسخہ ہیجدہ

فاروقی قصیدہ در مدح سلطان اولیا و عارفین قطب ربانی قندیل نورانی غوث
صمدانی مولانا شیخ محی الدین سید عبد القادر حسنی وحسینی جیلانی رضی اللہ عنہ وتحقیق
شرح کردہ است کلان عجیب لطیف علامہ عراق مفتی بغداد شیخ محمد مرحوم آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ
علیہ وآن قصیدہ در صفحہ ۲۰ ہمین کتاب ہست در آنجا ملاحظہ باید کرد بیست وپنجم گفت ۲۵
فقیہ ربانی شیخ عبد الغنی النابلسی در کتاب خود در آخر شرح صلوٰت کبریٰ کہ نامیدہ
شدہ است بکوکب المعانی ۔ وموکب المعانی شرح صلوات بدرستیکہ شیخ سید عبد القادر
گیلانی و بہ برکت ایشان آسان کردہ ست بر ما خدائیتعالے ہمین شرح را بوجہ
اختصار بطریق شرح وبیان و امداد کردہ ست استاد ما بمدد خدائیتعالی وبہ استعداد
انسانی در مقام روحانی قطب دائرۃ الوجود وکوکب سموات المعانیۃ والشہود الفرد
الکامل والعالم العلامۃ العامل السید الشیخ عبد القادر بن سید موسیٰ ابی صالح جنگی دوست
بن سید ابی عبد اللہ بن سید یحیٰی زاہد بن سید محمد بن سید داود بن سید موسیٰ بن سید
عبد اللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبد اللہ محض بن سید حسن مثنیٰ بن سید سادات
امام حسن بن امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین وجیلانی
نسبت است بسوئی جیلان وآن ملکیست متفرقہ سوای طبرستان ودر انجا تولد شدہ اند
وگفتہ است امام عبد الرؤف مناوی تولد شدہ اند در جیلان در سنہ چہار صد ہفتاد
وایشان نبیرہ سید عبد اللہ صومعی زاہد کہ ایشان از اجل مشائخ جیلان بودند انتہی
بیست وششم گفت عالم عامل وفاصل بین الحق والباطل شیخ سید علی بن شیخ سید یحیٰی ۲۶
بن شیخ سید احمد بن شیخ سید علی در کتاب خود تحفۃ الابرار ولوامع الانوار ذکر نسب
شریف طاہر ظاہر وباہر ومولد ایشان وشہر ایشان وہجرت ایشان رضی اللہ عنہ
بدانکہ توفیق دہد اللہ تعالے ترا براہ راست وخدائیتعالی گرداند شما را از حزب
ایشان واز سرداران ایشان وتحقیق پیدا کرد اللہ تعالیٰ بقدرت خود از بحر بنوسبے

صلی اللہ علیہ وسلم در شہوار بے بہا و ناپیدا مثل روشنی صبح از افق سما شیخ الاسلام
مقتدی الاولیاء العظام القطب الربانی و الفرد الجامع النورانی ذوی الاصل الطاہر
والمجد الباہر شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پسر سید
ابی صالح موسیٰ جنگی دوست پسر سید عبد اللہ پسر سید یحییٰ زاہد پسر امام سید محمد پسر امام
سید داؤد پسر امام سید موسیٰ پسر امام سید عبد اللہ پسر امام سید موسیٰ جون پسر امام سید
عبد اللہ محض پسر امام سید حسن مثنیٰ پسر امیر المومنین امام حسن سبط پسر امیر المومنین
علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پسر عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن
کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ
بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وہست نسب ایشان مانند
آفتاب نصف النہار ہاشمی علوی حسنی حسینی جیلانی نبیرہ سید عبد اللہ صومعی زاہد
وہمین شناختہ میشدند در جیلان وقتی کہ در آنجا بودند ولادت ایشان در سنہ ۴۷۱
چہار صد و ہفتاد بود انتہی بیست و ہفتم گفت امام عالم دیار رومیہ صاحب بصارت ٣٧
در کل قضیہ محمود بن سلیمان مشہور کفوی در کتاب خود مسمی با علام الاخبار در کتیبہ عاشرہ
از سید عارفین و قبلہ واصلین شیخ ربانی محبوب سبحانی غوث صمدانی قطب اولیاء
وغوث اصفیاء ابو محمد سید عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ بن سید عبد اللہ جیلی حسنی و
حسینی قدس سرہ وبود مادر ایشان ام الخیر امۃ الجبار بنت سید ابی عبد اللہ صومعی
وولادت ایشان در سنہ ۴۷۱ چہار صد ہفتاد و یک بود و مادر ایشان بود صاحب احوال
فاخرہ وکرامات باہرہ وظاہر گردانید اللہ تعالیٰ از ایشان احوال عجائب و غرائب
انتہی بیست و ہشتم گفت سید سادات تاج الدین ابو بکر سید عبد الرزاق ابن شیخ الاسلام ٣٨
شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ در فتوح الغیب گفت پدر من مؤید
الائمہ سردار طوائف ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی حسنی و حسینی و صدیقی

ابن سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست بن امام عبداللہ بن امام یحیٰ زاہد بن امام محمد
بن امام داؤد بن امام موسیٰ بن امام عبداللہ بن امام موسیٰ جون بن امام عبداللہ محض
بن امام حسن مثنیٰ بن امام سیدنا حسن بن امام الہمام اسد اللہ الغالب مخزن بنی غالب
امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین ودر
مرآت الاولیاء آوردہ ہست سید شیخ تاج الدین ابوبکر عبدالرزاق قدس سرہ قدوۃ
وکمال اتقیا بود در علوم ظاہر وباطنی از آنحضرت رضی اللہ عنہ بوجہ کمال کسب نمودند
وخلق بسیار از فیض صحبت ایشان بدرجہ کمال رسیدند وتفکر وسکوت بایشان غالب
بود وزہد وورع بمرتبہ اعلےٰ داشتند واز حیا پروردگار سی سال سر بالا نکردند
ولادت ایشان در ۵۲۸ھ پانصد وبیست وہشت ہجری وعمر شریف نود وپنج سال
ووفات ایشان در ۶۲۳ھ ششصد وبیست وسہ ہجری وقبر شریف در بغداد ہست
انتہیٰ بیست ۲۹ ونہم گفت امام عالم فاضل کامل فرید عصر وحید دہر عالم علامہ محقق مدقق
محدث الشہیر الساری مولانا علی بن سلطان محمد القاری رحمہ اللہ بلطفہ العالی در
کتاب خود نزہۃ الخاطر الفاتر فی ترجمۃ سیدی الشریف عبدالقادر محی الدین سلطان
الاولیاء والعارفین الاکابر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ امابعد پس میگویم من
امیدوار از برکات صالحین از درگاہ رب العالمین علی بن سلطان محمد القاری
بدر رسیتکہ رسیدہ ہست بمن از کلام وحسد رافضیان ومنافقان حجاب از راہ جہالت
در حق مولانا وسردار ما تاج مفاخر آنکہ گردن نہادند اکابر قطب ربانی غوث
صمدانی سلطان الاولیاء والعارفین سید شریف شیخ الاسلام محی الملۃ والدین عبدالقادر
حسنی وحسینی جیلانی قدس اللہ روحہ وفتح علینا فتوحہ گفتند رافضیان آنکہ حضرت
سیدنا شیخ نیست در نسب از سادات ونماندہ ہست اولاد درعقب ایشان تا بہ
اینجا بعضی فقہا کوتاہ فکر تیز موافقت بہ کلام اہل ضلال وطغیان کردہ اند از راہ

جہالت و موافق نیست کلام ایشان بتحقیق و آنکہ حق ایشان را دریافت نکردہ اند و
جرأت عظیم کردہ اند درباب نسب شریف ایشان بنفی و اثبات از غیر تحقیق و دور
بودن از اثبات این لائق نیست از ارباب علوم و صاحب دیانت بلکہ خوف لازم
بود بر ایشان و انہا کہ جرأت کردہ بر عدم نسب شریف این جرأت ایشا بردو زخ است
گویا خود را در ہلاکت انداختند پس جواب دادم آنچہ ذکر کردہ میشود بنسب شریف
و متعلق آن و حسب لطیف و منیف پس بدرستیکہ جمع شدہ اند دو امر در رنگ
عزیز وجود و غریب شہود در دو جہان پس ساختم من این رسالۃ لطیف را و نام نہادم
نزہتہ الخاطر الفاتر بہ ترجمہ سردار ما شریف عبد القادر میگویم آنچہ حق است و بخدا تعالےٰ
است توفیق کہ دہد و عطا کند و بامداد و بتوفیق خدا تعالےٰ دربیان نسب شریف ایشان
اجمالاً ذکر کردہ است بتحقیق مولانا نور الدین عبد الرحمٰن جامی قدس اللہ سرہ السامی
درکتاب نفحات الانس از حضرات القدس بدرستیکہ سردار ما شیخ سید عبد القادر
جیلانی رضی اللہ عنہ سید است و ثابت نسب است و جامع است مابین نسب و حسب
آنکہ شیخ سید عبد القادر علوی حسنی بود از جانب پدر و حسینی بود از جانب مادر نبیرہ
سید عبد اللہ صومعی زاہد حسینی یکے از مشائخ عظام و اولیاے کرام بود و صاحب
حال سنیہ و کرامات جلیہ داست و آنچہ تفصیلاً ذکر کردہ عفیف الدین امام عبد اللہ بن
اسعد یافعی شافعی یمنی درکتاب تتمہ روض الریاحین و حکایات الصالحین آنکہ سردار
ما یا شیخ محی الدین سید عبد القادر ابن ابی صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبد اللہ بن سید
یحییٰ زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبد اللہ بن سید موسیٰ
الجون بضم جیم بمعنے سفید لقب ایشان بن سید عبد اللہ محض و این لقب ایشان است
و معنی محض خالص بن امام سید حسن مثنی بن امیر المومنین امام حسن سبط بن امیر المومنین
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبیرہ سید عبد اللہ صومعی زاہد حسینی و بہمین

شناختہ میشدند در وقتی کہ بودند در جیلان علیہ الرحمہ والرضوان و مادر ایشان ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید ابی عبد اللہ صومعی زاہد و بود بر ایشان حظ وافر و خیر و صلاح و عمہ ایشان بود زن صالحہ شریفہ عایشہ دختر سید عبد اللہ صاحب کرامات ظاہرہ و مقامات باہرہ و گفت سید عبد اللہ محض جد ایشان ملقب شدہ است بمحض ازین سبب کہ پدر ایشان حسن مثنیٰ پسر امام حسن سبط پسر سیدنا علی رضی اللہ عنہ و مادر سید عبد اللہ محض فاطمہ دختر امام حسین پسر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ و بہمین نسبت سالم است از خاندان ایشان و شرف عالی ایشان انتہی سنی آم گفت عالم فاضل شیخ عبد القادر بن محی الدین اربلی در کتاب خود تفریح الخاطر در مناقب شیخ سید عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ در منقبت شصت و پنجم در نسب شریف ایشان از طرفین یعنی از جانب پدر و مادر لیکن نسب ایشان از جانب پدر آنکہ شیخ سید عبد القادر بن سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبد اللہ بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبد اللہ ثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبد اللہ المحض بن سید حسن المثنیٰ بن سیدنا الحسن بن سیدنا علی کرم اللہ تعالےٰ وجہہ و رضی اللہ عنہم اجمعین انتہی سنی و یکم گفت عالم علامہ شیخ محمد بن کتبی دارنی دمشقی در کتاب خود فوات الوفیات سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بن سید ابی صالح سبی جنگی دوست منتہی میشود یعنی میرسد نسب شریف ایشان بجناب امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما شیخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلی حنبلی مشہور زاہد صاحب مقامات و کرامات و شیخ حنابلہ رحمہ اللہ تعالیٰ آمد در بغداد و فقہ را خواندہ از قاضی ابی سعید و سماع حدیث شریف کردہ بودند ایشان کہ میخوردند از عمل دست خود و تکلم میکردند در وعظ و ظاہر میشد از ایشان آواز جلال و ہر یک می شنید از دور

سنی آم

سنی و یکم

ونزدیک وگفت شیخ شمس الدین تولد شدہ اند درجیلان در ۴۷۱ھ چہار صد و
۳۲ سنی دوم — بفتاد و یک و وفات یافتہ اند در ۵۶۱ھ پانصد و شصت و یک ہجری انتہی سنی و
دوم گفتہ است در مادہ لبشتیری در قاموس و زیادہ است در شرح آن سید مرتضیٰ
در کتاب خود تاج العروس فی شرح القاموس بشتیری از اہل جماعت است و
آنکہ بالضم و سکون شین و کسر مثنات فوقیہ و سکون تحت آن ہمچنین است در نسخہ
مایان آنکہ شیخ الاسلام والمنۃ الکبری علی اللہ الانام قطب محی الدین سید
عبد القادر بن سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست جیلی حسنی تولد شدہ اند در ۴۷۱ھ چہار
صد و بفتاد و یک و وفات شدہ اند در ۵۶۱ھ پانصد و شصت و یک ہمچنین ست
در حفظ ذہبی و ہمچنین نسب ایشان از احفاد ایشان امام محدث عماد الدین قاضی
۳۳ سنی سوم — نصر بن سید عبد الرزاق بن شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ انتہی سنی و
سیوم گفتہ است در کتاب خلاصہ و ذکر کردہ است دران چہار اقطاب رضی اللہ
عنہم راہمہ اشراف و از اہل بیت النبی علیہ السلام بودند و میرسد نسب ایشان
۳۴ سنی چہارم — بجناب امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما و انچہ شیخ سید عبد القادر جیلانی پس بدستیکہ
منتہی میشود نسب شریف ایشان بجناب امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما انتہی سنی
وچہارم گفتہ است سید در بحر الانساب موسوی اثبات نسبت سید کل در کل قطب
الاقطاب شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ و بیان نسب ایشان برین وجہ
شیخ سید عبد القادر جیلانی بن سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبد اللہ
بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ بن سید عبد اللہ بن سید
موسیٰ جون بن سید عبد اللہ محض بن سید حسن مثنیٰ بن امام حسن بن امام
امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین و بعد از ایشان در ذکر
اولاد ایشان کہ ماندہ اند وہستند وہست اولاد ایشان مشہور در شہر

۳۵ سی و پنجم مصر و حماہ و بغداد انتہیٰ سی و پنجم گفتہ است در منتخب از بحور الانساب اثبات نسب
غوث اعظم شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ و رفع میشود یعنی میرسد نسب شریف
ایشان بجناب امام حسن رضی اللہ عنہ بہمین وجہ و آنکہ شیخ سید عبد القادر بن سید
موسی جنگی دوست بن سید عبد اللہ بن سید یحیٰ زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن
سید موسیٰ ثانی بن سید عبد اللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبد اللہ محض بن سید
حسن مثنیٰ بن امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و بعد ازان عقب
۳۶ سی و ششم ایشان و اولاد ایشان و اولاد اولاد ایشان کہ گفتہ اند تا بہ اینجا کہ در شہر مصر و
ہندوستان و حماہ و بغداد شریف ہستند انتہیٰ سی و ششم گفتہ است در کتاب
تاریخ اسلام شیخ ابو محمد محی الدین و السنۃ سید عبد القادر بن سید ابی صالح موسیٰ
بن عبد اللہ جنگی دوست جیلی زاہد صاحب مقامات و شیخ فقہا و فقرا و بود در وقت
خود امام زمانہ و قطب وقت خود و شیخ شیوخ وقت خود بغیر گفت وگو و گفتہ است
در آخر ترجمہ خود بود شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ سر دائرہ علم و عمل پس کرامات
۳۷ سی و ہفتم او شان متواتر بود و کسی پیدا نشد بعد ازان مثل او انتہیٰ سی و ہفتم گفتہ است در
کتاب سیرۃ النبلا امام عالم زاہد عارف شیخ الاسلام علم الاولیا تاج الاصفیا محی السنۃ
و ممیت البدعۃ سید شریف در حسب و نسب حافظ احادیث از جد خود سید مرسلین
۳۸ سی و ہشتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر بن سید ابی صالح موسی جیلی
حنبلی شیخ بغداد از جمیع آنہا رضی اللہ عنہ سی و ہشتم گفت علامہ خاتمہ مفسرین
ابو ثنا شہاب الدین سید محمود آفندی آلوسی مفتی بغداد رحمہ اللہ در کتاب خود
شجرۃ الانوار سلطان اولیا، سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ و لادت ایشان
۳۹ سی و نہم در عشق و عمر ایشان کمال و وفات ایشان معشوق الٰہی انتہیٰ سی و نہم گفتہ است
در تاریخ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ و آنکہ کرامات ایشان خارج است از اندازہ

وتحقیق خبر دادہ اند و یافتہ اند علمآء اعلام امت و فرمودہ اند کہ کرامات ایشان بحد تواتر یا قریب بتواتر رسیدہ است دہیچ شک نیست دران و معلوم است باتفاق و بدرستیکہ ظاہر نشدہ اند کرامات از دیگر اولیائے آفاق مانند ایشان علی الاطلاق یعنی مطلقا از دیگر اولیآء کرام کرامات ایشان ہمتہ ایشان ظاہر نشدہ اند و ایشان بتحقیق پوشیدہ اند خرقہ را از دست شیخ ابی سعید مبارک بن علی مخزومی و این نسبت است بسوئے محلہ یزید پسر مخزوم در بغداد و شنیدم من از کتاب اجازہ ابی بکر کفوی آنکہ دادہ است بوی شیخ آن ابو الوفا شیخ سید محمد بن سید قاسم بن سید بحیر بن سید حسین بن سید علی بن سید محمد بن سید احمد بن سید صالح بن سید نصر بن سید عبد الرزاق بن غوث اکبر محی الدین ابی محمد سید عبد القادر جیلانی بن سید ابی صالح موسی جنگی دوست بن سید عبد اللہ بن سید یحیی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبد اللہ بن سید موسی جون بن سید عبد اللہ محض بن سید حسن مثنی بن امام حسن بن علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہم اجمعین ثابت است در آن و گفتہ است در ان کہ منتہی میشود یعنی میرسد نسب کریم ایشان از طرف پدر بجناب سیدنا ابی محمد حسن رضی اللہ بن علی رضی اللہ عنہ و از جانب مادر ایشان میرسد بجناب شہید کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ انتہی چہلم گفتہ است عالم علامہ شیخ سید محمد سیف الدین در کتاب خود درر السنیہ و مواعظ گیلانیہ حضرت غوث الاعظم ربانی و قطب و فرد صمدانی سردار ما سلطان شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ابن امام ابی صالح موسی جنگی دوست ابن امام عبد اللہ ابن امام یحیی زاہد ابن امام محمد ابن امام داؤد ابن امام موسی ثانی ابن امام عبد اللہ ابن امام موسی الجون ابن امام عبد اللہ محض ابن امام حسن مثنی ابن امام الہمام سیدنا حسن سبط ابن سیدنا و مولانا امیر المومنین وصی رسول امین ابی الحسنین سیدنا امام علی کرم اللہ وجہہ انتہی چہل و یکم گفتہ است عالم علامہ فاضل یگانہ جامع معقول و منقول حاوی فروع و اصول قدوۃ المحققین زبدۃ المدققین مولانا محمد غوث بن ناصر الدین محمد نائطی شافعی ارکاٹی المخاطب بشرف الملک رحمہ اللہ در کتاب انہار المفاخر فی مناقب شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ در مہر

اول در جدول ثانی دربیان نسب شریف ایشان الجدول الثانی فی نسبہ الشریف رضی اللہ عنہ
واین جدول مشتمل ہست بر دو شعبہ الشعبۃ الاولیٰ فی آبائہ مروی ہست از شیخ ابی بکر عبدالرزاق
پسر وی رضی اللہ عنہ بروایت قاضی القضات ابی صالح نصر رحمۃ اللہ علیہ کہ پدر وی رضی اللہ عنہ
ابوصالح موسی جنگی دوست پسر ابی عبداللہ عبدالکریم پسر یحیی الزاہد پسر محمد پسر داؤد پسر موسی۔
پسر عبداللہ پسر موسی الجون پسر عبداللہ محض پسر حسن مثنی پسر ابی محمد امام حسن مجتبی پسر امیرالمومنین
علی ابن ابیطالب ہست رضی اللہ عنہم بدانکہ لفظ جون بالفتح لقب موسی از اسماء اضداد است
اطلاق کردہ میشود بر سفید و سیاہ و سرخ واطلاق آن بر سیاہ اکثر است در استعمال ومراد دریجا
ہمان است زیراکہ موسیٰ سیاہ رنگ بودہ و ویرا مادر وی ہند بنت ابی عبیدہ میگفت بیت
انک ان تکون جونا انزعا ٭ اجدر ان تضرہم او تنفعاً ٭ یعنی بدرستیکہ بودن تو سیاہ و بی موی
از دو جانب پیشانی لائق ہست بضرر دادن تو مردم را یا نفع رسانیدن تو زیراکہ این ہر دو وصف
دلیل کمال قوت و توانائی اند و مادر وی حاملہ شدہ بود در شصت سالگی میگویند کہ حاملہ نمیشود
در شصت سالگی مگر زن قرشیہ و نہ در پنجاہ سالگی مگر زن عربیہ کذا فی بہجۃ الاسرار ازینجا ظاہر
شد عدم صحت قول صاحب غوثیہ کہ مادر محبوب سبحانی در شصت سالگی حاملہ شدہ بود رضی اللہ عنہ
انتہیٰ وہند بنت ابی عبیدہ عبداللہ ابن ام سلمہ بنت محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن
امیرالمومنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ از اہل فضل و فصاحت و تقوی و طہارت بودہ رضی اللہ
عنہا و لفظ محض بالفتح لقب عبداللہ بمعنی خالص است بنابر آنکہ پدر وی حسن مثنی پسر امام حسن
و مادر وی فاطمہ صغری دختر امام حسین است رضی اللہ عنہم پس نسب وی خالص آمد از جہت پدر
و مادر ہر دو و بسبب سالم بودن آن از موالی و رجوع آن بسوی امیرالمومنین علی رضی اللہ عنہ
وارضاہ کذا فی بہجۃ الاسرار و امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ در خلاصۃ المفاخر گفتہ کہ لائق در توجیہ تلقب
بدان اینکہ گویند خالص است در شرف انتہیٰ و در لقب عبداللہ مجل بضم میم و فتح جیم بصیغہ اسم مفعول
از اجلال ہم آمدہ ہست بمعنی بزرگ بسبب بزرگی وی از طرفین و لفظ مثنی بضم میم و فتح نون مشددہ

بصیغہ اسم مفعول از تثنیہ بمعنی دوگذاشتن چیزی لقب حسن از ان است کہ وی حسن بن حسن است
کذا قال صاحب بہجۃ الاسرار و آمام یافعی گفتہ کہ اولی در وجہ تلقب آنکہ نام حسن مثنی شدہ و مذکور
گشتہ است دو بار در خاطر این عاصی عفا اللہ عنہ سنوح کردہ کہ اگر وجہ تلقب وی نسبت او بعلی
مرتضیٰ یا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما از جانب پدر و مادر ہردو گیرند بعدی ندارد و اللہ اعلم بالصواب
در کتاب فصول مہمہ فی معرفۃ الائمہ آوردہ است کہ حسن مثنی خواستگاری نمود پیش عم خود امام حسین
رضی اللہ عنہ برای یکی از دو دختر وی رضی اللہ عنہ فاطمہ و سکینہ رضی اللہ عنہما امام حسین رضی اللہ
عنہ فرمود ای پسر ہر کہ را محبوب داری بخواہ پس وی شرمگین شدہ جواب نداد پس امام حسین
رضی اللہ عنہ خود فرمود اختیار کردم برای تو فاطمہ را کہ مشابہ تر است بمادر من فاطمہ بنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پس فاطمہ صغری را با حسن مثنی تزویج نمود و حسن مثنی با عم خود در کربلا حاضر بود
بعد از شہادت وی رضی اللہ عنہ با دیگر اہل بیت نبوی علی جدہم وعلیہم الصلوٰۃ والسلام در بند
یزیدیان آمد پس اسما بن خارجہ آمدہ از انہا باز گرفت و گفت واللہ نخواہد رسید او را از یونی ہمیشہ
جدی نظام الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ در کنوز السعادت آوردہ است کہ مادر حسن مثنی خولہ بنت
منظور فزاریہ و مادر فاطمہ صغری ام اسحٰق بنت طلحہ بن عبید اللہ تیمیہ است صاحب بہجۃ الاسرار
گفتہ کہ فاطمہ مذکورہ بعد از وفات حسن مثنی در نکاح عبد اللہ مطرف بن عمرو بن امیر المومنین عثمان
بن عفان رضی اللہ عنہ در آمد و از وی محمد دیباج متولد شد و ملقب شد بدیباج بسبب حسن او
و ملقب شد پدر او بمطرف بضم میم بصیغہ اسم مفعول از اطراف بسبب جمال او میگویند چون عبد اللہ
بن عمر و پیدا شد مردم میگفتند کہ وی ملیح حسن مطرف است بعد از عبد اللہ بن زبیر و عبد اللہ
بن زبیر جمال فائق داشت و مادر عبد اللہ مطرف حفصہ بنت عبد اللہ بن امیر المومنین عمر بن الخطاب
است رضی اللہ عنہ موجہ بدانکہ از تحقیق مذکور ظاہر گردید کہ شیخ الاسلام محی الدین عبد القادر
رضی اللہ عنہ از اولاد فاطمہ زہرا است علی ابیہا وعلیہا الصلوٰۃ والسلام پس باطل شد توہم بعض
جہال زمانہ ما کہ میگویند وی رضی اللہ عنہ از اولاد امیر المومنین علی است رضی اللہ عنہ از غیر فاطمہ زہرا

واین توہم از راہ جہل وعناد ناشی شدہ ومنشاء آن عبارت نفحات الانس مولانا عبد الرحمن جامی است رحمۃ اللہ علیہ کہ علوی بود حسنی والسقاکہ اقتصار نظر بر لفظ علوی کردہ چشم خود را از لفظ حسنی کور نمود بر تسلیم در مناقب السادات نوشتہ است کہ علوی نزد فقہا کسی است کہ منسوب باشد بسوی حسن و حسین رضی اللہ عنہما وجہال را غشاوۂ عناد ازین اصطلاح وازعبارت نفحات ہر دو کور گردانیدہ است اعاذنا اللہ من ذلک انتہیٰ چہل و دیم گفتہ ست عالم علامہ فاضل کامل نجم آل بیت رسول شمس مشرق در علم معقول ومنقول قامع مبتدعین ودامغ مبطلین ابی الظفر سید ظہیر الدین سید عبد الرحمن القادری الحسنی الحسینی الحنفی حفظہ اللہ بلطفہ الجلی والخفی در کتاب خود فتح المبین در آن چیزی کہ متعلق است بتریاق المبین وتحریر کردہ است در ترجمہ غوث جیلانی ابی محمد شیخ سید عبد القادر محی الدین وگردانیدہ است کتاب را تحفہ جہت برادران اہل اسلام وگفتہ است عالم عامل وفاضل فاصل بین الحق والباطل شیخ سید علی ابن شیخ سید احمد ابن شیخ سید علی الہاشمی در کتاب خود تحفۃ الابرار ولوامع الانوار ذکر کردہ است نسب شریف طاہر ایشان وولادت ایشان وشہر ایشان وہجرت ایشان رضی اللہ عنہ بدانکہ مدد کند ترا خدا تعالیٰ براہ راست وگرداند خدا تعالیٰ شما را از حزب ایشان وجند ایشان یعنی از سرداران ومحبان ایشان وتحقیق پیدا کردہ است خدا تعالیٰ بقدرت خود از بحر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم در شہوار ثمین مروارید سلسل وفرد است در مرتبہ خود ویکتا است در اولیا شیخ الاسلام ومقتدی الاولیا الکرام علم الہدی الذی من انتہی الیہ کان من السعدا القطب الربانی والفرد الجامع النورانی ذو الاصل الطاہر والمجد الباہر محی الدین سید عبد القادر جیلانی بن سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست ابن سید عبد اللہ ابن سید یحییٰ زاہد ابن امام محمد ابن امام داؤد ابن امام موسیٰ ابن امام عبد اللہ ابن امام موسیٰ جون ابن امام عبد اللہ محض و لقب کردہ شدہ است بجل یعنی از اجلال ابن امام حسن مثنیٰ ابن امام حسن سبط ابن امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف معدن الجود والعفاف ابن قصی ابن کلاب بن مرہ ابن کعب ابن لوئی بن غالب

بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن مدرکۃ بن الیاس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان نسب
ایشان ہست مانند آفتاب نصف نہار روشن است مثل صبح از افق سما ہاشمی علوی حسنی وحسینی
وجیلی نبیرہ سید عبداللہ الصومعی الزاہد وہمین شناختہ میشدند در جیلان وتولد شدند در جیلان
در سنہ چہار صد وہفتاد انتہیٰ الخ چہل وسیوم گفتہ است عالم علامہ حبر فہامہ عالم فاضل شیخ
زروق در قواعد متضمنہ خود از موائد فوائد وقیکہ تکلم کردند در نسب مصطفوی بدرستیکہ معتبر در
اصل نسب دینی است وفرع آن نسب نسبی مجرد است بعد ازان اضافت کردہ شدہ بطرف طینی
آنکہ بود برای ایشان تاکید کنندہ پس ملحق نمیشود مرتبہ صاحب بجمال آن دائما وہمین جواب
دادہ میشود از قول شیخ سید عبدالقادر کہ گفتہ است قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ در زمانہ
خود ہر آئینہ جمع گردیدہ است علو نسب شرف از عبادت وعلم ایشان ونبود این علو در غیر
ایشان در وقت ایشان انتہیٰ چہل وچہارم گفتہ است امام احمد بن محمد بن جزی الاندلسی
الغرناطی الشہیر در کتاب خود مختصر البیان فی آل عدنان وتصریح کردہ است بہ ناحہای انساب
جیلی تا بہ امیر المومنین امام حسن سبط رضی اللہ عنہ چہل وپنجم گفتہ است عالم علامہ شیخ عبدالرحمن
ابن عبدالقادر فاسی در کتاب جوہرۃ العقول فی ذکر آل الرسول وذکر نکردہ است در آن
مگر اشراف را وجمع کردہ است شرافت ایشان وہمچنین بدانند بر آن کہ گذشتہ است بیان
آنہا وآنکہ تالیف کردہ ام از برای آنہا باذن پدر خود شیخ جماعہ انتہیٰ چہل وششم گفتہ است
حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب خود غبطۃ الناظر در نسب ایشان انتہیٰ چہل وہفتم گفتہ است
عالم علامہ ابن عرضون بنقل علامہ مغربی شیخ سیدی محمد قنونی انتہیٰ چہل وہشتم گفتہ است
عالم زمانہ ابن جوزی در کتاب خود مرآت الزمان انتہیٰ چہل ونہم گفتہ است عالم علامۃ النسابہ
شیخ محمد عربی فاسی در کتاب خود مرآت المحاسن آنچیزی است ثبوت در فاس از شرفا قادریین
از اولاد قطب سردار ما سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ ونسبت ایشان ثابت است
تا بہ اینجا گفتہ اند آنکہ وی رضی اللہ عنہ سید عبدالقادر بن سید ابی صالح موسیٰ وذکر کردہ است

نسب ایشان را کہ معروف است انتہی پنجاہ ام گفتہ است در کتاب انساب القرطاس ذکر کردہ است نسب شریف ایشان را تا بہ امام حسن سبط رضی اللہ عنہ انتہی پنجاہ و یکم گفتہ است امام نسب ابن فرحون در کتاب خود المسمیٰ الاعتبار و تواریخ الاخیار و تعریف کردہ شدہ است بنسبت نسب بسوی نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم و نیست آنکہ ابراہیم فقیہ کہ معروف است بلکہ نام ایشان علی است و ایشان آنکہ صاحب کتاب ذم الخبائث اند انتہی پنجاہ و دویم گفتہ است علامۃ لنساب ابن طیب در نظم خود کہ مسمیٰ است باشراف بر نسب چہار اقطاب اشراف و ایشانان کہ ذکر شدہ اند در گفتار من پس از شروع نظم و این نظام است از برای ستون نسب از چہار اقطاب اہل رتب شیخ سید عبد القادر جیلانی و ابن شیش و شاذلی کامل و ابن سلیمان جزولی رحمہم اللہ انتہی پنجاہ و سیوم گفتہ است شیخ محمد بن عبد الرحمن فاسی در کتاب خود منح البادیہ و خوب تمکن در تحریر انساب و بتحقیق بی اندازہ در علم انساب از علوم ایشان آنچنان بخشیدہ است اللہ تعالیٰ ہمراہ ان ایشان را و بست برای ایشان اجازات از اہل علم انتہی پنجاہ و چہارم گفتہ است شیخ مراد بغدادی در شجرہ خود انتہی پنجاہ و پنجم گفتہ است شیخ محمد قاسم قصار کہ گفتہ است منادی و توقف کردہ است در غیر آنچیز کہ مقید است و آنکہ بود وی رحمہ اللہ معتمد علیہ و رجوع داشتند بسوی ایشان خلائق از شدت بحث علم مزید اہتمام ایشان و راسخ و صاحب دیانت و بسیار وصف کردہ اند ایشان را در تحریر نسب شریف تا بہ اینجا کہ گفتہ است شیخ جماعت سردار ما عبد القادر فاسی در حق شیخ قصار پس از ثنا ایشان تحقیق در علوم انساب اشراف بودند عارف محقق در آن و کسی طاقت مقاومت ایشان نداشت کہ نزدیک شود یا تکلم کند بایشان گفتہ است حافظ تونسی در نظم الدر و العقیان در نزد بیان سیر موسیٰ جون جد امام جیلی پس اللہ تعالیٰ اعطا کردہ است برکت را در عقب ایشان از سید عبد القادر رضی اللہ عنہ پس آن املاک ایشان سہ طائفہ بنو اخضر ملوک یامہ و ہواشم و بنو ابی عزیز ملوک مکہ و در بنی ابن عزیز باقی ماندہ در ملک مکہ تا بہ الحال پس نوشت شیخ قصار بر کلام تونسی مذکور و گردانید آنرا بر ملوک و مشہور کرد بسوی آن چیز یکہ ثابت ہست برکت و نعمت

شامل ہست سرداریاں را سید عبد القادر جیلانی صاحب ملک حقیقی و صاحب خلافت قطبانیۃ و آنکہ
ہست در ذریت سردار ما سید عبد القادر از اخیار الخ گفتم من آنکہ ابو عزیز مذکور اسم ایشان
قتادہ وی از جانب خلیفہ ناصر وقتیکہ نوشت عتاب بر عدم واقع او در بغداد پس ہست جواب
آن انتہی پنجاہ و ششم گفتہ است عالم شیخ محمد بن عباد اندلسی در شجرہ خود انتہی پنجاہ و ہفتم
گفتہ است عالم متبحر شیخ علی بن عبد الوہاب الشامی در شجرہ خود پنجاہ و ہشتم گفتہ است شیخ عبد الوہد
وانشریسی در شجرہ خود انتہی پنجاہ و نہم گفتہ است عالم علامہ امام اہل ورع در زمانہ شیخ رضوان
بن عبد اللہ شصتم گفتہ است عالم شیخ عبد الواحد بن احمد الحمیدی شصت و یکم گفتہ است شیخ
رحیم علی الصقلی الحکنی در کتب ستہ آخیرہ کہ مطالعہ کردہ است آنہار الحقق مساوی و نقل کردہ
است از ان آنچہ شفا بود از برای اہل غش اگر نمی بود طوالت در کلام نقل میکردم فائدہ میگرفتم
انتہی شصت و دوم گفتہ است عارف و شیخ ابو توفیق ملیجی مصری در کتاب خود سرور القلب
نسب شریف را انتہی شصت و سیوم گفتہ است در کتاب دُرّ سَنِی در بعض کہ بودند در فاس از
اہل نسب حسنی انتہی شصت و چہارم گفتہ است عالم علامہ و حبر فہامہ عالم و فاضل شیخ شبلنجی مسمی
بسید مومن نفع بہ بدہ تر اخدا تعالیٰ بآن در کتاب نور الابصار فی مناقب آل البیت النبی المختار
از چہار اقطاب سردار ما سید عبد القادر جیلی رضی اللہ عنہ ابو صالح سید عبد القادر بن سید
موسی بن سید عبد اللہ بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ بن سید عبد اللہ
بن سید موسیٰ الجون بن سید عبد اللہ المحض بن حسن المثنیٰ بن علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہم اجمعین
و تولد شدند در سنہ چہار صد و ہفتاد و ہمچنین ہست در طبقات امام شعرانی و حکایت کردہ شدہ ہست
از والدۂ ایشان رضی اللہ عنہا کہ گفتہ ہست وقتیکہ تولد شد فرزندم سید عبد القادر ہرگز نگرفت
پستان مرا و شیر نخورد در روز ماہ رمضان و تحقیق در آن روز ابر بود و ماہ ظاہر نشدہ بود بر
خلق پس مردم آمدند نزد والدۂ ایشان و سوال کردند فرمود کہ امروز فرزندم شیر نخوردہ است
بعد از ان ظاہر شد بر دم ہمان روز از نواحی ثبوت ماہ شدہ پس از ان شہرت یافت در جیلان

کہ فرزند تولد شدہ در خانۂ اشراف یعنی سید و شیر نخوردہ است در روز رمضان و ایضا شطنفی
در نور الابصار آوردہ ہست ناقل از طبقات شعرانی نام نہادہ شدہ عبد القادر بہ جیلانی زیراکہ
اللہ تعالیٰ جل شانہ تجلی کرد بر ایشان صد دفعہ و ایشان در شکم مادر بودند پس نام نہادند بآن
ملائکہ پس شنیدند آنرا مردمان و نامیدہ شد بدین و ظاہر گردید بر خلائق و فوت شدہ اند در سنہ
پانصد و شصت و یک و مدفون شدند در بغداد و گفتہ ہست ابن اثیر کہ بود سید عبد القادر جیلی
از اہل صلاح و صاحب احوال عظیم و بودند ایشان حنبلی مذہب و مدرسہ و رباط داشتند
مشہور در بغداد و ہمچنین ہست در تاریخ ابی الفدا انتہی شصت و پنجم گفتہ ہست حافظ النساب
شیخ عبد اللہ بن طاہر سجلماسی در وقتیکہ سوال کردند بعض عارفان از فاس آنکہ قائل بودند
بر آن فرمودند کہ من دوست میدارم اشراف را یعنی سادات را بدین کہ دلیل ہست کہ ہستند
در فاس شرفا قادریہ و بعضی آنہا را شہرت ہست در شرف و نامیدہ شدہ در بعض مشاہیر
النسب شریف را انتہی شصت و ششم گفتہ ہست عالم علامہ سید علی جزائری در شجرۃ
الانساب خود انتہی شصت و ہفتم گفتہ است در شجر محمدی و تحقیق واقف شدم من بر نسخۂ
اصل آن و ہست بر آن کتابہا بر موافقت و دالست بصحت آنچیزی کہ دران مانند چہل و ہفت
از نقبا امصار یعنی شہرہا و از اہل النساب آنظرف یکی از ایشان علامہ ولی کہ مشہور ہست
سردار ما ابو الغیث قشاش تونسی و سید احمد مکی نقیب سادات الاشراف بیافا و سید محمد علی
نقیب قدس شریف و سیدی علی عزوز و غیر ایشان و بعض ایشان اختتام کردند در مکاتیب
خود ہا در این آخر آنست کہ من مطالعہ کردم بر ان از کتب نسابین پس از ان کوشش کردم من
باقوال آنہا کہ تصریح کردہ اند بشرافت امام سید عبد القادر جیلی از مورخین و اصحاب طبقات
و مناقبات از علماء و عارفین پس میگویم من کہ صحیح النسب اند انتہی شصت و ہشتم گفتہ ہست
عالم کبیر عارف مشہور سردار ما احمد زروق فاسی مغربی مالکی در کتاب خود قواعد الطریقہ انتہی شصت
و نہم گفتہ است عفیف بن مبارک صاحب فتح ربانی انتہی ہفتادم گفتہ ہست استاذ ابن باخرمہ

ہفتاد ویکم گفتہ است شیخ مراد شاذلی در کتاب خود فتح کامل ہفتاد دویم گفتہ است شیخ علی بن یوسف مئی ہفتاد وسیوم گفتہ است عالم علامہ حبر فہامہ عارف کامل مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی قدس اللہ سرہ السامی در کتاب خود نفحات الانس شیخ محی الدین سید عبدالقادر الجیلی قدس سرہ کنیت وی ابومحمد است علوی حسنی بود نبیرہ سید ابوعبداللہ صومعی است از جانب مادر و مادر وی ام الخیر امۃ الجبار بنت سید عبداللہ صومعی است و شیخ عبداللہ صومعی قدس اللہ روحہ وی از بزرگان مشائخ گیلان و رؤسا و زہاد ایشان بود و مراد را احوال عالی و کرامات ظاہر بود و جماعتی از بزرگان مشائخ عجم را دریافتہ بود و مستجاب الدعوۃ بود وقتی کہ در غضب شدی حق سبحانہ تعالیٰ از برای وی زود انتقام کشیدی و ہر چہ خواستی خدائتعالیٰ چنان کردی و ہر چیز کہ پیش از وقوع آن خبر کردی چنانچہ خبر کردہ بودی واقع شدی جماعتی از اصحاب وی بقصد تجارت سمرقند رفتہ بودند نزدیک بسمرقند جماعتی سواران بغارت ایشان بیرون آمدند جماعت تاجران شیخ سید ابوعبداللہ را آواز داد تدیدند کہ درمیان ایستادہ است ومیگوید سبوح قدوس ربنا اللہ دور شوید ای سواران از میان ما ہمہ سواران متفرق شدند و ہیچکس نتوانست اسپ خود را نگاہدارد و بعضی بکوہہا افتادند و بعضی بوادیہا و دوتن از ایشان بایکدگر جمع نتوانستند شدند از شر ایشان برستند بعد از ان شیخ را در میان خود طلبیدند نیافتند چون بگیلان بازگشتند وقصہ را باز گفتند اصحاب شیخ گفتند شیخ ہرگز از میان ما غائب نشد انتہی کذا فی نفحات الانس لمولانا عبدالرحمن جامی موجہ بدانکہ از تحقیق مذکور ظاہر گردید کہ شیخ الاسلام محی الدین سید عبدالقادر را از اولاد فاطمہ زہرا است علی ابیہا وعلیہا الصلوٰۃ والسلام پس باطل شد توہم بعض جہال زمانہ ما کہ میگویند وی رضی اللہ عنہ از اولاد امیرالمومنین علی است رضی اللہ عنہ از غیر فاطمہ زہرا و این توہم از راہ جہل وعناد ناشی شدہ و منشاء آن عبارت نفحات الانس مولانا عبدالرحمن جامی است رحمۃ اللہ علیہ کہ علوی بود حسنی واسفاکہ نظر بر لفظ علوی کردہ چشم خود را از لفظ حسنی کور نمود بر تسلیم در مناقب السادات نوشتہ است کہ علوی نزد فقہا کسی است کہ منسوب باشد بسوی حسن و حسین رضی اللہ عنہما وجہال را غشاوہ عناد از ین اصطلاح و از عبارت نفحات ہر دو

کور گردانیدہ است اعاذنا اللہ من ذلک انتہی کذا فی انہار المفاخر تاریخ رحلت جناب مولانا عبد الرحمٰن جامی قدس سرہ السامی از کتاب مخبر الواصلین تحریر گردید۔ منظوم است

أفصح بی نظیر جامی بود
ہمہ تصنیف آن معلی شان
کہ ز دنیا گذشت عارف حق
باتفہم گفت سال رحلت او

بکمالات علم نامی بود
عدد جام شد رقم برخوان
جانب آسمان ہفت طبق
جای جامی بہشت عدن بگو

درجہ رتبۂ ولایت داشت
شب آدینہ بود لوز دہم
سال عمر شریف او نود است
لیک در نسخہ کہ بابرکات

اہل عالم از وہدایت داشت
بیشک و ریب از ربیع دوم
یا کم و بیش از شمار صد است
ہست نام شریفا و رشحات

خوانده ام سال رحلت اورا | ہژدہم روز ماہ عاشورا

ہفتاد و چہارم گفتہ است عالم فاضل محمد بن محمود الملقب بہ بہار در محشی نفحات الانس جلد دویم آوردہ است این است عبارت آن شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلی مراد از جیل گیلانست نہ آنکہ بعضی را توہم افتادہ کہ مراد جیل نزدیک بغداد است چہ صومعہ دہی است نزدیک بشہر لاہیجان وجد مادری ایشان از انجاست و حالا اولاد ایشان آنجامی باشند و خانقاہی بارونق دارند و نسب علیہ اش این است السید محی الدین عبد القادر ابن ابی صالح موسی جنگی دوست ابن عبد اللہ ابن یحیی زاہد ابن محمد بن داؤد بن موسی بن عبد اللہ بن موسی الجون بن عبد اللہ المحض و او را العبد اللہ مجل نیز وصف کردہ اند ابن حسن المثنی ابن امام حسن ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم و والدہ فاطمہ شریفہ بودہ حسینی و بعضی از اہل انساب آوردہ اند کہ الباز الاشہب شیخ سید عبد القادر زمان حیوۃ خود اظہار سیادت نمودہ این را سند خود ساختہ اند و اصلا تتبع نمودہ این قصیدہ کہ یک بیتش این است کہ کلی قطب یطوف بالبیت سبعا و انا البیت طائفۃ بخیامی تخواندہ اند کہ میفرماید کہ جدی المصطفیٰ شفیع الانام و والدہ ایشان گفتہ کہ فرزندم عبد القادر متولد شدہ ہرگز در روز رمضان شیر نخوردہ این است دولت مادر زاد و مضمون حدیث شریف السعید من سعد فی بطن امہ ترتیب آلہی چنین است و این نشانہ وراثت تامہ کاملہ است مر ایشانرا و ایشان فرمودہ اند کہ مادر مرا اذن سفر کرد و مرا عہد داد بصدق در جمیع احوال انتہی این دلیل روشن است بر علو شان و ترقی مقامات آن ولیہ عارفہ چہ صدق درین راہ اکسیر جمیع اجساد است و حکم آب دارد

برای تطہیر و تہیہ عبادات و چنان مہالی تمر کہ شیخ سید عبد القادر رست از چنین جمینی و حضرت شیخ حماد دباس قدس سرہ گفتہ کہ شیخ سید عبد القادر قدس سرہ در اثنای سخن گفت قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ انتہی بدان نفعنا اللہ تعالی وایاک من برکاتہم کہ این کلام حق انجام اگر در حال سکر واقع شود داخل شطح است اما چون از حضرت سید عبد القادر قدس سرہ در حال صحو صادر شدہ کنایہ است از وصول ایشان بمقامی کہ فوق ولایت است و صاحبش حاکم بر ولی بمثابہ کہ اگر آنرا در عالم محسوس تمثال آورند چنان واقع میشود کہ قدم صاحب آن مقام محاذی گردن ولی باشد و نسبت میانہ این دو مرتبہ از روی شرف و شان نسبت کسی است کہ پای بر گردن دیگری داشتہ باشد و چون وصول باین مقام از غیب است مامور بگفتن و خبر دادن از آن شدہ چون حق صرف است واز وجود بشری شایبہ اثری با آن نبود جمیع اولیا گردن نہادند و بجان قبول نمودند و بدانکہ این اشارہ است بآنکہ بمقامی رسیدہ کہ اگر ختم نبوت نشدہ بودی او نبی شدی و قدمی کنایہ است از موقف عرفان یعنی معرفت من از قسم معرفت انبیا است و انجا ایستادہ ام و ہم چنانچہ گردن اولیای زمان زیر بار متابعت من است من منصرفم در ہمہ انتہی ہفتاد و پنجم گفتہ است انس جلیس شارح ابن بادیس ہفتاد و ششم گفتہ است عالم علامہ حبر فہامہ امام عبد اللہ یافعی شافعی یمنی رحمہما اللہ تعالی در کتاب خود خلاصۃ المفاخر در مناقب غوث ملکوت قطب صمدانی عارف ربانی اشرف اقطاب سید السادات سید محی الدین سید عبد القادر حسنی و حسینی جیلانی رضی اللہ عنہ و در تکملہ خلاصۃ المفاخر و این است عبارت آن ذکر نسبہ مولدہ و صفتہ رضی اللہ عنہ اما نسب او پس شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر بن ابو صالح سید موسی جنگی دوست بن سید ابی عبد اللہ بن سید یحیی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبد اللہ بن سید موسی الجون بن سید عبد اللہ محض و ینعت ایضا بالمجل بضم میم و تشدید لام من الاجلال بن حسن المثنی بن حسن بن علی بن ابیطالب رضوان اللہ علیہم سبط سید ابو عبد اللہ صومعی زاہد و در جیلان بدو شناختہ شید و اما مولد او پس از و سوال کردند فرمودند از روی حقیقت نمی دانم ولیکن در آن سال کہ من در بغداد در آمدم تمیمی نقل کرد عمر من ہژدہ سال بود بعضی از اہل علم گفتند تمیمی مذکور ابو محمد رزاق بن عبد الوہاب است

در سنہ ثمان و ثمانین و اربعمائۃ یعنی چہار صد و ہشتاد و ہشت نقل کرد پس مولد رضی اللہ عنہ بدین طریق در سنہ سبعین و اربعمائۃ شد و ذکر کرد ابو الفضل احمد بن صالح بن شافع جیلی کہ بدرستیکہ مولد شیخ محی الدین سید عبد القادر در سنۃ احدی و سبعین و اربعمائۃ در گیلان بود و آنزمان کہ در بغداد در آمد سال سنہ ثمان و ثمانین و اربعمائۃ بود و عمر شیخ محی الدین سید عبد القادر رباشد ہژدہ سال و جیلانی بعضی گفتند بجیل بکسر جیم و سکون یا و آن بلاد ورا طبرستان است آنرا جیلان و گیلان و گیل ہم گویند و بعضی گویند کہ منسوب است بجد خود جیلان واللہ اعلم و والدۂ شیخ ام الخیر فاطمہ بنت سید عبد اللہ صومعی و والدۂ شیخ را حظی وافر بود از خیر و صلاح و صومعی از اجلا مشائخ جیلان و رؤسای زہاد ایشان بود احوال سنیہ و کرامات جلیہ داشت و برادر شیخ محی الدین سید عبد القادر شیخ ابو محمد سید عبد اللہ بود در عمر از شیخ محی الدین سید عبد القادر خورد بود ناشی بتقوی صالح در علم و خیر و در حال جوانی متوفی شد و عمہ او عورتی صالحہ صاحبہ کرامات بود عائشہ نام داشتہ بود و کنیت او ام محمد بود وقتی در بلاد جیلان قحط شد و اہل جیلان استسقا کردند ہیچ باران نشد پس جمیع خلق و مشائخ بر در خانہ عائشہ مذکورہ آمدند و از وی دعاء استسقاء درخواست کردند درخواست کردند او برخواست و صحن خانہ را جاروب داد و گفت یارب انی کنست فرش انت یعنی ای پروردگار من جاروب کردم و تو آب پاش در حال باران بجوا فواہ قرب بارید و ایشان میان آب خوض کنان بازگشتند انتہی ہفتاد و ہفتم در وقائع خلفاء عباسیہ مع ذکر المستنجد باللہ آوردہ است نسب شریف و تولد ایشان و وفات ایشان رضی اللہ عنہ را ذکر المستنجد باللہ ابو المظفر یوسف بن محمد و بیان آنچہ در ایام اقبال او واقع شد از نیک و بد منتبیان آثار سابقہ و مستحفظان اخبار لاحقہ آوردہ اند کہ ولادت یوسف بن مقتفی در غرۂ ربیع الآخر سنہ خمس عشر و خمسمائۃ اتفاق افتاد و چون بسن رشد و تمیز رسید مقتفی منصب ولایت عہد خود بدو داد و او را المستنجد باللہ لقب نہاد اما در وقتیکہ مقتفی بسکرات موت گرفتار گشت پسر دیگرش ابو علی داعیہ خلافت نمودہ مادر آن پسر از امراء ارکان دولت رشو تہا قبول کرد کہ بعد از وفات مستنجد ابو علی را بمسند خلافت نشانید آن جماعت گفتند کہ ما دست بیعت بمستنجد دادہ ایم حالا بچہ تاویل نقض عہد

نمایم مادر ابوعلی گفت که چون مستنجد بدیدن در آید من خاطر شمارا از مہم او فارغ گردانم آنگاه جمعی کنیزکان را
کاردہا داده در کمین نشاند که چون مستنجد پای دران خانه نهد دست بردی نمایند و یکی از خواجه
سرایان برین مکیدت اطلاع یافته صورت قضیه را معروض عضد الدین که او را استاد الدار میگفتند
گردانید و عز الدین مستنجد را تنبیه نموده او در غایت احتیاط نزد پدر رفت و چون مقتفی رخت سفر
آخرت بربست ابو المستنجد بر مسند خلافت نشست و ابوعلی را با مادرش محبوس کرده مجموع آن کنیزکان را در
دجله افگند و مستنجد بوفور فراست و کیاست موصوف بود و بتمهید بساط عدالت و رعیت پروری
مردم مقرری پیشه را همیشه مسترحم میساخت و هرگز گوش بسخن ساعی و نمام نمی انداخت نقلست که نوبتی
مستنجد بحبس یکی از غمازان امر فرمود آن شخص مدتی مدید در زندان مانده مردی از دوستان او بعرض
مستنجد رسانید که اگر از موقف خلافت حکم باطلاق آن دوست من صادر گردد بتقبل مینمایم که
ده هزار دینار بخزانه عامره رسانم خلیفه جواب داد که اگر تو مانند آن غماز شریر دیگر پیدا کنی که محبوس
گردانم من بشکرانه ده هزار دینار بتو انعام میکنم و وزارتش تعلق بعون الدین یحیی بن محمد بن ہبیره میداشت
وعون الدین بمعاونت رای صاحب و مظاہرت تدبیر ثاقب کما ینبغی بتمشیت آن امر قیام می نمود و در
تشیید مبانی احکام شرع شریف و تمهید قواعد ملت منیف مهما امکن سعی میفرمود و او در سنه ستین
و خمسمایه وفات یافته شرف الدین ابوجعفر بن احمد بر مسند وزارت نشست و در سنه ۵۶۱ شیخ محی الدین سید
عبد القادر جیلانی بجوار مغفرت سبحانی پیوست و هو محی الدین سید عبد القادر ابن ابی صالح موسی
ابن ابی عبد الله بن یحیی بن محمد بن داود بن موسی بن عبد الله بن موسی الجون بن عبد الله المحض
بن حسن المثنی بن الامام حسن بن علی بن ابی طالب کرم الله وجهه رضی الله عنهم اجمعین و مادر شیخ محی الدین
عبد القادر را جیلانی گویند و تولد آنجناب در گیلان فی سنه احدی سبعین و اربعمائه یا سنه ۴۷۱ روی
نمود و چون سن شریفش بهژده سالگی رسید فی سنه ثمانین و اربعمائة به بغداد تشریف قدوم ارزانی فرمود
و در آن دیار بدرجه فضل و کمال ترقی کرده از آنجناب کرامات و خوارق عادات بحیز ظهور رسید
چنانچه در کتب مبسوط مسطور است در نفحات از شیخ شهاب الدین سهروردی مرویست که گفت

شنیدم از شیخ محی الدین شیخ عبد القادر کہ میگفت کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما رفع المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدما الا وضعت فی موضعہ الا ان یکون قدما من اقدام النبوۃ فانہ لا سبیل الی ان یناله غیر نبی ودرسنہ اثنین وستین وخمسمایہ صاحب تصانیف تاج الاسلام حافظ ابو سعید عبد الکریم بن محمد بن منصور الحلاج کہ محدث مشرق بود از جہان فانی روی بعالم جاودانی آورد ودرسنہ ثالث وستین وخمسمایہ ذکر المستضی بنور اللہ ابو محمود حسن بن یوسف المستنجد کہ نسبش بدوازدہ واسطہ بامیر المومنین ابو بکر بن ابی قحافہ میرسد ودر اکثر فنون مصنفات مفیدہ دارد وجہان فانی را وداع کرد ودر ۵۶۶ مستنجد مریض شدہ گلشن حیات را پدرود کرد مدت خلافتش یازدہ سال ویکماہ بود واوقات حیاتش پنجاہ وشش سال انتہی ہفتاد وہشتم گفتہ است علامہ جامع سیدی احمد بن مبارک لطی صاحب ابریز ہفتاد ونہم گفتہ است در کتاب جامع الاصول الشہیر ہشتادم گفتہ است شیخ محبی در خلاصۃ الاثر در ترجمہ سید نعمت اللہ کہ از نسل جیلی است انتہی ہشتاد یکم گفتہ است عالم فاضل سید عبد اللطیف المعروف بسید شاہ محی الدین قادری نقوی ویلوری در کتاب خود فصل الخطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً ومصلیاً ومسلماً عظماء علماء اعلام وکبراء اولیاء عظام کہ ارکان اسلام واقطاب شرع عالی مقام اند اتفاق کردہ اندبرین کہ حضرت سید الاصفیا وامام العلماء جناب سید ابو محمد محی الدین عبد القادر حسنی وحسینی جعفری جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ در اقامت شعائر شریعت والتزام احکام کتاب وسنت چندان مبالغہ داشتند واز ہر صاحب حال کہ اندک فتور در تتبع شرع بامر النوادر یافت میفرمودند تا دیبش ہمت می گماشتند کہ مریدی پیران متصور نبود ووعظ آنجناب بافادت حقائق وعلوم چہل سال ودرس وفتوی آنحضرت بافاضہ پانزدہ علم سی وسہ سال بود ومشاہیر علماء ماجدین از مفسرین ومحدثین وفقہا واصولین وغیرہم کہ کہ چندی از انہا کہ بامیر المومنین ملقب بودند وبسیاری از آنہا ارباب تصانیف رائقہ اند وتعداد ایشان طولی دارد شاگردان جناب عالی شان بودند تا آنکہ باسناد صحیح متصل بروایت ثقات مکمل ثابت شد کہ چون آنجناب مجلی بزیارت امام احمد حنبل تشریف بردند وامام ہمام از قبر بیرون

آمدند و خلعت نورانی گذرانیده و معانقه نموده گفتند که من در علم شریعت و علم حقیقت محتاج ایشان ہستم انتهی کلام فصل الخطاب و ہمچنین آورده ہست در قلائد الجواہر شیخ محمد بن یحیی التادفی حنبلی و ملا علی قاری در نزہۃ الخاطر و شیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر لخمی شطنوفی و محمد صادق در مناقب غوثیه و دیگر کتب در فصل علیحده تحریر میشود در انجا باید دید در باب بیان کرامات ایشان رضی الله عنه انتهی ہشتاد و دوم گفته ہست امام عارف بالله ذوی الصبابۃ فی الحضرۃ النبویه سید عبد الرحیم برعی ذکر کرده ہست نسب شریف را در قصیده ربانیه که متوسل است بحضرت نبویه صلی الله علیه وسلم و رجال خرقه جیلانیه دریافت کردند و مطالعه نمودند آنرا که در آن گفته ہست تا به اینجا شیخ ابی سعید تلامیذ غوث رضی الله عنه که شیخ سید عبد القادر رضی الله عنه فضل ایشان طلوع کرده ہست مانند نور و آفتاب روشن در حسن و مانند ماه شب چهارده و پر نور گردانید چشم ہای نظاره کننده گان را که از آل فاطمه زہرا است صاحب عزت و شرافت و مانند تیغ آبدار در روشنی حسن ایشان رضی الله عنه که تابید نور از پیشانی ایشان و ہیبت جلال ایشان رضی الله عنه ہشتاد و سیوم گفته ہست شیخ جبرتی در تاریخ خود در ترجمه سید عبد الخالق مصری حفید جیلی انتهی ہشتاد و چهارم گفته است سردار ما محمد ملائی تونسی ہشتاد و پنجم گفته است شیخ ذو الانوار و الکرامات الغزار سیدی محمد بن اسمٰعیل کیالی حلبی در رساله خود آنکه حاصل شده ہست در ان مشرب سنت سنیه قادریه و شاذلیه و رفاعیه و نقشبندیه و از ہمه مقدم ہست بشہادت ہفتاد و پنج نفر از علماء اعلام طریقه قادریه ہشتاد و ششم گفته ہست شیخ محمد عیسیٰ قیروانی ہشتاد و ہفتم گفته ہست عالم صاحب ذوق و شوق صوفیه شیخ محمد امین گیلانی تونسی در مواہب جلیله انتهی ہشتاد و ہشتم گفته ہست قطب کامل سردار ما عبد الله علوی یمنی ہشتاد و نہم گفته ہست صاحب مسالک الابصار عالم علامه ابو العباس شہاب الدین احمد ابن فضل الله عمری دمشقی قدس سره در تاریخ خود مسالک الابصار فی البلاد و الامصار در جزء ہشتم آن در نزد ذکر ترجمه سردار ما سید عبد القادر جیلانی و از ایشان شیخ سید عبد القادر

عبد القادر الی صدره والبسه خلعة ... ایاک فی علم الشریعة و علم الحقیقة ... رضی الله عنهم انتهی کذا فی قلائد الجواهر صفحه ۹۳ مطبوعه مصر

بن سید موسی ابی صالح الملقب بجنگی دوست بن عبد اللہ بن یحیی زاہد جیلی حنبلی نشان اولیاء
محی الدین سید الطائفہ کہ تولد شدہ اند در جیلان در سنہ چہار صد و یک و داخل شدند در بغداد
در حال عنفوان جوانی و عبارت این کتاب سقوط یافتہ در تعداد عربیہ و آن عبارت مسالک
الابصار این است قال الامام العلامۃ ابو العباس شہاب الدین احمد ابن فضل اللہ العمری الدمشقی
قدس سرہ بتاریخہ (مسالک الابصار فی البلاد والامصار) فی الجزء الثامن منہ عند ذکر ترجمۃ سیدنا
السید عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ وقد ترجمہ ترجمۃ عظیمۃ جدا اولہا ومنہم الشیخ عبد القادر بن ابی
صالح عبد اللہ بن جنگی دوست الجیلی الحنبلی علم الاولیاء محی الدین ابو محمد سید طائفہ کانوا بالنہار لا یفترون
وبالاسحار ہم یستغفرون طلع من ہاشم بن عبد مناف فی الذوائب وکرع منہ فی غدیر لم یرفع بالسوائب
وکان من الشرف فی تشامخ خلالہ وراسخ النسب العلوی فی کرم خلالہ وکان لہ مجلس یوالی فیہ
الانتجاب ویحرک فیہ الاصحاب وتری الجبال تحسبہا جامدۃ وہی تمر مر السحاب فما برح اجتہادہ محدودا
وجہادہ بقول عیسی ان یبعثک ربک مقام محمودا وکان مخلصا دون اتکالہ ومخلصا توکل علی اللہ
حق اتکالہ علی انہ بقیۃ قوم ہم جیعون کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وصلوا اللیالی بالاسحار ورکبوا
ہیج الفیافی وقفار البحار فہم واما کانوا یعملون وعلی ربہم یتوکلون مولدہ بجیلان سنۃ احدی و
سبعین واربعمائۃ وقدم بغداد شابا فتفقہ علی ابی سعید المخرمی وسمع الحدیث من جماعۃ وحدث عنہ
طائفۃ من الکتاب انتہی ملخصہ و ذکر فی الکتاب المذکور من کراماتہ وخوارق عاداتہ واقوالہ شیئا کثیرا
قدس سرہ نود دوم گفتہ است ابن شاکر در تکملہ خود نود و یکم گفتہ است شیخ ابن زکی نود و دوم
گفتہ است سردار مصطفٰی بکری نود و سیوم گفتہ است علامہ یفرنی نود و چہارم گفتہ است
امام ابن ارزق نود و پنجم گفتہ است سردار ما عبد السلام اسمر نود و ششم گفتہ است امام
منزلی نود و ہفتم گفتہ است عالم ربانی سید ابی بکر شطا المکی در نفحۃ الرحمن نود و ہشتم شیخ عیسی
التجانی در شرح استغاثہ تصریح کردہ است بہ نسب شریف جیلانی در نزد قول خود در نظم مولائی
عبد القادر جیلانی - عونا علی خستہ اطمانی - نود و نہم گفتہ است علامہ ابو المحاسن القاوقجی شاذلی

وبعضی گفتہ اند القاب قطبی در نظم اسما آباء کرام رضی اللہ عنہم گفتہ است ؎ یا ربنا بالہیکل النورانی قطب الوجود ومنجد العیانی ، غوث الوری وغیاثہ الباز عبد القادر الجیلانی قُدِّسَ سِرُّہٗ صد دوم گفتہ است عالم فاضل محدث شیخ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ در کتاب خود زبدۃ الآثار بیان نسب شریف ایشان رضی اللہ عنہ وصل در ذکر نسب وصفت آنحضرت غوث الاعظم شیخ شیوخ العالم سید السادات شیخ الاسلام شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر بن ابی صالح موسی بن ابی عبد اللہ بن یحیی الزاہد بن محمد بن داؤد بن موسی بن عبد اللہ بن موسی الجون بن عبد المحض ملقب بالمجل بن حسن المثنی بن حسن بن علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین سبط ابی عبد اللہ صومعی زاہد بود نسبت ناحیہ میشد ہنگامیکہ بجیلان بود ووی رضی اللہ عنہ منسوب است بسوی جیل بکسر جیم وسکون یا ووی بلاد متفرقہ است ورای طبرستان وولادت وی مولود شد در بنیق قصبہ ازان است وگفتہ میشود اورا نیز گیلان و جیلان وگیل نیز قریہ است بر ساحل دجلہ بر مسافت یکروز از بغداد متصل بطریق واسط وگفتہ میشود اورا جیل عجم وگیل عجم وگیل عراق وجیل نیز قریہ است تحت مداین ودر روایتی آمدہ کہ جیلانی منسوب است بجد او کہ جیلان است واز بعضی گیلانیان شنیدہ شد کہ مخدوم زادہای ایشان در گیلان ہستند بر مذہب اہل سنت وابو عبد اللہ صومعی از اجلۂ مشایخ جیلان ورؤسا زہاد ایشان صاحب احوال سنیہ وکرامات جلیہ ملاقات کرد جماعتی از عظمای مشایخ عراق وعجم را وبود مجیب الدعوات وبود با وجود ضعف وقوت وکبر سن کثیر النوافل دائم الذکر ظاہر الخشوع صابر بر حفظ حال ومراعات اوقات وبود وی کہ خبر میداد بامری پیش از وقوع آن پس واقع میشد چنانچہ خبر دادہ بود وبعضی مشایخ از وی حکایات نقل کردہ اند وام وی رضی اللہ عنہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت آبی عبد اللہ صومعی بود مر اورا حظی وافر از خیر وصلاح روایت کردہ است شیخ الجلیل ابو محمد عبد اللطیف بن شیخ قدوہ ابو النجیب از مشایخ کہ گفتند بود مرام الخیر امۃ الجبار فاطمہ ام شیخ عبد القادر را قدمی راسخ در ین طریق وشنیدم اورا کہ میگفت بارہا چون زائیدم پسر خود را عبد القادر نمی مکید پستان مرا در ماہ رمضان وپنہان بر مردم ہلال پس آمدند مردم نزد من وپرسیدند مرا از حال وے

پس گفتم مرا ایشان را نخورده است امروز شیر پستیر واضح شد که آن روز از رمضان بود مشهور
شد در شہرہا در آن وقت که مولود شده است مرا شراف را ولدی که شیر نمیخورد در نہار رمضان
و برادر وی رضی اللہ عنہ شیخ ابو احمد عبد اللہ خورد تر از وی رضی اللہ عنہ ناشی شد نشا صالح در
علم و خیر و مرد گیلان جوان و عمہ وی رضی اللہ عنہ شیخہ صالحہ ام محمد عائشہ صاحب کرامت ظاہرہ
و روایت کرده شده است که یکبارگی قحط افتاد در جیلان و استسقا کردند اہل آن پس آب داده
نشدند پس آمدند بر شیخہ ام محمد عائشہ عمہ شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ و عنہا و درخواستند از وی
استسقا را پس ایستاد بسوی صحن خانہ و جاروب داد وی او زمین را و گفت خدا وندا من جاروب
دادم آب پاشیدن از در تست پس درنگ نشد که بارید آسمان ہمچو دہنہای مشکہا و برگشتند
مردم بسوی خانہای خود در آب و عمر دراز یافت و مرد گیلان تنبیہ گذشت در نسب متقدم
چون وی لقب است مر موسیٰ را و وی از اسما اضداد است اطلاق کرده میشود بر ابیض و
اسود و این اکثر است در استعمال و ہمین است مراد اینجا و موسیٰ ادم اللون بود از ادمت و
ادمت سفیدی مخلوط بسیاہی و باردار شد بوی مادر وی در شصت سالگی و گفته اند حمل در شصت
سالگی مخصوص بزنان قریش است و محض لقب عبد اللہ است و ہر شئی خالص را محض گویند لقب
کرده شد بدان عبد اللہ زیرا که پدر او حسن بن حسن بن علی است و مادر وی فاطمہ بنت حسین
بن علی است پس خالص است النسب او از موالات پس کریم الطرفین است و از ینجا است الحسنی
الحسینی خوانده اند و محل بضم میم و فتح میم لقب حسن مثنی است سلام اللہ علیہم اجمعین انتہیٰ و تاریخ عمر
ایشان و وفات ایشان از کتاب مخبر الواصلین منظوم از جناب شیخ رحمہ اللہ فاضل ہند شیخ عبد الحق

حامی شرع و دین نیک نسق	عالم و متقی و عارف بود	العلوم عربیہ واقف بود	شرح مشکاۃ از تصانیفش
تازی و فارسی است تالیفش	آنچہ او را دگر تصانیف است	چہ بنظم و چہ نثر تالیف ست	بتہا لیش کہ در شمار آمد
ہمگی ہشصد و ہزار آمد	عمر او بود یکصد و دہ سال	کانت ما ن شد از ین سرا لال	سال انقالش خرد عیان و ہفت
بخلائق بہشت مرقد گفت	مدفن او بشہر دہلی دان	مسکن او بشہر دہلی دان	صد و یکم گفتہ بہ ست

عالم شیخ ابی بکر عبد اللہ بن نصر صدیق شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ در کتاب خود انوار الناظر فی مناقب
سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد[١٠٢] و دوم گفتہ است عالم و امام محمد بن سعید زنجانی شافعی
رحمہما اللہ تعالیٰ در کتاب خود روضۃ الناظر و نزہۃ الخاطر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ
عنہ صد[١٠٣] و سیوم گفتہ است عالم علامہ حافظ قسطلانی شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ در کتاب خود روض
الظاہر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد[١٠٤] و چہارم گفتہ است شیخ مجد الدین—
فیروزآبادی شافعی لغوی صاحب قاموس در کتاب خود روض الناظر فی مناقب سید
عبد القادر رضی اللہ عنہ صد[١٠٥] و پنجم گفتہ است سید عبد القادر عیدروس شافعی رحمہما اللہ
در کتاب خود دار المفاخر فی مناقب شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد[١٠٦] و ششم گفتہ است
سبط ماردینی در کتاب خود مرآت الناظر صد[١٠٧] و ہفتم گفتہ است علامہ زرقانی در کتاب خود
نزہۃ الناظر در مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد[١٠٨] و ہشتم گفتہ است امام مقدسی در
بہجۃ الناظر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد[١٠٩] و نہم گفتہ است سید امام حاتم
اہدل در انوار المفاخر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد[١١٠] و دہم گفتہ است امام
حافظ ذہبی در عقد الجواہر صد[١١١] و یازدہم گفتہ است شیخ عبد الکریم جیلی در کتاب خود نفحات الربانیہ
فی المقامات الجیلانیہ صد[١١٢] و دوازدہم گفتہ است امام ناصر الدین دمشقی در کتاب خود نشر الجواہر
فی مناقب شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد[١١٣] و سیزدہم گفتہ است ابو الحسن علی یعقوبی رحمہ اللہ
در کتاب خود دار الناظر فی مناقب شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد[١١٤] و چہاردہم گفتہ است
امام ابن ملقن سراج الدین عمر ابو حفص عمر بن علی بن احمد بن محمد انصاری شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ
کہ وفات یافتہ در سنہ ہشت صد و چہار در کتاب خود درر الجواہر صد[١١٥] و پانزدہم گفتہ است
ہاشمی گیلانی حسنی نقیب حماہ در لوامع الانوار صد[١١٦] و شانزدہم گفتہ است علامہ قدوۂ فہامہ
شیخ محمد بن محمد بخشی حلبی در کتاب خود شمس المفاخر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ
صد[١١٧] و ہفدہم گفتہ است عالم فاضل سلالۂ افاضل صاحب عقل و فراست شیخ سید محمد مکی بن

استاذی سیدی مصطفی ابن عزوز نفعنا اللہ تعالی ببرکاتہ تونسی در کتاب خود سیف الربانی فی عنق المعترض علی الغوث الجیلانی رضی اللہ عنہ ذکر میکنیم اول علمای انساب را و انسبت کہ تصریح کردہ اند بہ متصل بودن نسب شریف محبوب سبحانی شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بجناب امیر المومنین امام حسن رضی اللہ عنہ بعد ازان تحریر کردم تمامی ایشان را کہ بثبوت رسانیدہ اند فقہا رحمہم اللہ تعالی بدانکہ ہدایت کند ترا اللہ تعالی براہ راست و نگہدارد خدا تعالی بکرم خود از مواقع اغلاط یعنی از کذب و دروغ بدرستیکہ شرافت سردار ما سید عبد القادر رضی اللہ عنہ بہرہ مند کند ما یان را خدا تعالی ببرکات ایشان و بوسیلہ ایشان ہمراہ ایشان نسب شریف کہ متصل با میر المومنین امام حسن رضی اللہ عنہ و تصریح کردہ اند علمای انساب محققان و اہل تقوی ہمیشہ ایشان بصیغہ جزم کہ ذکر میکنیم ایشانان را تاکہ بدانند کدام اند از ایشان مغفرت کند خدا تعالی جمیع ایشانان را اول عالم علامہ تہامی علمی حسنی در کتاب خود شذر الذہب فی خیر نسب پس بدرستیکہ گفتہ ہست در شرفا بغداد ستہ جماعہ علما اند و تعداد کردہ اند جیلانی ہا را و جد ہمہ ایشان سید عبد القادر جیلانی ہست رضی اللہ عنہ و مخفی نیست نسب شریف کہ حسنی اند و از شدت تحریر مولف کہ اخراج کردہ از قبائل اشراف در مغرب کہ آنہا ہستند نسبت کردہ شدہ بسیادت دویم امام احمد بن محمد بن جزی اندلسی غرناطی کہ مشہور ہست در کتاب خود مختصر البیان فی نسب آل عدنان و تصحیح کردہ بہ نامہای نسب جیلی تا بہ امام حسن رضی اللہ عنہ سیوم صاحب جوہرۃ العقول فی ذکر آل الرسول و ایشان عالم نسب اند شیخ عبد الرحمن بن عبد القادر فاسی و ذکر کردہ ہست دران مگر اشراف را و ہمہ دران اشراف اند تا کہ بدانند آن و ہمین سبب تصنیف شدہ باذن پدر خود شیخ جماعہ چہارم حافظ ابن حجر عسقلانی در غبطۃ الناظر پنجم علامہ ابن عرضون نقل علامہ مغرب شیخ محمد قنونی ششم سبط ابن جوزی در مرآت الزمان ہفتم علامہ نسابہ شیخ محمد عربی فاسی در مرآت المحاسن گفتہ ہست کہ ہست در فاس از شرفا قادریہ از اولاد قطب سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ و نسبت ایشان ثابت ہست با ایشان رضی اللہ عنہ و عنہم ہشتم در انساب

قرطاس ذکر نسب ایشان تا بہ امام حسن رضی اللہ عنہ نہم امام نسابہ ابن فرحون در کتاب خود مسمی
باعتبار و تواریخ الاخبار کہ تعریف کردہ شدہ است بسوئی بنی مختار صلی اللہ علیہ وسلم و نیست
ابراہیم فقیہ معروف است بلکہ نام ایشان علی صاحب کتاب فم خبائث دہم علامہ نسابہ ابن طیب
یازدہم شیخ محمد بن عبد الرحمٰن فاسی در شرح بادیہ آوردہ است دوازدہم مشجر شیخ مراد بغدادی
سیزدہم در نتیجۃ التحقیق فی بعض اہل النسب الوثیق از شیخ مناوی صاحب تحریر و ضوابط
در انساب اشراف پانزدہم مشجر عالم شیخ محمد بن عباد اندلسی شانزدہم مشجر عالم شیخ علی بن عبد الوہاب
شامی ہفدہم شیخ عبد الواحد لوانشریسی در مشجر خود ہژدہم عالم علامہ امام اہل ورع در زمانہ خود شیخ
رضوان بن عبد اللہ در مشجر خود نوزدہم شیخ عالم عبد الواحد الحمیدی بیستم شیخ رقیم علی صقلی
حسنی بیست و یکم عارف النساب شیخ ابو توفیق بلیحی مصری در کتاب خود سرور القلب بیست و دوم
کتاب درسنی در بعض اہل نسب حسنی بیست و سیوم ابن الوردی در تاریخ خود بیست و چہارم مولانا
علی بن سلطان القاری مکی در کتاب خود بیست و پنجم سید مومن صاحب نور الابصار فی مناقب
آل بیت بنی مختار صلی اللہ علیہ وسلم بیست و ششم حافظ النساب شیخ عبد اللہ بن طاہر سجلماسی
بیست و ہفتم در شجرۃ الانساب تلخیص عالم سید علی بن موسیٰ جزائری بیست و ہشتم در شجرۂ محمدی
آوردہ است از ہفتاد نفر نقبائ امصار شرف و صحت نسب جیلی را بیست و نہم جامع علم الظاہر و
الباطن قطب ربانی سردار ما عبد الوہاب شعرانی در طبقات خود سی ام عالم کبیر عارف شہیر سید احمد
زروق فاسی سی و یکم شیخ صفدی سی و دوم عفیف بن مبارک صاحب فتح ربانی سی و سیوم شیخ
مراد شاذلی در فتح کامل سی و چہارم استاذ ابن بامخرمہ سی و پنجم شیخ علی بن یوسف یمنی سی و ششم شیخ
نور الدین جامی در نفحات الانس سی و ہفتم انس الجلیس ابن بادیس سی و ہشتم امام عبد اللہ یافعی شافعی
سی و نہم حافظ ذہبی بنقل مناوی چہلم استاد سید عبد الرزاق پسر امام جیلی در اول فتوح الغیب کہ
گفتہ است گفت پدر من ابو محمد محی الدین سید عبد القادر نسب شریف خود را تا بہ امام حسن رضی اللہ
عنہ چہل و یکم علامہ جامع سیدی احمد بن مبارک لمطی صاحب ابریز چہل و دوم جامع الاصول مشہور

چہلم وسیوم شیخ محبی در خلاصۃ الاثر در ترجمہ سید نعمت اللہ کہ از نسل جیلی است چہل وچہارم
امام عارف باللہ ذوی صبابہ در حضرت نبویہ سید عبدالرحیم برعی ذکر کردہ است بحیثیت در قصیدہ
ربانیہ کہ توسل کردہ است در حضرت نبویہ ورجال خرقہ جیلیہ کہ شیوع یافتہ است چہل وپنجم
شیخ جبرتی در تاریخ خود در ترجمہ سید عبدالخالق مصری حفید جیلی چہل وششم سید محمد تونسی چہل
وہفتم شیخ محمد بن یحیی التادفی در قلائد الجواہر چہل وہشتم اربلی مقدسی در تفریح الخاطر چہل ونہم
شیخ ذو الانوار والکرامات سید محمد بن اسماعیل کیالی حلبی در رسالہ خود پنجاہ ام شیخ محمد عیسی
قیروانی پنجاہ ویکم شیخ محمد ابن گیلانی تونسی در مواہب جلیلہ پنجاہ ودوم قطب کامل سردار ما
عبداللہ باعلوی یمنی پنجاہ وسیوم ابن فضل اللہ در مسالک الابصار پنجاہ وچہارم ابن شاکر
در تکملہ خود پنجاہ وپنجم شیخ ابن زکی چہل وششم سردار مصطفی بکری پنجاہ وہفتم علامہ یفرنی پنجاہ
وہشتم امام ابن ازرق پنجاہ ونہم سردار عبدالسلام اسمر شصتم امام منزلی شصت ویکم عالم ربانی
سید ابی بکر شط مکی شصت ودوم شیخ عیسی تجانی در شرح استغاثہ تصریح کردہ بنسب
جیلی در نظم ؎ مولائی عبدالقادر جیلانی ؎ عونا علی ذی خستہ اظمانی ؎ صد و ہژدہم گفتہ است
سلطان محمد دارا شکوہ در کتاب خود سفینۃ الاولیا حضرت غوث الثقلین شاہ محی الدین سید
عبدالقادر الحسنی الحسینی رضی اللہ عنہ کنیت ایشان پادشاہ مشائخ اند رطریقت وامام ائمہ
اندر شریعت ومحبوب ربانی ابو محمد است ونام شریف آن پیر زمانہ سرور عارفان یگانہ شرف نہاد
فخر عباد قطب صمدانی سید عبدالقادر وہو ابن ابی صالح سید موسی جنگی دوست بن سید
ابی عبداللہ بن سید یحیی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبداللہ بن
سید موسی الجون بن سید عبداللہ المحض بن حسن المثنی بن حسن بن علی مرتضی رضی اللہ عنہم
وحسنی وحسینی از آن جہت گویند کہ پدر عبداللہ محض حسن مثنی بن حسن بن علی مرتضی است رضی اللہ عنہم
ومادر عبداللہ محض فاطمہ بنت حسین بن علی مرتضی است رضی اللہ عنہم دیگر آنکہ والدہ ماجدہ آنحضرت
نیز حسینی بودہ اند تاریخ رحلت سلطان دارا شکوہ ؎ از کتاب مخبر الواصلین

سنه ۱۰۷۰

آنکه شاه بلند اقبال است ❊ رتبه اش در مقام ابدال است
شاه دارا شکوه نامش بود ❊ در کمالات شیخ جامش بود
جمعه و غره مه عاشور ❊ بود روز وصال آن مغفور
مرقد آن قتیل عشق آله ❊ هست در گنبد همایون شاه
در جهان بود و از جهان بیرون ❊ نتوان گفت حق درون و برون
هر که او محو حق بود بیدار ❊ حالت او چنین بود ناچار
در حقائق کسی باو نرسید ❊ گفت شبلی هر آنکه او را دید
چون از این دار امکاه حزن و ملال ❊ شد بفردوس با دل خوشحال
سال تاریخ نقل آن شه دین ❊ شد رقم صفا بهشت برین
آنکه او دلربای عالم بود ❊ عارف حق تمامی عالم بود
محرم بزم لی مع الله بود ❊ بینیاز که او ازشه بود
بجهان شاه دلربا بوده ❊ بخدا عارف خدا بوده

بیشک وریب سال رحلت او ❊ منزل دلربا بهشت بگو

صد و نوزدهم گفته هست عالم فاضل محمد صادق لطیفی قادری متخلص بمشربی در کتاب خود خوارق صادقیه من مواهب قادریه ناقل از بحر انساب آورده هست مکاشفه دوازدهم در مشاهده یازدهم حضرت غوث الاعظم و شرح طرح اعداد آن بیازده عدد احسن بینه امام حسن ای خلاصه جان و تن و ای مجموعه روح و بدن این مکاشفه اسم مبارک حضرت امام حسن را بوجه احسن فهم کن و خاطر خود را از نفاق بیوهم کن و بدانکه اسم مبارک امام همام رضی الله عنه مرکب از سه حرف است و بینه اسم شریف آن جوهر لطیف دو حرف اند یکی حرف سین و دویم حرف نون و عدد هر دو حروف یکصد و ده اند که باعداد اسم علی متحد اند زهی پدر که در بینه پسر مبین آمده و زهی پسر که بحسن پدر متعین شده زهی خلف اشرف که بینه اسم شاه نجف می آید و زهی بینه اش که بیازدهم غوث الاعظم مشرف مینماید عزیز من اسم بینه امام حسن رضی الله عنه که دو حرف اند و یکصد و ده عدد طرحند همه بیازده بیازده طرح می پذیرند و این یازدهم که مخصوص بغوث الاعظم است اظهر من الشمس است و آن محبوب سبحانی فرزند دلبند جگر پیوند امام همام است که سلسله نسب وی رضی الله عنه بیازده واسطه بحضرت امام حسن رضی الله عنه میرسد که بینه اسم امام حسن یازده عشره اند و این سر بیست معظم از اسرار غوث الاعظم که کم کسی بکنه این اسرار بزرگ اطلاع یافته است و اسماء آن یازده بزرگوار که هریک برگزیدگان خدا و نور دیدگان

مصطفیٰ وآبای مکرم حضرت غوث الاعظم اند در بحر الانساب وغیرہ کتاب چنین بصحت رسیدہ اند
کہ السید الشریف والجوہر اللطیف قطب ربانی محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین السید الشیخ عبد القادر جیلانی
ابن سید ابی صالح موسیٰ وہو ابن سید عبد اللہ وہو ابن سید یحییٰ زاہد وہو ابن سید محمد وہو
ابن سید داؤد وہو ابن سید موسیٰ ثانی وہو ابن سید عبد اللہ ثانی وہو ابن سید موسیٰ
الجون وہو ابن سید عبد اللہ المحض وہو ابن سید حسن المثنیٰ وہو ابن حضرت امام حسن بن علی المرتضیٰ
رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین بدانکہ از پدر بزرگوار حضرت محبوب سبحانی کہ اسم مبارکش سید ابی صالح
موسیٰ است بحضرت امام حسن یازدہ بواسطہ متوسط اند وبر بر واسطہ متوسط اند اگر بینہ اعداد اسم
امام حسن را تفریق دہی وبہر یکی عشرہ بعشرہ بتقسیم نہی یازدہ عشرہ کاملہ کہ در اصل اعداد اسم
شریف حضرت علی وباعتبار بینات اعداد بینہ امام حسن اند رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ حقائق و
دقائق یازدہم حضرت غوث الاعظم ترا منکشف خواہند نمود وعزیز من در سلسلہ شریفہ حسینیہ
دوازدہ امام حسنی اند کہ الیشان ائمۃ المومنین وامام المسلمین خوانند ودر سلسلہ شریفہ سادات
حسینیہ ذات بابرکات حضرت غوث الاعظم امام العارفین وقطب الموحدین است کہ مخاطب
بخطاب غوث الاعظم وقطب الاقطاب ومحبوب سبحانی است کہ خدا تعالیٰ بیازدہ خطاب مستطاب
معزز نمود کہ آن معروف ومشہور اند مشربلی ای آل حسن ای مصدر حال حسن ٭ ای باخط و
خال حسن محبوب ذات کبریا ٭ نور حسین وہم حسن در ذات تو سر وعلن ٭ تو جانی وعالم بدن از
تو منور جسمہا ٭ صدق ۱۲۰ وبستم گفتہ است عالم فاضل وعامل وولی کامل لاشک ولاریب مولانا
حضرت شیخ محمد شعیب ابن مولانا حافظ گل محمد رحمہما اللہ تعالیٰ در کتاب مرات الاولیا در بیان
سلسلۂ قادریہ غوث اعظم وقطب اکرم غوث الثقلین قطب الخافقین محبوب سبحانی سید عبد القادر
جیلانی والیشان از پدر خود سید موسیٰ والیشان از پدر خود سید عبد اللہ گیلی والیشان از پدر خود
سید یحییٰ زاہد والیشان از پدر خود سید محمد والیشان از پدر خود سید داؤد والیشان از پدر خود
سید موسیٰ والیشان از پدر خود سید عبد اللہ محمد والیشان از پدر خود سید موسیٰ الجون والیشان

بلم

از پدر خود سید عبد اللہ المحض و ایشان از پدر خود سید حسن المثنی و ایشان از پدر خود امام المتقین سید نا حسن رضی اللہ عنہ و ایشان از مادر خود بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا و ایشان از حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ و ایشان از حضرت سرور کائنات شفیع عرصات رحمۃ للعالمین سید الاولین و الآخرین محمد مصطفےٰ واحمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جناب ایشان از حضرت رب العزت جل جلالہ عم نوالہ و تاریخ رحلت حضرت شیخ محمد شعیب قدس سرہ العزیز بتاریخ شانزدہم ماہ رجب سنہ ہزار و دو صد و سی و ہشت و قبر مبارک ایشان در قریہ تو دیری اضلاع شہر پشاور است و ایشان پیر طریقت از جناب ولایت مآب سالک کامل عارف مکمل مخزن اسرار و حضور حضرت شیخ مولانا عبد الغفور رحمۃ اللہ علیہ المشہور بابو البرکات مولانا خوند صاحب سوات بودند صد و بیست و یکم گفتہ است عالم علامہ مولوی محمد نعیم اللہ بہرایچی حنفی نقشبندی در معمولات مظہریہ یعنی حضرت میرزا جان جانان مظہر شہید علیہ الرحمۃ در زندیان سلسلہ آوردہ است کہ سید السادات سید عبد الرزاق و ایشان از پدر خود سید السادات قطب ربانی محبوب سبحانی غوث الثقلین سید محی الدین عبد القادر جیلانی و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید السادات سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید عبد اللہ و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید یحییٰ زاہد و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید محمد و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید داؤد و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید موسیٰ و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید عبد اللہ و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید موسیٰ الجون و ایشان از پدر خود سید عبد اللہ المحض و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید السادات جامع البرکات سید حسن المثنی و ایشان از پدر خود و شیخ خود امام المومنین و قدوۃ المتقین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و ایشان از پدر خود امام ہدیٰ امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و جناب امام حسن رضی اللہ عنہ نیز از مادر خود سیدۃ النسا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید المرسلین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہیٰ صد و بیست و دوم گفتہ است عالم فاضل خواجہ

و شیخ خود

محی الدین المعروف بسید شاہ محی الدین القادری الکرنولی حیدرآبادی در کتاب معدن الاسرار
فی بیان جواہر الابرار در نزد ذکر سلسلہ قادریہ کہ سلطان الاولیا سید عبد القادر جیلانی وایشان
از پدر خود سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست وایشان از پدر خود سید عبد اللہ وایشان از پدر
خود سید یحییٰ زاہد وایشان از پدر خود سید محمد وایشان از پدر خود سید داؤد وایشان از پدر
خود سید موسیٰ وایشان از پدر خود سید عبد اللہ وایشان از پدر خود سید موسیٰ الجون و
ایشان از پدر خود سید عبد اللہ المحض وایشان از پدر خود سید حسن المثنیٰ وایشان از پدر خود
امام حسن المجتبیٰ وایشان از پدر خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ وایشان از جناب شفیع المذنبین
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صد وبیست وسیوم گفتہ است عالم فاضل سید شاہ محمد
قادری در کتاب خود والآیۃ الکبریٰ کہ سید الاولیا الاولین والآخرین فرد الافراد غوث الاغواث
حضرت محبوب السبحانی السید عبد القادر الحسنی الحسینی الجعفری الجیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ صد و
بیست وچہارم گفتہ است در تاریخ بلخ کہ مشہور است بمومن خانی بدانکہ حضرت غوث الاعظم
سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بن حضرت سید ابو صالح موسیٰ بن حضرت سید
عبد اللہ بن حضرت سید یحییٰ زاہد بن حضرت سید محمد بن حضرت سید داؤد بن حضرت سید موسیٰ بن حضرت
سید عبد اللہ بن حضرت سید موسیٰ جون بن حضرت سید عبد اللہ محض بن حضرت سید حسن مثنیٰ
بن حضرت امام حسن بن حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم انتہی صد وبیست وپنجم
گفتہ است عالم علامہ فاضل یگانہ محدث محقق مولانا شیخ عبد الحق دہلوی بخاری سمرقندی در
کتاب خود اخبار الاخیار قطب الاقطاب فرد الاحباب الغوث الاعظم الشیخ الشیوخ العالم غوث الثقلین
امام الطائفتین شیخ الطالبین شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ از اکمل اولیاء اہل بیت واز اعاظم سادات حسینیہ است از احفاد عبد اللہ محض
بن حسن مثنیٰ بن امام المسلمین حسن بن امیر المومنین علی مرتضیٰ است رضوان اللہ وسلامہ علیہم اجمعین
منسوب است بجیل کہ آنرا جیلان وگیلان نیز گویند تولد شریف آنحضرت قدس سرہ در سنہ سبعین

واربعمائۃ وبروایتی احدی وسبعین واربعمائۃ است و مدت تصدر او مرتدریس وفتوی راسی وسه سال و مدت کلام او برمردم وارشاد خلق چہل سال وعمر آنحضرت نود سال و وفات سنہ احدی وستین وخمسمائۃ و در سنہ ثمان وثمانین واربعمائۃ کہ سال عمر آنحضرت ہژدہ ببغداد قدوم سعادت لزوم ارزانی داشت وقصد اشیاخ وائمہ واعلام است وعلماء سنت واعیان دین نمودہ انتہی الخ صد وبیست وششم گفتہ است شیخ عالم احمد مغربی گنج بخش در رسالہ عربیہ خود صد وبیست وہفتم گفتہ است عالم زمانہ میر محمد صادق قادری اورنگ آبادی در رسالہ خود محبوب المعانی صد وبیست وہشتم گفتہ در کتاب محبوب القلوب بزبان ہندی دکھنی صد وبیست ونہم گفتہ است عالم فاضل حسن قطبی در لطائف قادریہ خود صد وسی ام گفتہ است عالم علامہ محدث شیخ محی الدین النووی رحمہ اللہ در بستان العارفین صد وسی ویکم گفتہ است عالم فاضل سید عطا حسین در کنز الانساب خود ثمرہ نسبت دویم باب اول ذکر اولاد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نسبت دویم در ذریت حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ واضح باد از تحریر مورخین سابقین از ازواج حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ قریب پنجاہ وشش زوجہ آمدہ اند در شمار چرا کہ آنحضرت بودند کثیر النکاح بمدت شرعی یکی بعد دیگری چہار زن موافق داشتند میکردند طلاق کثرت نکاح بود بتمنای ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآنحضرت شہربانو بودند رضی اللہ عنہما و در کتب تواریخ کل اسماء ازواجہ آنجناب نیافت کہ می نگاشت الا اسماء چند جای یافت می نگارد و بدانید زوجہ اولین خولہ بنت منظور ابن حیدر از اولاد ہاشم بن عبد المناف ہاشمی نسب از بطن این زوجہ یک فرزند رتبہ بلند جناب حضرت امام حسن مثنیٰ رضی اللہ عنہ واز بطن بی بی صفورہ بنت سعد ابن زید بن خطاب یعنی از اولاد برادر حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ یک دختر بی بی عائشہ ثانیہ کنیت ام عبد اللہ ونیز فاطمہ ثانی نام نبشتہ اند مورخین این بی بی زوجہ حضرت علی ثانی امام زین العابدین ابن امام حسین رضی اللہ عنہ وکدخدائی حسن مثنیٰ از دختر عم بزرگوار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کردند نام نامی این بی بی فاطمہ صغریٰ از بطن عفیفہ تولد

شدند سیدنا عبداللہ المحض نواسۂ حضرت امام حسن مجتبیٰ ونبیرۂ حضرت امام حسین شہید کربلا
کہ از اجداد و امجاد حضرت غوث الثقلین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہم وفرزند بی بی
ام عبداللہ عائشہ ثانی حضرت امام محمد باقر ابن حضرت امام زین العابدین نواسۂ سید الشہدا
امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ ذریات انحضرات ملقب بسادات حسنی الحسینی وحسینی الحسنی اند
کیفیت ذکر نسب بلبشیر نگاشتہ خواہد شد و رینجا تفصیل ازواج حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ
می آرند منسوبند باید شنید بی بی ام البشر دختر مسعود انصاری از بطن ابن بی بی متولد شدند
سیدنا قاسم ہستند و از زوجہ رابعہ بی بی ماہرہ تولد شدند سیدنا عبداللہ ابن امام حسن
مجتبیٰ و از بطن زوجہ خامسہ بی بی زاہدہ سیدنا ابوبکر بن حسن تولد یافتند و از بطن زوجہ
سادسہ بی بی ام ولد سیدنا عمر بن حسن پیدا شدند و از بطن زوجہ سابعہ بی بی سعدا تولد شدند
سیدنا محمد ابن حسن مجتبیٰ و از بطن بی بی ہلیسہ ثامنہ و از بطن بی بی طاہرہ چند دختران بوجود
آمدند ونیز بودند چند زوجہ بی بی فاضلہ و بی بی محمودہ و بی بی نفیہ و بی بی خدیجہ و بی بی
عابدہ دختران متولد شدہ باشد کل چہاردہ ازواج آمد بشمار الا واحدہ جعدہ بنت اشعث
کہ اسماہم نام بود کالنسہ زہر نوشیدہ شہادت یافتند انا للہ وانا الیہ راجعون ذکر فرزندان
حضرت امام حسن مثنیٰ در کتاب امامیہ تاہیجدہ نگاشتہ اند و دختران ہبیت تحریر میکند
الا اہل تسنن مورخین معتمدین ہمینقدر نوشتہ اند کہ در تحریر در آمد باید دانست پسر سیدنا
ابوبکر سید ابراہیم وفرزند سیدنا عمر سید جعفر و ابن سیدنا محمد دو اند یکی سید ابراہیم دوم سید
ادریس وفرزند سیدنا عبداللہ سید یونس و سید سلیمان کیفیت ذریت حضرت قاسم دریافت
نشد باید شنید اولاد سید ابراہیم اول سید نوح و سید سلیمان و سید داؤد اند فرزندان سید
جعفر ابن عمر زید شہید و اولاد سیدنا محمد سید موسیٰ و سید یحییٰ و سید جعفر و سید ابوبکر بودند
و اولاد سید عبداللہ سید یونس و سید اسمعیل و سید اسحاق ذریات ایشان وقت دورہ امارت
بنی امیہ و خلفاء عباسیہ خروج کردند بعض از صولت آنہا فرار شدند بعض شدند شہید ثمرۂ نسبت

دویم باب اول ذکر اولاد حضرت امام حسن مثنیٰ جد اعلیٰ حضرت غوث الثقلین
باید دانست بحضرت امام حسن مثنیٰ پنج فرزند شدند ازان جملہ اولین سیدنا عبداللہ محض ثانی
سیدنا ابراہیم ثالث سیدنا عمر رابع سیدنا حسن مثلث خامس سیدنا اصغر این ہمہ از بطن بی بی
فاطمہ صغریٰ بنت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ و از بطن جاریہ رومیہ سیدنا داؤد و سید
جعفر و سید اصغر عمر گویند اولاد حسن مثلث باقی نماند از دیگران باقی ماند ثمرۂ سیوم سیدنا
عبداللہ المحض را پنج پسر شدند از بطن بی بی رقیہ دختر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ
سہ فرزند سیدنا موسیٰ الجون و سید محمد و سید ابراہیم و از بطن جاریہ سید ادریس و سید
یحیٰ ذریت ایشان علاوہ از ذریت حضرت موسیٰ الجون کہ تفصیلاً نیز نگاشتہ خواہد شد اولاد
سید محمد شبیہ بنی فرزند کلانی ایشان سید قاسم و ثانی سید ابراہیم سیوم سید عبداللہ بلکہ بعض
اہل مذہب باطلہ و نواصب و خوارج سید محمد ابن سید عبداللہ المحض را مہدی موعود دانند چراکہ
نام پدر عبداللہ و نام مادر آمنہ بود منصور دوانقی از خلفاء عباسیہ بود اول سید محمد را محبوس
نمود بعدہ شہید کرد و حال ذریت سید ادریس و سید ابراہیم و سید یحیٰ بیکی کتاب یافتہ نشد کہ
می نوشت ثمرۂ چہارم نسبت دویم باب اول سیدنا موسیٰ کہ بسبب رنگ سیاہ والدۂ ایشان
جون گفتند یعنی جون سیاہ رنگ کہ خدائی ایشان یعنی سید موسیٰ الجون از دختر خجستہ اختر
امام محمد باقر رضی اللہ عنہ شد نام آن بی بی رقیہ ثانیہ ۔ و فرزند از بطن این بی بی شدند متولد یکی
سید ابراہیم کہ اعقاب ایشان نماند ثانی سید عبداللہ ثانی کہ ملقب بودند بشیخ صالح کہ خدائی
ایشان از بی بی ہالہ دختر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ شد از بطن این بی بی پنج فرزند
تولد گشتند پسر اکبر سید موسیٰ ثانی کہ بودند از اجداد حضرت غوث الثقلین ثانی سید سلیمان
ثالث سید احمد رابع سید یحیٰ خامس سید محمد ابو صالح ذریات ایشان جانب بخارا و ترکستان
بسیار اند ثمرۂ پنجم نسبت دویم باب دویم بذکر موسیٰ ثانی کنیت ایشان ابو عمر کہ از دختر امام
موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کدخدا شدند نام بی بی طیبہ از بطن این بی بی بوجود آمدند ہفت پسر و

و یازدہ پسر از جاریہ رومیہ حضرت موسیٰ ثانی در دو صد ہجری از شمشیر معتزلہ شد ند شہید قاتل حضرت مطیع یزید اولاد ایشان از ہمہ پسران شد آخر اعقاب نماند جز حضرت سید داؤد ثمرہ ششم نسبت دویم باب اول خلف الرشید سید موسیٰ ثانی سیدنا داود محمد لقب از اجداد حضرت غوث الثقلین بودند نام اخوان شان دریافت نشد کد خدائی حضرت سید داؤد از دختر خجستہ اختر حضرت امام علی موسیٰ رضا شد نام آن بی بی نبلیہ بود جز یک فرزند کیفیت دیگر دریافت نشد ثمرہ ہفتم نسبت دویم باب اول در ذکر سیدنا محمد کنیت ابوالقاسم معروف کد خدائی ایشان شد از دختر یکی از بنی اعمام سید حمزہ نام تسمیہ دختر شان بی بی مبارکہ از بطن این بی بی سیدنا یحییٰ زاہد تولد شدند زوجہ سید یحییٰ بی بی عصمت بودند ثمرہ ہشتم سیدنا یحییٰ را از بطن بی بی رضیہ دو فرزند یکی سید عبداللہ کہ اعقاب نماند دویمی عبداللہ شدند ثمرہ نہم کد خدائی سید عبد ثالث از دختر اخوان شد از بی بی رحمت گردید سہ فرزند شدند از انجملہ اولاد یک باقی ماند ثمرہ دہم نسبت دویم باب اول واضح باد سیدنا ابوصالح کنیت ابوصالح و موسیٰ نام جنگی دوست خدا لقب کردند ابوالاولیا، سید الاصفیا بسیار عابد و زاہد شیخ کاملین سید العارفین زوجہ آنحضرت بی بی ام الخیر فاطمہ ثانی دختر حضرت سید ابوعبداللہ صومعی کہ این حضرت در قریہ جیلان زاویہ بنا کردہ بعبادت الٰہی بودند مشغول کیفیت کرامات جد مادری حضرت غوث الثقلین بسیار است بہ بسط و طول الحاصل از بطن این عفیفہ دو فرزند یکی سید ابو احمد ثانی معزز ربانی ثانی حضرت غوث الثقلین قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی صاحب سلسلہ معنوی و موجد طریقہ قادریہ کہ از نام پاک آنحضرت منسوب است عقیدت آنجناب بہر کس مطلوب است نام خواہران حضرت غوث پاک بودی بی جلیلہ بی بی رقیہ و اسماء زوجۂ پاک بی بی تقیہ بی بی جمیلہ دو فرزند آنجناب بودند یازدہ رتبہ بلند ذریت ہر یکی پسران نیست الا اولاد سہ فرزندان درین جوار رسیدہ اند از شاخ شجرہ دریافت شد اولین سیدنا سیف الدین عبدالوہاب ثانی سیدنا عبدالرزاق شہرۂ آفاق ثالث سیدنا عبدالعزیز سجادہ نشین

بغداد از فرزندان ایشان مستند ہمین بزرگوار را اولاد رسیدہ اند درین جوار وامصار
باید شنید رابع سیدنا عبدالہادی خامس سیدنا عبدالجبار سادس سیدنا شرف الدین
سابع سیدنا یحیٰی کہ حضور اند حسب الارشاد والد ماجد خود در شعب جبال دیار مغرب مخفی اند
منتظر ملاقات حضرت عیسٰی علیہ السلام نشستہ اند ثامن سیدنا موسٰی تاسع سیدنا ابواسحاق
عاشر سیدنا ابراہیم احد عشر سیدنا عبدالجلیل ابونصر در نسب مشائخین این جوار نیافت اسمار این
نسب بزرگوار الاصلین اقامت مدینہ طیبہ و مکہ مشرفہ از بزرگی دریافت شد کہ بجز حضرت
یحیٰی کہ حضور اند دیگر برادران ذی اولاد اند واللہ اعلم الحاصل نسب نامہ مشائخین اینجوار
ازین سہ فرزند مبنی میشود از دیگران نزعی زراقیہ اند وہابیہ اند عزیزیہ اند مجل نسب نامہ
آن بزرگوار خواہد نوشت الا زراقیہ کثیر اند ونسب نامہ جانب مادری حضرت غوث الثقلین جعفری
نسب اند و نیز نسب نسب مادری چنانچہ آنحضرت خواجہ بزرگ نیز جعفری اند ونسب مادری
حضرت شیخ الشیوخ نیز جعفر انتہی صد وسی و دوم گفتہ است عالم فاضل کامل شاہ ابوالمعالی
در تحفۃ القادریہ و ثبوت کردہ است نسب شریف را انتہی صد وسی و سیوم گفتہ است عالم
فاضل کامل ابوعبداللہ سید محمد بن سید احمد بن حسن حسینی ترمذی اکبرآبادی المدعو است بمظہر
الحق کہ در عہد دولت شاہجہان شہاب الدین بادشاہ در سنہ یکہزار و شصت ہجری تصنیف
کردہ است کتاب مخبر الواصلین بنظم گفتہ است نسب شریف و تاریخ ولادت و رحلت قطب
الاقطاب غوث الثقلین شیخ الجن والانس سید محی الدین شاہ عبدالقادر الجیلانی الحنبلی رضی

اللہ عنہ ~~~	آنکہ بیشک قطب ربانی بود	بیگمان محبوب سبحانی بود	شاہ شاہان شیخ عبدالقادر ست
دلنشین و دلربا و دلبر ست	سید عالی نسب در اولیاست	نور چشم مصطفٰی و مرتضٰی است	سال مولودش ز اوج کبریا
گفت ہاتف نیک تاج اولیا	سال مولودش کہ بس رنگین ترست	شد رقم محبوب عبدالقادر ست	عقل سال نقل آن عالی شہیم
صاحب فردوس اعلیٰ زد رقم	فی صفتہ و شانہ	آنکہ محبوب حضرت حق است	بہر آفاق رحمت حق است
قطب بغداد غوث جیلانی	لیس فی الدہر مثلہ ثانی	از ہمش چرخ مہ رکاب آمد	قدمش مالک الرقاب آمد

لقب او بدان بصدق یقین
دستگیر جہان و اہل جہان
ماہ تحت شب ماہ تابان است
ذات او صد کرامات است
جیلی و حنبلی و بغدادی
در نبی تا قوت فرید وحید
پدرش را نسبت است حسن
ہر کرا نسیا دش سخن است
خارجی گفت آن بلند نژاد
بچنین گفتگو بی نا معقول
ذات آن شاہ روشن است چو ماہ
گر زبانم یکی ہزار شود
سال مولود آن علی شان
سال مولود او بصدق صواب
بیشک و شبہ از ربیع دوم
گفت سال وصالش از دل جان
شد رقم سال نقل آن عالی
مرقد پاک او ست در بغداد

قطب کونین شاہ محی الدین
مہ و پیر زمان و اہل زمان
ماہ تابان مہر درخشان است
بیگمان آبروی سادات است
بیشک و شبہہ مہدی ہادی
عالی و والی و حمید رشید
بیشک و ریب با امام حسن
دہنش رن کہ گند تر دہن
نی زنی شتہ ست و فی اولاد
آن و بدکیش گشتہ اند فضول
باز او لاد و عترت و جاہ
صد ہزارش سخن گذار شود
ہاتفم گفت کاشف دو جہان
کو ولی و سر آمد اقطاب
روز آدینہ بود یازدہم
صاحب رونق جنان رضوان
قدس اللہ روحہ العالی
اہل عالم از و گرفتہ مراد

مفخر اولیا وجودش دان
نشود ہیچکس با و ہمسر
رافضی را از و گریز بود
غوث و قطب و ولی و سلطان است
حسنی و حسینی است و شریف
اعلم و افقہ و بلیغ و فصیح
مادرش را بجعفر صادق
رافضی گفت شاہ سید نیست
آنکہ اولاد او ست بیشک آن
باد بر ہر دو لعنت دادار
تا قیامت ہمیشہ معمور است
وصف او را شمار نتوانم
سال فرخندہ ولادت او
سال مولود آن سعید ازل
کہ ز دنیا با وج علیین
گفتہ ام سال نقل آن حق ترس
سال نقلش بخوان کہ با دم کرم
ہادی خلق بود سوی خدا

اصفیا جملہ در سجودش دان
کی شود ہمسر مسیحا خر
خارجی را از و ستیز بود
برہ حق دلیل و برہان است
احسن و محسن و لطیف و نظیف
در ہمہ اولیا ملیح و صبیح
نسب را سخ است و ہم واثق
گفتہ رافضی موید نیست
ہست نسل بر و شن بجہان
ز آنکہ آن ہر یک است لائق ولد
درد و آفاق فائض النور است
بلکہ یک از ہزار نتوانم
ولی مالک الرقاب بگو
سر اقطاب و اولیای اجل
ہمچو خورشید شد بروز مبین
قطب اقطاب عالم اقدس
ہاتفم گفت نور عالم قدس
قدس اللہ سرہ ابدا

صد و سی و چہارم گفتہ است عالم کامل قدوۃ السالکین زین العارفین مہاجر مدنی سید آدم بنوری حسینی نقشبندی قادری در کتاب خود نکات الاسرار وقتیکہ سخن جاری شد در مجلس شیخ فرید الدین محمد شکر گنج و ذکر کردند دران مجلس کہ گردن نہادند مشایخ و اولیا آن زمان کہ بودند

درآن وقت ہمہ حاضر او غائبا زیر قدم شیخ سید عبد القادر جیلانی واز ہمہ گروہ سبقت نمود شیخ ما خواجہ معین الدین حسن قدس اللہ سرہ گردن نہاد زیر قدم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ و فرمودند خواجہ فرید الدین و اگر من دران وقت می بودم چشمہائے خود را می نہادم زیر قدم ایشان و این منصب از ما می بود انتہیٰ در مرآت الاولیاء آوردہ است کہ حضرت شیخ سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایشان بزیارت حرمین مشرف شدہ بودند ہرگاہ کہ بزیارت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میرسیدند میگفت السلام علیک یا رسول اللہ آواز می شنیدند و علیک السلام یا ولدی و بدولت مصافحہ مشرف شدہ بودند و میگفتند کہ در وقت مصافحہ نظر کردم ارواح متابعان من تا قیامت ہمہ حاضر بودند و بردست ہر یکی دست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیدم و مرا باین خطاب مخاطب کردہ فرمودند کہ ہرکہ دست تو گرفتہ است او دست من گرفتہ است و در انجا وفات یافت و قبر مبارکش در بقیع است بجوار امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ زیر میزاب گنبد مدفون اند انتہیٰ صد و سی و پنجم در مخزن القادریہ آوردہ بدرستیکہ امام الہمام و غوث الانام سردار ما سید حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجادۂ خود را در نزدیکی از اصحاب خود گذاشتہ بودند امانت کہ این سجادۂ امانت میباشد از غوث الاعظم سید عبد القادر و وصیت کردہ بودند بحفظ آن در آخر عمر خود کہ این را برسانید از دست بدست باعتباری و ہمچنین وصیت بکنید تا بہ وسط قرن خامس تا اینکہ پیدا شود سید عبد القادر الحسنی الگیلانی و این امانت او شان است ادا بکنید و برسانید سلام ما را بایشان انتہیٰ صد و سی و ششم در قلائد الجواہر و زبدۃ الاسرار و زبدۃ الآثار و انہار المفاخر و طبقات امام عبد الوہاب شعرانی آوردہ است کہ اوتاد عراق ہشت اند مروی است از شیخ ابی بکر بن ہوار البطایحی بروایت شیخ ابی محمد شنبکی البطایحی حدادی از سہ طریق کہ روزی در مجلس وی احوال اولیا مذکور میشدند پس شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرمود کہ عنقریب ظاہر خواہد شد در عراق مردی عجمی عالی منزلت نزد خدا تعالیٰ و عالی منزلت نزد آدمیان نام وی سید عبد القادر و مسکن وی بغداد است و یگوید قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ و اطاعت خواہند کرد او را

اولیاء عصر وی واویگانۂ آن زمان خواہد بود ونیز از وی مروی است بروایت شیخ ابی محمد شنبکی رحمۃ اللہ
علیہ کہ اوتاد عراق ہشت اند یکی معروف کرخی دویم احمد بن حنبل سیوم بشر حافی چہارم منصور بن عمار
پنجم جنید بغدادی ششم سری سقطی ہفتم سہل بن عبد اللہ تستری ہشتم سید عبد القادر جیلانی گفتم کیست
فرمود مردی است عجمی شریف ساکن خواہد شد در بغداد وظہور او در قرن پنجم است ووی یکی است
از صدیقان واوتاد افراد کہ اعیان دنیا واقطاب زمانند بدانکہ شیخ ابو بکر بن ہوار البضیم او دورا
ودو لفت اول سردار شاطران بود کہ قطع طریق میکردند در بطایح ودر مقبرۂ بطایح نشستہ تقسیم
اموال می نمودند شبی زنی شوہر خود را میگفت آیا در ینجا فرود می آئی الشب کہ ابن ہوار ویاوران او
اموال مارا خواہند گرفت ابن ہوار این سخن شنید وازان پند گرفت وگریست وگفت کہ مردم
مرا می ترسند ومن خدا را نمی ترسم فی الحال توبہ کرد ویاران خود وبقدم صدق واخلاص ارادہ
متوجہ بخدا شد وعزم نمود کہ خود را بکسی سپرد تا بخدا رساند وآنوقت در عراق کسی از اہل طریق
مشہور نبود پس در خواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وابابکر صدیق را رضی اللہ عنہ دید وعرض
کرد یا رسول اللہ مرا خرقہ پوشان پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورا فرمود ای ابن ہوار من پیغمبر
توام واین شیخ تو است واشارت بابی بکر صدیق کرد وپیش فرمود ای ابابکر ہمنام ترا خرقہ بپوشان
چنانچہ مامور شدہ پس وی رضی اللہ عنہ جامۂ طاقیہ اورا پوشانید ودست خود بر سر وپیشانی او گردانید
وگفت بَارَكَ اللهُ فِيكَ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمود ای پسر ہوار ابتو زندہ خواہد شد
در عراق سنن اہل طریق از امت من بعد ازانکہ مردہ اند وبرپا خواہد کرد بد منارہ ارباب حقایق از
دوستان خدا بعد ازانکہ مندرس شدہ است ودر عراق تا روز قیامت مشیخت تو خواہد ماند وتحقیق
در زیدند نسیمات الٰہی برای ظہور تو فرستادہ شدند نفحات ایزدی برای قیام تو پس تر از خواب بیدار
شد وآنجامۂ طاقیہ بر بدن خود موجود یافت وبر سر او تو لیل بود ند آنرا نیافت پس گویا ندا کردہ
در آفاق کہ ابن ہوار بخدا رسید پس خلق بروی ہجوم آوردند از ہر طرف وظاہر شد بر او علامات قرب
الٰہی ومتزادف گشت اخبار واز خدائی تعالیٰ وقومی از ہوار بود کہ قبیلہ است از کردان در بطایح سکونت

اختیار کردہ وہمانجا مردہ وعمراو دراز شدہ وقبر او ہمانجاست ظاہر و زیارت گاہ مردم و در وقت وفات چندان انوار بروی درخشان شد کہ عوام دیدند و حاضران وقت بوی خوش شمیدند کہ در دنیا ہیچ چیز خوشبو تر ازان نباشد و بعد از وفات نالہ و آواز گریہ چند در اطراف بطایح مسموع می شد رضی اللہ عنہ مروی است از شیخ ابی الفتح مواہب بن عبد الوہاب ہاشمی البطایحی رحمۃ اللہ علیہ کہ شنید شیخ ابا محمد شنبکی را رحمۃ اللہ علیہ میگفت کہ شیخ ما شیخ ابوبکر بن ہوارا ذکر شیخ سید عبد القادر کہ عنقریب در عراق در وسط قرن پنجم ظاہر خواہد شد میکرد و بر فضل او تخصیص می نمودہ و آنوقت زیادہ ازانچہ شنیدم نمی دانستم پیشتر مکشوف شد بر من مقامات اولیا پس وی از صدور آنہاست و مکشوف شد بر من مراتب اقطاب پس وی یعنی شیخ عبد القادر از صدور آنہاست و مکشوف شد بر من مراتب مقربین پس وی عالی تر است از آنہا و مکشوف شد بر من اطوار مکاشفین پس وی بزرگترین آنہاست و عنقریب ظاہر خواہد ساخت او را خدا تعالیٰ در مظہری کہ ظاہر نمیشود در آن مگر صدیقان عالمین بخدا و وی مقتدا خواہد بود در افعال و اقوال و عنقریب خدا تعالیٰ بدرجات عالیات خواہد رسانید خلقی کثیر را از بندگان خود بمدد او و او کسی است کہ خدای عزوجل بدو مباہات خواہد کرد در روز قیامت بر سائر امم بدانکہ شیخ ابو محمد شنبکی از اعیان مشایخ عراق و اکابر عارفان و ائمہ محققان است در اوایل بر قافلہا قطع طریق میکرد در بطایح و با او رفیقان بودند شبی قافلہ را در قریہ شیخ ابی بکر بن ہوارا بند نمودہ بعضی از آنہا کشتند و اموال آنہا قسمت کردہ گرفتند چون بوقت سحر از زاویہ شیخ ابن ہوارا گذشتند شنبکی یاران خود را گفت شما بروید شیخ مجامع قلب مرا گرفت تجاوز ازان بیمین و شمال نمیتوانم کرد یاران اش گفتند کہ ما ہم با تو ایم و اموال را فرو انداختند پس شیخ ابوبکر بن ہوارا مریاران خود را فرمود برخیزید با ما تا ملاقات کنیم مقبولان خدا را و بیرون زاویہ آمد چون آنہا او را دیدند گفتند ای سردار ما حرام در شکمہای ماست و خونہا در شکمہای ماست فرمود بگذارید آنرا بتحقیق مقبول شدید باین کار ہم پس آنہا بدست شیخ ابن ہوارا توبہ کردند و وی سہ روز متوجہ بر مصالح شیخ ابی محمد شد روز چہارم فرمود ای ابا محمد برو بہ حدادیہ و آنجا نشین و بسوی

خدا دعوت کن کہ تو شیخ کامل مکمل شدی پس بجدادیہ آمد و شیخ ابو بکر نمود کہ ابو محمد در سہ روز بخدا رسید و آزابی محمد شنبکی پرسیدند کہ در سہ روز بچہ چیز واصل بخدا شدی گفت روز اول ترک دنیا کردم و روز دویم ترک آخرت نمودم و روز سیوم طالب خدا کردم مجرد از غیر او پس او را یافتم و آو از شنابکہ بود کہ قبیلہ است از کردان در حدادیہ کہ دیہی است از بطایح ساکن شدہ و ہمانجا مردہ و مدفون شدہ و قبر او ہمانجا است ظاہر و زیارت گاہ مردم مروی است از شیخ ابی احمد عبد اللہ بن علی موسی خولی ملقب بہ خفی رحمۃ اللہ علیہ بروایت شیخ ابی یعقوب یوسف بن ایوب بن حسین بن شعیب ہمدانی بروجزوی کہ در شہور سنہ چار صد و شصت و چہار ہجریہ میگفت عنقریب پیدا خواہد شد در ملک عجم پسر بکیا و را ظہور عظیم خواہد بود در کرامات و قبول تام نزد کافہ عالم و بگوید قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ و در آیند اولیاء وقت او زیر قدم او و او کسی است کہ مشرف شود بدو زمان او و نفع یابد و ہر کہ بیند او را انتہیٰ کذا فی اہنار المفاخر صد و سی و ہفتم گفتہ است بدر الدولۃ و امام العلماء قاضی الاسلام قاضی الملک محمد صبغۃ اللہ سقی اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ در کتاب خود نثر الجواہر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ کہ گفتہ است شیخ سید عبد الرزاق ولد مؤلف کہ گفت پدر من سید عبد القادر رضی اللہ عنہ کہ مدد کنندہ امام است و سردار طائفہ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر حسنی و حسینی و جیلانی صدیقی ابن سید ابی صالح موسی جنگی دوست ابن امام عبد اللہ ابن امام یحییٰ زاہد ابن امام محمد ابن امام داؤد ابن امام موسیٰ ابن امام عبد اللہ ابن امام موسیٰ الجون ابن امام عبد اللہ المحض ابن امام حسن المثنی ابن امیر المومنین امام حسن سبط ابن امام الہمام اسد اللہ الغالب مخر بنی طالب سیدنا علی بن ابیطالب کرم اللہ وجہہ و رضی عنہ و عنہم اجمعین صد و سی و ہشتم گفتہ است در حبل متین صد و سی و نہم گفتہ است عالم متبحر سید جلال الدین بخاری در کتاب خود تحفۃ الاسرار انتہیٰ صد و چہلم گفتہ است عالم فاضل کامل عبد اللہ بلخی در کتاب خود خوارق الاخیار صد و چہل و یکم گفتہ است عالم علامہ حبر فہامہ سید شرف الدین عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ابن غوث الاعظم رضی اللہ عنہ در

کتاب جواہر الاسرار صد و جہل و دویم گفتہ است عالم علامہ عمدۃ الکاملین شیخ المشایخ وقدوۃ السالکین بدیع الدین شاہ مدار قدس سرہ العزیز در ملفوظات خود چنانچہ انہار المفاخر آوردہ است قطب الابرار شیخ بدیع الدین شاہ مدار ابن شیخ علی حلبی جباری قدس سرہ ملک العلما قاضی شہاب الدین جونپوری رحمۃ اللہ علیہ در ملفوظ شیخ بدیع الدین آوردہ است کہ روزی فی رحمۃ اللہ علیہ فرمود کہ ای قاضی ہیچکس بعد از صحابہ کرام در رتبۂ امامت ائمہ عالی مقام مثل غوث اعظم سید ابی محمد عبد القادر حسنی جیلانی رضی اللہ عنہ نیست و نباشد و ہیچکدام از اقطاب و اغیاث بمرتبۂ او نرسید تا حال و رسیدن نتوانند تا قیامت واو را در ولایت شانی اعظم است و منتہای مراتب اہل مناصب از قطبیت عالم و فردیت و محبوبیت است واو از مراتب ترقی کردہ بمنزل قربت و صدیقیت تمکن یافتہ است وہنوز ترقی در ترقی است و او را مقام وراء الورا است در آن می آساید پرسیدم ای شاہ تفصیل مرتبۂ وراء الورا چیست فرمود وراء الورا باطن احدیت است کہ مرتبۂ مطلقۂ صرف است کہ از و بالاتر مرتبہ نیست کہ او را اہل حقیقت ولایت مطلقہ میگویند کہ عین ولایت مطلقہ محمدیہ است صلی اللہ علیہ وسلم و در تمامی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہ کس را ور الورا ظاہر شد یکی بہلول دانا دویم جنید سید الطائفہ جنید بغدادی ہمیشہ تمنا میکرد کہ کاش ہمچو جنید مبدل بجا جنید می شد سیوم حضرت سلطان الاولیا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ و بعضی از اکابر سیومی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ و چہارمی حضرت غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ گفتہ اند و بعد از سلطان الاولیا غوث اعظم رضی اللہ عنہ تا این زمان ہیچکس را وراء الورا انکشاف نشدہ و وراء الورا ہمیشہ مقام در تجلی ذاتست کہ تنزل نمیکند مگر برای ادای فرائض و حضرت غوثیہ محبوبیہ را با وجود آن منزلت اتباع تام و قدم بر قدم سید انام صلی اللہ علیہ وسلم اتم و اکمل بود و مشغلہ عبادت و درس فرمودن علوم دینیہ و تربیت طالبان و ارشاد مریدان و تصرفات ظاہری و باطنی در ہر زمان و مکان موقوف نمیشد و تصرف روحانیہ حضرت غوثیہ محبوبیہ تا این وقت جاری است

دوضع رقاب اولیا بامر ایزدی زقدم حضرت غوثیہ محبوبیہ ازان ہست و در جالی دیگر از ملفوظ مذکور آورده است کہ تا جائیکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رسیده بمتابعت آن تصرف ولایت غوثیہ محبوبیہ فراگرفتہ است وہیچکس از مشائخ اولیا چہارده خانوده در عرب عجم از خرقہ خلافت ونعمت وبرکت حضرت غوثیہ محبوبیہ رضی اللہ عنہ محروم نمانده است این درویش نیز از نیازمندان آنجناب ہست واللہ اگر ختم نبوت بر سرور دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نمیشد می ہر آئینہ این بزرگ شایان آن بودی انتہیٰ تاریخ رحلت وولادت حضرت بدیع الدین شاه مدار قدس سره از مجمع الواصلین

آنکہ قطب مدار عالم بود
ہمنی ہست شامی وحلبی
لیک ویسی ست آن ستوده سیر
مرقدش ہیچو مہر ومہ تابد
نام قش در لطائف اشرف
ماد مانش زگفتگو ست برون
عمر آن شاه مطلع الانوار ۱۶۰ء
مسقط الراس او ست کشور شام
سال رحیل وعیان نہفت ۸۴۴

پادشاه ممالک دین بود
پیشوائی ره خدا طلبی
یافت عرفان روح پیغمبر
دیو بگرفتہ زو شفا یابد
او نوشت ہست باکمال فخر
طالبانش زحد عدد افزون
یکصد وبیست وچہار سال شمار
این سخن نیست از کلام عوام
عقل قطب المدار جنت گفت

شاہباز رواق علیین
آن شہنشہ کہ مطلع نور ہست
شاه اشرف کہ مشرقی پیر ہست
او بقطب المدار ہم سفر ہست
باز محمود قاضی کنتور
ذکر کشف وکراماتش ہمہ جا ہست
شده سال طلوع آن ہمقین
بشب جمعہ شاه نقل نمود
در مکن پور ہست مرقد او

نام دارجہان بدیع الدین
از مریدان شاه طیفور ہست
لقبش در جہان جہانگیر ہست
واقف راز آن نکو سیر ہست
در کتب کرده حال او مسطور
ہیچو خورشید آسمان پیدا ہست
شمس دنیا ودین بدیع الدین
ہژده ہم از جمادا ولی بود
ہشتصد ہزار فخر از و

صد وچہل وسیوم گفتہ ہست عمدة الواصلین شیخ جلال الدین سہروردی قدس سره در کتاب خود سیر العارفین صد وچہل وچہارم گفتہ است شیخ عبد الرشید بن محمد جنیدی در کتاب خود حرز العاشقین صد وچہل وپنجم گفتہ است حضرت شیخ مخدوم جہانیان جہان گرد نام ایشان سید جلال الدین بخاری است موافق نام جد ایشان ہست در کتاب خود سیر المسافرین وجناب شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ در اخبار الاخیار آورده ہست مخدوم جہانیان قدس سره با حضرت علیہ قادریہ کمال محبت است ودر خزانہ جلالی بیگوید کہ شیخ محی الدین سید

عبد القادر جیلانی میفرماید طوبیٰ لمن رانی ولمن رای من رانی ولمن رای من رای من رانی و
وی قطب است و صادق است درین قول مرا امیدواری بسیار است که بموجب این کلام حق تعالیٰ
مرا رحمت کند بعد از ان سلسله را که بیک واسطه بشیخ شهاب الدین سهروردی میرسد غیر از سلسله شیخ
بهاء الدین زکریا ذکر میکند و میگوید که من فلان را دیده ام و وی شیخ شهاب الدین سهروردی را
و شیخ شهاب الدین شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی را نقل است که وی روزی
نشسته بود آتش از جای برخاست مشتی خاک برگرفت و نام شیخ محی الدین سید عبد القادر
را بآواز بلند برخواند و خاک را بجانب آتش انداخت فی الحال آتش پست شد و تکلمه فارسی
که در دیار ما مشهور است یکی از مریدان مخدوم تکلمه کتاب روض الریاحین امام عبد الله
یافعی را ترجمه کرده است ولادت مخدوم جهانیان شب برات سنه سبع و سبعمائة و مدت عمر هفتاد
و هشت چنین شنیده است که امیر سید علی همدانی قدس سره بدیدن مخدوم جهانیان رفت و بر
در حجره مخدوم نشست خادم خبر کرد که سید علی همدانی نشسته است مخدوم فرمود که همه دان غیر
علام الغیوب کسی نیست این را گفتند و ایشان را درون نطلبیدند کوفتی ازین معنی بخاطر
شریف میر سید برگشت و باین تقریب رساله در بیان معنی همدان نوشت اما در رساله همدانیه
دیده شده است که بجماعه که منکر این نام اند غایت رد و تشنیع کرده است که نه لائق عظمت و
جلال مخدوم جهانیان است والله اعلم انتهیٰ و در سفینة الاولیا آورده است اول بار که از بخارا
ازین قبیله بهندوستان آمد جد ایشان است که سید جلال بخاری سرخ بیگفتند چون از بخارا
آمدند مرید حضرت شیخ بهاء الدین زکریای ملتانی شدند از بزرگان صحیح است جلیل القدر و جامع
علوم ظاهر و باطن بوده اند و ایشان را سه فرزند بوده است یکی سید احمد کبیر دوم سید بهاء الدین
سوم سید محمد و سید احمد کبیر را دو فرزند رشید قابل و سعادتمند بوده یکی قطب و غوث وقت شیخ
المشایخ و مشرف اہل زمانه و در روزگار یگانه مفرد اند در بیان و اعیان مخدوم جهانیان و دوم
سید راجوی قتال ایشان هم از اولیای بوده اند انتهیٰ و نیز در مخبر الواصلین در تاریخ تولد و رحلت

وفات کرد روز چهارشنبه عید قربان سنه خمس و ثمانین و سبعمائه بود

سید بنظیر و بی مانند	مصطفی است بیگمان فرزند	دلش از حرص و هوا است	لقبش در جهان جهانگرد است
جد او سید جلال آمد	ذات او مصدر کمال آمد	به بخارا حشم بدولت او است	به بخارا شرف ز نسبت او است
او ست بیشبه با کمال علوم	بجهان و جهانیان مخدوم	شرف خاندان مصطفوی است	مشهدی بخاری رضوی است
صاحب کشف بود آن سید	وارث معرفت آباعن جد	عمر آن سید بلند نژاد	بی کم و بیش خوانده ام هشتاد
نصف کامل ز ماه شعبان بود	که طلوعش چو آفتاب نمود	عمرش این حینیا یک سر هشت است	یکصد و هفت سال کم ز هشت است
لیک این قول معتبر دیدم	متفق با همه سیر دیدم	نام نامی او حسین بخوان	خلف احمد کبیر بدان
هفصد و هفت سال هجری بود	کان مه صبح دین طلوع نمود	عید قربان چهارشنبه بود	که ز آفاق نهفتنش فرمود
سال تنقال آن عزیز جهان	گفت هاتف هما خلد و جنان	سال انقلش ز بیجهار رضوان	گفت مخدوم ماه دین خوان
سال ترحیل آن خدا آگاه	گفت رضوان گل بهشت اله	هست در اجه مرقد آن شاه	عطر الله قبره و ثراه

صد و چهل و ششم گفته است زبدة الکاملین و قدوة العارفین خواجه معین الدین سنجری چشتی اجمیری بن خواجه غیاث الدین حسن است سادات حسینی بوده اند رضی الله عنه در تشریح الاولیا آورده است و چشتی ازان جهت گویند که چشت شهریست در دامن کوه بفاصلهٔ دو منزل از هرات واقع است حالا مشهور بشافلان است و تاریخ رحلت خواجه قدس سره اینست

فیض بخش جهان بعلم و یقین	خواجهٔ حقنما معین الدین	رونق خاندان چشت از و است	زینت روضهٔ بهشت از و است
سنجری چشتی است آن فیاض	هادی مهدی است آمن تا خوض	آفتاب ممالک هند است	نور شمع ممالک هند است
جمعه و ششم رجب بوده	کز جهان خواجه نقل فرموده	نود و هفت سال عمرش بود	کان زمان نقل از جهان فرمود
سال انقلش بعزت و تمکین	کو سراج جنان معین الدین	سال تاریخ نقل و بر خوان	هاتفم گفت شمس عدن جنان
سال انقلش بخوان الصدق و صفا	بیگمان زیب جنت و الا	گفت سال وصالش از دم قدس	هاتفم پیشوای عالم قدس

سنه ۶۳۴
سنه ۶۳۳
۶۳۴

روضهٔ پاک او ست در اجمیر	زائرش جن و انس و از در و شیر	

صد و چهل و هفتم گفته است شیخ بهاء الدین آملی در کتاب خود انیس القادریه صد و چهل و هشتم گفته است قدوة العارفین شیخ بهاء الدین سهروردی قدس سره در کتاب خود

خلاصۃ القادریہ آوردہ است نسب شریف رضی اللہ عنہ را و در سفینۃ الاولیا آوردہ است حضرت شیخ شہاب الدین قدس سرہ کنیت ایشان ابو حفص است و لقب شیخ الشیوخ و نام عمر بن محمد البکری سہروردی اند از اولاد امیر المومنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ شیخ الشیوخ و قطب و غوث زمان عالم و عامل و فاضل و کامل و پیشوای وقت بودہ اند و مذہب امام شافعی داشتند طریقۂ ایشان تمام متابع شرع و سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بودہ و در بغداد مشہور ترین متاخران بودہ اند مرید عم خود اند شیخ ابو النجیب سہروردی و ذکر شیخ ابو النجیب سہروردی در سلسلۂ کبرویہ مذکور شدہ و حضرت قطب ربانی غوث صمدانی شیخ محی الدین سید عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ را دریافتہ اند و ببرکت ملازمت آنحضرت فوائد عظیم و بہرۂ تمام حاصل نمودہ اند و خواص و عوام بغداد را روی ارادت بخدمت ایشان بودہ نقل است کہ شیخ شہاب الدین فرمودہ اند در جوانی بعلم کلام مشغول بودم و کتاب چند دران یاد گرفتم و عم من مرا ازان منع میکرد روزی عم من بزیارت حضرت شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ آمد و من باوی بودم مرا گفت حاضر باش کہ بہ مردی میروئم کہ دل وی از خدا یتعالی خبر میدہد و منتظر باش برکات دیدار ویرا چون بنشستیم شیخ ابو النجیب گفت یا سیدا این برادر زادۂ من بعلم کلام مشغول است ہر چند منع میکنم ازان باز نمی آید غوث الثقلین فرمودند ای عمر کدام کتاب حفظ کردۂ گفتم فلان کتاب و فلان کتاب دست مبارک خود را بسینۂ من فرود آورد و اللہ کہ یک لفظ ازان کتب بر حفظ من نماندہ بود و خدای تعالی ہمہ مسائل آنہا بر خاطر من فراموش گردانید و از علم لدنی مملو ساخت و مرا فرمودند کہ آنچہ یافتہ ام از برکت حضرت شیخ سید عبد القادر گیلانی است نقلست از شیخ نجم الدین مرید شیخ شہاب الدین کہ وقتے نزدیک شیخ خود در خلوت نشستم روز چہلم در واقعہ دیدم کہ حضرت شیخ شہاب الدین بر کوہی بلند نشستہ اند و جواہر بسیار پیش ایشان و خلقے بیشمار در دامن آن کوہ جمع آمدہ اند شیخ آن جواہر را بر خلق می اندازند و آنہا می چینند و ہاین کہ رو بکم گردد باز زیادہ میشود گویا کہ پیش شیخ چشمہ ایست از جواہر چون از خلوت برآمدہ پیش شیخ رفتم پیش ازانکہ ازین واقعہ خبر کنم فرمودند

آنچه تو در واقعه دیدی حق است این و امثال این از برکت انفاس شیخ سید عبد القادر است رضی الله عنه ولادت شیخ الشیوخ در رجب سال پانصد و سی و نه هجری بوده وفات در غرهٔ محرم سال شش صد و سی و دو روی داده و قبر ایشان درون شهر بغداد است و حضرت شیخ الشیوخ را مریدان بسیار بوده اند همه فاضل و کامل و مشهور چون شیخ بهاء الدین زکریای ملتانی و شیخ نجیب الدین علی برغش و شیخ حمید الدین ناگوری و حضرت شیخ الشیوخ را نیز تصانیف بسیار است و تاریخ رحلت و ولادت اینست

آنکه شیخ الشیوخ عالم بود	عمدهٔ اولیای اعظم بود	مظهر خاص خالق کونین	هادی پیر و مرشد ثقلین	
عمدة الواصلین شهاب الدین	قدوة الکاملین شهاب الدین	درة التاج اولیای جهان	راحت القلب اصفیای زمان	
سال مولود او بدان بیقین	اکمل اولیا شهاب الدین	ماه عاشورا بود و از دهم	بود کان قطب شد بچرخ نهم	۵۴۲
شد رقم سال نقل آن و الا	زیب داده بجنت الاعلی	باز از روی اختلاف عوام	باتو بیگویم ای شریفا نام	۶۳۱
جمعه و غرهٔ محرم بود	که بخلدش ز دهر نقل نمود	سال نقلش بگفت ارض سما	ساکن اوج جنت والا	۶۳۲
	مدفن شیخ هست در بغداد	رحمت ایزدی تمارستش باد		

صد و چهل و نهم گفته است شیخ سید محمد گیسو دراز در کتاب خود صحائف الغرائب نسب شریف غوث الاعظم رضی الله عنه صد و پنجاه ام گفته است عالم فاضل سید محمود قادری در کتاب خود اوراد القادریه صد و پنجاه و یکم گفته است عمدة الواصلین عارف بالله شیخ فرید الدین شکر گنج قدس سره در کتاب خود اسرار السالکین نسب شریف رضی الله عنه را تاریخ وفات ایشان

از مخبر الواصلین	افتخار زمان و فخر زمین	شیخ دنیا و دین فرید الدین	بوجودش که فقر را دال است	
زینت وجد رونق حال است	نسبتش را شرف ز فاروق است	حسبش را فروغ عیوق است	بود عمر شریف او هشتاد	
رحمت حق همیشه بروی باد	بیگمان پنجم محرم بود	که فرید از زمانه نقل نمود	روز ترحیل او سه شنبه دان	
کاندرین نسبت فرخش بیش و گمان	سال شغفار او خلیل آمد	بر کمالات او دلیل آمد	بیگمان است سال رحلت او	
زجهان شد فرید آه بگو	سال نقلش باعتبار سند	کو شکر گنج بود محو احد	شده تاریخ نقل او بیقین	۶۷۰
عمدهٔ دین حق فرید الدین	سال ترحیل آن فرید زمان ؎ بیشک شمع اهل خلد بخوان			۶۷۱

روضۂ پاک او بدان بہ پتن	رحمت حق بر او ست بیش از ظن	سال نقلش بقطعہ ہم گفتم	بشنو از من چہ گوہری سفتم
فریدالدین کہ او گنج شکر بود	چو در ذات خدا شد محو مطلق	مظہر گفت با سال نقلش	فریدالدین ولی واصل حق

صد و پنجاہ و دوم گفتہ است مولانا نور الدین عبد الرحمٰن جامی قدس سرہ السامی در کتاب خود شواہد النبوۃ صد و پنجاہ و سیوم گفتہ است شیخ محمد ابراہیم بدری در ملفوظات خود حقیقۃ الحقائق صد و پنجاہ و چہارم گفتہ است شیخ موسی نعتوی در کتاب خود عاملۃ القصہ صد و پنجاہ و پنجم گفتہ است عالم زمانہ کمال الدین بغدادی در لطائف اللطیفہ صد و پنجاہ و ششم گفتہ است شیخ داؤد قیصری در شرح فصوص صد و پنجاہ و ہفتم گفتہ است عالم لاثانی مفتی غلام سرور لاہوری در خزینۃ الاصفیا محبوب الثقلین سید الکونین ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ بن سید عبد اللہ بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبد اللہ ثانی بن سید موسیٰ الجون ثالث بن سید عبد اللہ المحض بن سید محمد مشہور بسید حسن المثنیٰ بن الامام ذوی الاحترام امام حسن بن امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم اجمعین صد و پنجاہ و ہشتم گفتہ است عالم فاضل مولانا شاہ محمد علم الیقین در کتاب خود سلطان الاذکار و مناقب غوث الابرار بدانکہ بہ تحقیق غوث الاعظم محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی ابن سید ابی صالح موسیٰ زین الدین محمد بن سید عبد اللہ جیلی ابن سید یحییٰ زاہد ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ ابن سید عبد اللہ ابن سید موسیٰ الجون ابن سید عبد اللہ المحض ابن سید حسن المثنیٰ ابن امام سیدنا حسن ابن امام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم اجمعین صد و پنجاہ و نہم گفتہ است در تنویر السیر بدان کہ حضرت غوث الاعظم و قطب الاکرم سلطان الاولیاء و برہان الاصفیا قطب الاقطاب فرد الاحباب غوث الثقلین کہف الخافقین محی الدین ابو محمد سید عبد القادر حسنی و حسینی و جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ سید حسنی است از جانب پدر و حسینی است از جانب مادر و تولد شدہ اند در گیلان و این است نسب شریف ایشان از جانب پدر سید محی الدین ابو عبد القادر

جیلانی ابن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ابن سید عبد اللہ ابن سید یحیٰی زاہد ابن سید محمد وگفتہ اند محمود ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ ثانی ابن سید عبد اللہ ابن سید موسیٰ الجون ابن سید عبد اللہ المحض ابن سید حسن المثنیٰ ابن امیر المومنین امام حسن ابن امیر المومنین سیدنا علی کرم وجہہ ورضی اللہ عنہم اجمعین صد وشصتم گفتہ است عالم قاضی محمد یوسف شافعی مذہب در زین المجالس غوث الواصلین محبوب رب العالمین قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ النورانی سید است حسنی از جانب پدر وحسینی است از جانب مادر رضی اللہ عنہ ومشتمل است بر یازدہ مجلس در مناقب غوث الاعظم رضی اللہ عنہ صد وشصت ویکم گفتہ است در ترجمہ تاریخ ابن ایدل رحمہ اللہ صد وشصت ودویم ذکر کردہ است در نسب شریف تولسی در نظم صد وشصت وسیوم گفتہ است امام عینی در ترجمہ غوث جیلانی رضی اللہ عنہ صد وشصت وچہارم گفتہ است ابن جوزی در ترجمہ کبیر صد وشصت وپنجم گفتہ است ابن رجب در ترجمہ سید عبد الرزاق صد وشصت وششم گفتہ است امام مقدسی در ترجمہ خود صد وشصت وہفتم گفتہ است ابن کثیر مورخ در ترجمہ سید جیلانی صد وشصت وہشتم گفتہ است در اقتباس الانوار صد وشصت ونہم گفتہ است در اخبار الاولیاء صد وہفتادم گفتہ است شیخ ہاشم بیجاپوری در رسالہ اولیاء صد وہفتاد ویکم گفتہ است امام ربانی حضرت شیخ احمد فاروقی سہرندی المشہور سرہندی رحمۃ اللہ علیہ در آخر مکتوبات شریف در جلد سوم معرفۃ الحقائق در مکتوب صد وبیست وسیوم نوشتہ کردہ است ہر چند اقطاب ونجباء وقت بودہ باشند لیکن بغیر توسط محبوب سبحانی وصول الی اللہ نمیشوند وغیر را مجال نیست بغیر توسل ایشان عبارت مکتوبات این است مکتوب صد وبیست وسیوم بنور محمد تہاری در بیان آنکہ راہہای کہ موصل اند دو اند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ راہہا کہ بجناب قدس موصل اند دو اند راہی است یتعلق بقرب نبوت تعلق دارد علی اربابہا الصلوٰۃ والسلام وموصل اصل الاصل است وواصلان این را بالاصالت انبیاء اند علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات وصحابہ ایشان وسائر امتان تا کہ راہ باین دو

بنوازند اگرچہ قلیل بوند بلکہ اقل و درین راہ توسط وحیلولت نیست ہر کہ ازین واصلان فیض میگیرد بی توسط احدی از اصل اخذ مینماید و ہیچ یکی دیگری را حاصل نیست و راہی است کہ بقرب ولایت تعلق دارد اقطاب و اوتاد و بدلا و نجبا و عامہ اولیاء اللہ بہمین راہ واصل اند راہی سلوک عبارت ازین راہ است بلکہ جذبہ متعارف نیز داخل ہمین است توسط وحیلولت درین راہ کائن است و پیشوای این راہ و سرگروہ اینہا و منبع فیض بزرگواران حضرت علی المرتضی است کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و این منصب عظیم الشان بایشان تعلق دارد و درین مقام گویا ہر دو قدم مبارک آنسرور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام بر فرق مبارک او است کرم اللہ تعالی وجہہ حضرت فاطمہ و حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہم درین مقام با ایشان شریک اند انگارم کہ حضرت امیر قبل از نشأۂ عنصری نیز ملاذ این مقام بودہ اند چنانچہ بعد از نشأۂ عنصری و ہر کرا فیض و ہدایت میرسد بتوسط ایشان میرسد چہ ایشان نزد نقطۂ منتہای این راہ و مرکز این مقام بایشان تعلق دارد و چون دورہ حضرت امیر تمام شد این منصب عظیم القدر بحضرات حسنین رضی اللہ عنہما ترتیبا مفوض و مسلم گشت و بعد از ایشان بہر یکی از ائمہ اثنا عشر علی الترتیب و التفصیل قرار گرفت و در اعصار این بزرگواران و ہمچنین بعد از ارتحال ایشان ہر کرا فیض و ہدایت میرسد بتوسط این بزرگواران بودہ و بحیلولۂ ایشان ہر چند اقطاب و نجبای وقت بودہ باشند و ملاذ و ملجا ہمہ ایشان بودہ اند چہ اطراف را غیر از لحوق بمرکز چارۂ نیست نوبت بحضرت سلطان الاولیاء برہان الاصفیا غوث الارض والسماء غوث الکل محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و افاض علینا الفیوض رسید و چون نوبت این بزرگوار رسید منصب مذکور بآنحضرت مفوض گشت و ما بین و جز این ائمہ مذکورین و حضرت شیخ ہیچکس برین مرکز مشہود نمیگردد و وصول فیوض و برکات درین راہ بہر کہ باشد از اقطاب و نجبا بتوسط شریف و مفہوم میشود چہ این مرکز غیر او را میسر نشدہ ازینجاست کہ فرمودہ شعر أفلت شموس الاولین و شمسنا ٭ ابدا علی افق العلی لا تغرب ٭ مراد از شمس

آفتاب فیضان وہدایت وارشاد است واز اقوال آن عدم فیضان مذکور وچون بوجود حضرت شیخ معامله که با ولین تعلق داشت با وقرار گرفت واو واسطهٔ رشد وہدایت گردید چنانچه پیش ازوی اولین بوده اند ونیز تا معامله توسط فیضان برپا است بتوسل او است ناچار است امدا فت شموس الاولین وشمسنا انتهی کذا فی المکتوبات الشریف من جلد الثالث المسمی بمعرفة الحقایق

تاریخ رحلت حضرت شیخ احمد کابلی سرہندی فاروقی

آنکه او جوہر خردمند بیست	احمد کابلی سرہند بیست	نقشبند بیست آن ستوده سیر	رونق افزای شرع پیغمبر	
بیشک آن شیخ عاقبت محمود	از مریدان خواجه باقی بود	ذات والای آن خدا آگاه	قطب اقطاب بود بی اشباه	
او مجدد بالف ثانی بود	واقف سر جاودانی بود	الف ثانی با ومجدد شد	زانکه احمد بجای احمد شد	
نعل بالنعل بود با احمد	احمد کابلی بلطف احد	بره شرع وملت بیضا	از کمال علوم نور افزا	
از مریدان اوست بس مشہور	میر نعمان وآدم وبنور	خواجه صدیق وشیخ عبد الحی	داشت اقبال سرمدی ازوی	
شیخ چون چار یار چار پسر	داشت کامل بشرع پیغمبر	خلفش بوسعید ومعصوم است	سیومش ہیچو ہر دو مخدوم است	
وان چہارم ز دار دنیا شد	جانب عدن خلد والا شد	بوسعید آنکه عارف حق است	کاشف سر وواقف حق است	
عالم واورع وستوده شعار	مرشد اہل شہر واہل دیار	شیخ معصوم محو ذات خدا است	مرشد رہنمای شاه وگدا است	
وآن سیوم شاه کشور دین است	در جہان حق نما وحق بین است	ہر یکی عارف است بی اشباه	طول الله عمره وبقاه	
بود آن شیخ احمد ثانی	طاق آفاق در خدادانی	او بسلخ صفر سفر فرمود	زین جہان سوی حضرت معبود	
سال ترحیل آن خدا آگاه	شد رقم شیخ بود اہل الله	عقل تاریخ آن ولی احد	گفت نور بہشت از احمد	۱۰۳۴
سال نقلش بگو بعون احد	نور اوج بہشت از احمد	ہاتفم سال نقل فرموده	شیخ احمد ز اولیا بوده	
شده تاریخ آن ولی خدا	احمد کابلی بہشت آرا	بیشک است آن ولی ربانی	گل باغ خلیفهٔ ثانی	
	مرقد او بشہر سرہند است	زان ز حق فیض بہر سرہند است		

صد وہفتاد ودوم آورده است در کتاب تفریح الخاطر ناقل از شیخ موسی تہتوی سہروردی در کتاب مکاشفات جنیدیه نوشته است که تجلی کرد خدا تعالی بر سید طائفه جنید بغدادی رحمة الله

علیہ در خلوت ایشان روز جمعہ بالای منبر بودند و در اثنا خطبہ خواندن مستغرق بحار مکاشفہ شہود بودند و فرمودند کہ قدم ایشان بر رقبہ من باشد از غیر انکار و سر خود را پست کردند و فرود آمدند از پایہ منبر و بعد ازان با فاقہ شدند ایشان و تمام کردن خطبہ و نماز را سوال کردند حاضرین از ایشان از کیفیت خطبہ چیزی کہ دیدہ بودند از ایشان پس فرمودند ایشان کہ کشف شد بر من از عالم غیب بدرستیکہ ظاہر میشود در قرن خامس مردی از اولاد سردار پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم و میباشد قطب در عالم و ملقب کردہ شدہ است بمحی الدین و نامیدہ شدہ است بہ سید عبد القادر و ایشان غوث اعظم اند و پیدا میشود در گیلان و مامور میباشد برین کہ بگوید قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ و اولیاء خدا تعالی از اولین و آخرین سوای صحابہ کرام و امام ہا از اولاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و در خاطر من خطرہ پیدا شد اگر باشم من در عصر ایشان بچہ طریق نہم گردن خود را در فرمودن ایشان پس ازین آمد خطاب از باریتعالی بعتاب کدام چیز است کہ سخت است بر تو ازین امور پس بدرستیکہ وی محبوب من است و از ذریت حبیب من است و شان ایشان در میان اقطاب ہمچنین است مثل شان رسول من محمد صلی اللہ علیہ وسلم در میان انبیاء و حاضر شدند جمیع اولیاء بارواح ہای خود و بجسد ہای خود در وقتی کہ گفت قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ و گردن می نہند و القیاد میکنند پس ہمین سبب گفتم باشد قدم ایشان بر گردن من و مرتبہ ایشان فوق مراتب اولیاء است رحمہم اللہ علیہم اجمعین صد و ہفتاد و سیوم گفتہ است فاضل ادیب شیخ مصطفیٰ بابی حلبی در دیوان خود قصیدہ در مدح حضرت سیدنا و مولینا شیخ الاسلام والمسلمین غوث الثقلین سید محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی وحسینی رضی اللہ عنہ صد و ہفتاد و چہارم گفتہ است در ملفوظ غیاثی صد و ہفتاد و پنجم گفتہ است در بدایۃ الاحوال صد و ہفتاد و ششم گفتہ است در منازل الاولیاء صد و ہفتاد و ہفتم گفتہ است در الباس صد و ہفتاد و ہشتم گفتہ است در مرآت المفید صد و ہفتاد و نہم گفتہ است در انوار محمدی صد و ہشتادم گفتہ در مجموعہ فضائل صد و ہشتاد و یکم گفتہ است

عالم علامہ لوی غلام دستگیر نقشبندی لاہوری در تحفہ دستگیریہ انتہی صد ہشتاد و دوم در تنویر السبیر آوردہ است تاریخ تولد و وفات و مدت عمر و نقش نگین خاتم ایشان و عقد ایشان و اولاد ایشان از جناب امیر المومنین سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ گرفتہ الی جناب غوث الثقلین قطب الخافقین حضرت شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ **ذکر امام ثانی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ** بن امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کینتش ابو محمد و لقبش تقی و طیب و سید ولادتش روز سہ شنبہ نصف ماہ رمضان المبارک سنہ اثنین او ثلاث من الہجرۃ در مدینہ منورہ بعد از شہادت ابیہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ مردم عراق بشرط جنگ بغات بشام بیعت کردند چون امام حسن رضی اللہ عنہ عزم شام کردہ بمدائن رسید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نیز از مردم بیعت گرفتہ رو بعراق آوردہ امام بی وفائی مردم کوفہ را معلوم کردہ بحضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کرد: خلافت بوی گذاشتہ بمدینہ منورہ توطن فرمود در مدینہ منورہ بہرہ زنی اخترا ع کردہ امام را زہر داد روز پنجشنبہ سنہ خمسین انتقال فرمود عمرش چہل و ہفت سال بود اولادش ذکور یک زید دوم حسن مثنیٰ سیوم عمر چہارم قاسم پنجم عبد اللہ ششم عبد الرحمن ہفتم حسین ہشتم اثرم نہم طلحہ دہم اسحاق و اناث شش تن بودند جبریل علیہ السلام اسم شریف حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بہدیہ پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوردہ بر قطعہ از حریر بہشت نوشتہ و وی شبیہ ترین مردمان بود نزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از سینہ تا بفرق سر روزی امیر المومنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ امیر حسن رضی اللہ عنہ را بر دوش گرفتہ بود و سوگند میخورد کہ این شبیہ ترین نبی علیہ السلام است نہ شبیہ علی رضی اللہ عنہ و علی رضی اللہ عنہ ایستادہ بود تبسم می نمود وازوی می آرند بیست و پنج حج گذاردہ بود انتہی از عقب امام حسن رضی اللہ عنہ **تاریخ ولادت و خلافت و رحلت حضرت امام المسلمین حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما از مخبر الواصلین کہ بنظم کردہ است**

حسن آن بادشاہ کون و مکان	کنیت او ابو محمد دان

آن امام موید است حسن	نقی و سبط سید است حسن	ذات والای آن شه کونین	بیشک و بیشبهه سید الطرفین	
صاحب جدولت و شهامت بود	منبع بخشش و کرامت بود	بعد حیدر خلافت آن شاه	پنج ماه و سه روز یا شش ماه	
دل ز دنیای بیوفا برداشت	امر و نهی خلافتش بگذاشت	شده عزلت نشین بیاد خدا	که جهان است عاقبت بفنا	
ختم بر ذات او خلافت شد	بجهان فتنها و آفت شد	عقل سال ولادت آن شاه	یافت حرف نخست بسم الله	۲
لیک از روی اختلاف بگو	سرجان است سال زادن او	بود تاریخ هفتم ای مسعود	سفرش در مه صفر فرمود	۳
صبح یوم الخمیس نقل نمود	ز جهان سوی حضرت معبود	انتهای تمام بسم الله	آن دو حرف است سال حالت شاه	۵۰
با لغم گفت سال نقل امام	حیف آفاق ماند بی اسلام	در بقیعه مزار او آمد	رحمت حق نثار او آمد	

ذکر القاب ونسب امام حسن مثنی رضی الله عنه که نام وی حسن است ولقب او و محمد و ابی عبد الله

المثنی و کنیت او ابو عبد النبی و پدرش امیر المومنین امام حسن رضی الله عنه و نام مادرش کدبانو بنت شهدبرین یزدجرد بن شهریار ولادت وی در شلوزان روز دوشنبه در تاریخ بیست و نهم ماه رمضان المبارک سنه چهل و هفت و نه ماه هجری در زمان حضرت معاویه رضی الله عنه بن سفیان تولد شد و چون پانزده ساله شد دختر عم خود را که نام او فاطمه بنت امیر المومنین امام حسین رضی الله عنه را بخواست در دمشق ابو النصر ملی میگوید که شهدبرین یزدجرد بن شهریار بحضرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم ایمان آورده بود و قبائد باد شاه در شلوزان بود که مثل ایشان در زمان کسی نبوده و قافله را جمع کرد مع اهل و با لشکر بجانب کعبه معظمه به نیت حج کردن روان شد روز دوشنبه هفتم از ماه ربیع الاول سنه ست واربعین من الهجرة و هم قافله را خبرداری از غذا نان و آب را هم خبر گرفته در مکه معظمه داخل شد و حج کرد و بعده بجانب مدینه منوره آمد و زیارت حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم کرد یعنی بجا آورد از پدر خود یزدجرد بن شهریار از هر مال که از ولایت شغرب آورده بود بر روضه حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم تصدق کرده مجاوران را داد بعد وقت صلوٰة ظهر با امیر المومنین امام حسن رضی الله عنه ملاقات کرد بعد از امام حسن رضی الله عنه ملاقات با امیر المومنین امام حسین رضی الله عنه کرد و انواع تحفها پیش امامین نهاد

وگفت ای امیر بجز خدا و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیچ وسیلہ ندارم و مرا بسیار محبت غالب
شدہ است کہ در اینجا زیر قدمین یا شم لکن از ترس پدر خود نمی باشم مرا کہ بگوید چرا ماندی و
پادشاہی از من بگیرد چون یکماہ و پنجروز در مدینہ منورہ ساکن شد و دختری بودش کہ نام وی
کدبانو بود بسیار حسن و صورت پاکیزہ و لطیف مانند شمس در تاریکی روشن تر بودی در خانہ وی
یکروز امیر المومنین امام حسن رضی اللہ عنہ آمدہ برای تعظیم مہمان را و آب طلبید نہ کسی از خدمتگاران
حاضر نبود و شیدر گفت آب از برای امام بیار ید بی بی کدبانو آبخورہ از آب پر کردہ مع آداب
آورد و امام صورت دختر دید و آب نوشید و ہر دو دست زیر آبخورہ بستہ شد افتاد و قلب
امام محبت بی بی کدبانو پدید آمد شیدر معلوم کرد روز ششم ہمین دختر خود را شیدر با میر المومنین
امام حسن رضی اللہ عنہ بزنی داد بعد از سیوم روز نکاح بجانب شرب روان شد یوم الخمیس شانزدہم
از ماہ صفر سنہ سبعہ واربعین من الہجرۃ از امام حسن رضی اللہ عنہ بی بی کدبانو را چہار فرزند تولد شد
سہ فرزند در صغیری نقل کردند احمد و طاہر و مطہر و امام حسن المثنی را چون بیست و ہفت سال عمر
رسید در خانہ وی عبد اللہ المحض پیدا شد و وفات حسن مثنی در نیسان روز خمیس پنجم از ماہ شوال
سنہ ۹۷ سبعہ و تسعین بود من الہجرۃ در زمان ابو ابراہیم بن ولید و قاتل ایشان ہارون بن رشید بود
و قبر شریف امام در نیسان ست بعد از وفات حسن المثنی فاطمہ بنت امام حسین رضی اللہ عنہ بر قبرش
یکسال خیمہ زدہ در آنجا نشستہ بود بعدہ در خانہ وی بود عمر وی پنجاہ سال بود و در نقش نگین
او اللہ بصیر بالعباد احمد بن عبد اللہ خادم او بود پسر دو و دختر یک عبد اللہ المحض و محسن
و یک دختر خیر النساء و از آنہا خلافت عبد اللہ المحض را رسید و محسن و خیر النساء در صغیر در نیسان
وفات یافتہ اند انتہی و جناب مولانا نور الحق ترک بخاری ابن عمدۃ المحدثین شیخ عبد الحق دہلوی
رحمہما اللہ تعالی در کتاب خود تیسیر القاری شرح صحیح بخاری در باب جنائز آوردہ است
باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور در بیان چیزی کہ مکروہ است از گرفتن مسجد
بر قبر و لما مات الحسن بن الحسن بن العلی و ہرگاہ فوت شد حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب

رضی اللہ عنہ ضربت امراتہ القبۃ علی قبرہ سنۃ زد زن او کہ بنت عم او حسین بن علی بود وفاطمہ نام
داشت خیمہ بر قبر او یکسال ثم رفعت فسمعت صائحا یقول یستر یہ داشت خیمہ پس شنید آواز کنندہ
را از جن مسلمان یا ہاتف کہ میگوید بدیگری الا ہل وجدوا ما فقدوا دانا وآگاہ باش آیا یافتند
چیزیرا کہ گم کردند فاجابہ آخر بل یئسوا فانقلبوا پس جواب داد او را دیگری بلکہ نومید شدند و برگشتند
در تطبیق این حدیث بترجمہ گفتہ اند ہرگاہ خیمہ بر سر قبر زد البتہ دران نمازی میکردہ باشد پس بمسجد
گرفت انتہیٰ و عالم علامہ فاضل یگانہ جامع معقول و منقول حاوی فروع و اصول قدوۃ المحققین و
زبدۃ المدققین مولانا مولوی محمد غوث المخاطب بشرف الملک مرحوم مغفور در کتاب خود انہار المفاخر
آوردہ است کہ در فصول مہمہ فی معرفۃ الائمہ آوردہ است کہ حسن مثنیٰ خواستگاری نمود پیش
عم خود امام حسین رضی اللہ عنہ برای یکی از دو دختر وی رضی اللہ عنہ فاطمہ و سکینہ رضی اللہ عنہما
امام حسین رضی اللہ عنہ خود فرمود ای پسر ہر کرا محبوب داری بخواہ پس شرمگین شدہ جواب نداد
پس امام حسین رضی اللہ عنہ خود فرمود اختیار کردم برلسے تو فاطمہ را کہ مشابہ تر است بمادر من
فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس فاطمہ صغری را با حسن مثنیٰ تزویج نمود و حسن مثنیٰ با عم
خود در کربلا حاضر بود بعد از شہادت وی رضی اللہ عنہ با دیگر اہل بیت نبوی علی جدہم علیہم
الصلوٰۃ والسلام در بند یزیدیان آمد پس اسما بن خارجہ آمدہ از انہا باز گرفت و گفت واللہ نخواہد
رسید او را زبونی ہمیشہ انتہیٰ **در نصاب و نسب سید عبد اللہ المحض و بالمجل و کنیت**
او ابو محمد و پدرش امام سید حسن مثنیٰ بن امام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ و نام مادرش فاطمہ بنت
امیر المومنین امام حسین رضی اللہ عنہ ولادت وی در نیسان بود روز خمیس پانزدہم از ماہ شعبان
سنۃ خمسین و فی روایۃ اربع و سبعین ہو الاصح من الہجرۃ در زمان سلیمان بن ابراہیم بظہور آمد و
چون بہفت و نہ سال عمر رسید در خانہ وی سید موسیٰ الجون پیدا شد و وفات وی روز شنبہ فی دہم ازماہ محرم
سنۃ ثلاث و اربعین و مائۃ در زمان ولید بن ابراہیم در موصل حادث شد و قاتل ایشان ابن مسلم
بن عقبہ و مدت عمر وی شصت و نہ سال و پنج ماہ بود در نقش نگین او عالم الغیب والشہادۃ

وهو الرحمن الرحیم بود و جعفر بن احمد متوکل خادم او بود و سه پسر و سه دختر داشت و در بعضی روایات پنج نیز گفته اند یکی ابو القاسم محمد کنیت اوست موسیٰ الجون و ابراهیم و عبد الله نیز گویند و یحییٰ و سلیمان و ادریس یکی قاسم ابی محمد و دویم عبد الله سیوم موسیٰ الجون یک دختر زبدة النساء دویم سکینه سیوم زینب و از ینها خلافت موسیٰ الجون را رسید و قاسم و زبدة النساء و سکینه هر سه نقل کردند در موصل در انصاب سید موسیٰ الجون که اسم ایشان موسیٰ است و کنیت ابو شهاب الدین و لقب ایشان موسیٰ الجون پدرش سید عبد الله المحض بن السید حسن المثنیٰ و نام مادرش لبانه بنت شیخ فیض الله که کبار مشایخ موصل وی بود و ولادت وی روز دوشنبه فی التاریخ نهم از ماه رجب سنه ۱۴۶ ست واربعین ومائة من الهجرة در زمان مامون بن هارون در بدلیجی بظهور آمد و چون بیست و پنج سال عمر وی رسید در خانه وی سید عبد الله ارزق تولد شد و وفات وی در بلاد طوس روز جمعه پنجم از ماه صفر در زمان مقتدر بالله ابن منقسم بالله سنة اربعة وعشرون و مائتین من الهجرة و قبه شریف هم در طوس است و قاتل ایشان هادی بن مامون بن ولید بن عبد الملک بن مروان و مدت عمر ایشان پنجاه و نه سال و چهار ماه بود و نقش نگین او لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم محمد بن احمد متوکل خادم او بود و پنج پسر و دو دختر داشت یکی صالح دویم شرف الدین سیوم یحییٰ چهارم قاسم پنجم عبد الله و نام دختران یکی سلیمه دویم فاطمه و از ینها خلافت سید عبد الله ارزق را رسید صالح و قاسم و یحییٰ و سلیمه این هر چهار در صغیری نقل کردند در طوس در انصاب و نسب سید عبد الله و لقب ایشان تاج الدین محمد و پدرش سید موسیٰ الجون بن سید عبد الله المحض و نام مادرش آمنه بنت مامون بن هارون و ولادت وی در طوس روز چهارشنبه در ماه رمضان المبارک در زمان مقسط بالله بن مقتدر بالله سنه ۲۲۰ عشرون و مائتین من الهجرة بظهور آمد و چون عمر وی بهفده رسید در خانه وی موسیٰ زکریا تولد شد و وفات در تستالف روز شنبه در تاریخ هفتم از ماه جمادی الآخر در زمان منعم بالله بن منقسم بالله سنة ثمانین و مائتین و در جنگ مروانیان از زخم نیزه در کوه خیبر از دست مسلم بن ابراهیم

که اولاد برادر مروان است وفات یافت و قبر شریفش در نعمان است نزدیک جیلان و مدت
عمر وی هفتاد سال و نه ماه بود و در نقش نگین او حسبی الله نعم الوکیل نعم المولی ونعم النصیر
هاشم بن احمد متوکل خادم او بود و یک پسر و دو دختر داشت یکی موسی زکریا و نام دختران عجوزه
و رحمة خاتون از ایشان خلافت موسی زکریا را رسید و عجوزه و رحمة در صغیرگی نقل کردند درشتالف
درنصاب ونسب سید موسی زکریا که نام وی موسی است وکنیت او ابی زکریا ولقب
او شرف الدین و پدرش سید عبد الله ازرق ابن سید موسی الجون و مادرش حفیظه بنت شیخ
ابوسعید ابن قائل ابن ابی عبد الله صوفی ولادت وی روز یکشنبه در تاریخ بیست و یکم از ماه
ذی الحجة الحرام در زمان سبحانقلی خان ابن سلطانقلی خان سنة تسعة وسبعین ومائتین من
الهجرة النبویة در نعمان بظهور آمد و چون بیست سال عمر وی رسید در خانه وی ابابکر داود طائی
تولد شد وفات یافت وی روز جمعه در تاریخ ششم از ماه ربیع الاول در زمان سلیمان قلیجخان
بن سبحانقلیخان سنة اربعین وثلاثمائة در بلاد نعمان بود وفات یافت بمرض سرسام و قبر وی
در جیلان است و مدت عمر وی شصت سال و ده ماه بود و در نقش نگین او ان رحمت الله
قریب من المحسنین بود عمر بن خالد خادم او بود و سه پسر داشت یکی عبد الوهاب دوم عبد القادر
سیوم ابابکر داود طائی واز ایشان خلافت داود را رسید و عبد القادر در صغیری در نعمان نقل کرد
درنصاب سید ابابکر داود طائی که نام وی داود است ولقب وی سراج الدین و کنیت
وی ابابکر و پدرش سید موسی زکریا بن سید عبد الله ازرق بن سید موسی الجون و نام مادرش
فاطمه بنت شیخ عثمان تستری بن شیخ محمد که کبار از مشایخ عراق بود ولادت وی روز دوشنبه
در تاریخ نهم از ماه جمادی الثانی در زمان شاه غرت ابن شاه مصطفی سنة سبع وتسعین ومائتین
من الهجرة در بلاد کیمانی که نزدیک گیلان است بظهور آمد و چون بیست و هفت سال عمر وی رسید
در خانه وی سید محمد عابد پیدا شد و وفات وی روز خمیس فی التاریخ بیست و هفتم از ماه شعبان
در زمان شاه احمد بن شاه لونواز در سنة تسعین وثلثمائة در بلاد بلخ مشترک که نزدیک سمرقند است

عاجزه

از مرض افلج وفات یافت وقبر شریفش در سمرقند است کہ برای تحصیل علم رفتہ بودند در آنجا حادث
شد ومدت عمر وی نود وسہ سال بود ودر نقش نگین او ان اللہ علی کل شیء قدیر بود وقاسم بن
عمر خادم چہار پسر وسہ عاجزہ داشت یکی محمد قاسم دویم عبد اللہ الحمد سیوم محمد عابدین چہارم شہاب الدین
واسماء عاجزہ یکی زینب دویم جنت سیوم عزت خاتون ازینہا خلافت شاہ محمد عابدین را رسید ابو محمد
ومحمد قاسم وجنت خاتون وعزت خاتون این چہار در صغیری نقل کردند نزدیک بانین در انصاب
سید محمد عابدین کہ نام وی محمد است ولقب عابدین وکنیت وی ابی احمد تاج الدین و
پدرش امام ابابکر سید داؤد طائی بن سید موسیٰ زکریا است ونام مادرش حلیمہ بنت شیخ نجیب ابن
قاسم تشنگی ولادت وی شب چہارشنبہ در تاریخ از ماہ ربیع الآخر در زمان شاہ سلیمان بن شاہ احمد
سنۃ اربع وثمانین وثلثمائۃ در بلاد قلمینا در سواد گیلان است تولد شد وچون عمر وی بیست و
یک سال شد در خانہ وی سید یحییٰ زاہد بظہور آمد وفات وی روز جمعہ در تاریخ دہم از ماہ رجب در
زمان شاہ سلیمان بن شاہ احمد در سنۃ خمس وثلاثین واربعمائۃ در قلمینا از مرض شخ وفات یافت
وقبر شریفش در گیلان است ومدت عمر وی پنجاہ ویک سال بود ودر نقش نگین او ان اللہ
بالغ امرہ بود ومحفوظ ابن زکریا خادم او بود شش پسر وسہ دختر داشت یکی عبد الواحد دویم
عبد الوہاب سیوم عبد الرزاق چہارم یحییٰ زاہد پنجم عبد القادر ششم احمد واسماء عجوزہ یکی امینہ دویم
زینب سیوم عائشہ ازینہا خلافت یحییٰ زاہد را رسید وعبد الرزاق وعبد القادر واحمد وزینب و
عائشہ این فرزندان ودختران در قلمینا در صغیری نقل کردند در انصاب سید یحییٰ زاہد کہ
نام وی یحییٰ است ولقب زاہد واتقی وکنیت وی ابو علی وپدرش سید محمد بن سید ابابکر
داؤد ونام مادرش فاطمہ بنت شیخ محمد بن شیخ احمد باقلانی کہ از کبار مشائخ باقلان بود واز رؤسای
زہاد ایشان است ومراد را احوال عالی وکرامات ظاہر بود ذکر کسان باقلان کہ در عراق اند
ولادت وی روز شنبہ در تاریخ از ماہ شوال در زمان شاہ فیروز بن شاہ عزت سنۃ ۴۰۵ خمس و
اربعمائۃ ہجری در دہۂ قلمینا کہ نزدیک گیلان است تولد شدہ بود وچون نوزدہ سال عمر وی

رسید در خانہ وی سید عبد اللہ صالح پیدا شد در جیلان در گذر توران وفات وی روز جمعہ
در تاریخ بیست ونہم از ماہ رمضان شریف در زمان شاہ علاء الدین بن شاہ فیروز سنہ ۴۵۳
ثلث وخمسین واربعمأتہ من الہجرۃ در جیلان حدوث آمد از مرض کالوس وقبر شریفش ہم در جیلان
است ومدت عمر وی چہل وہشت سال بود ودر نقش نگین او ھو الحی القیوم بود دلوز الحق و
ابن فضل خادم او بود دو پسر ویک دختر داشت یکی موسیٰ دویم عبد اللہ صالح ونام عاجزہ بیاہم
واز اینہا خلافت سید عبد اللہ صالح را رسید وموسیٰ وسلیمہ در جیلان در صغیری نقل کردند ذکر
انساب سید عبد اللہ صالح نام وی عبد اللہ است ولقب صالح وزنگی وکنیت
ابی محمد صادق وپدرش امام سید یحییٰ زاہد ابن امام سید محمد ... مادرش بمیمہ ... است بنت شیخ عقیل
ابن شیخ موسیٰ جیلانی ولادت وی روز چہار شنبہ در تاریخ یازدہم از ماہ محرم در زمان شاہ
علاء الدین بن شاہ فیروز سنہ ۴۲۴ من الہجرۃ در جیلان بظہور آمد چون بیست سال عمر وی رسید در
خانہ وی سید ابو صالح پیدا شد در جیلان ووفات وی روز یکشنبہ ہفتم از ماہ صفر در زمان شاہ
ضیاء الدین بن شاہ علاء الدین سنہ ہجری در جیلان وفات یافت از مرض حمی الدق سواد دی
وقبر شریفش در کوہ کنور است کہ نزدیک دیہہ پدر قیما است ومدت عمر وی چہل ونہ سال بود ودر
نقش نگین او وما امروا الا لیعبدوا اللہ محمد ہاشم خادم او بود دو فرزند داشت یکی عبد الوہاب
دویم ابو صالح واولاد او در جیلان بسیار است در بحر الانساب جامع مسطور است کہ ابو صالح سید
عبد اللہ را ہیچ اولاد نشدہ بود مگر در وقت پیری دو فرزند شدہ بودند کہ ذیل مذکور خواہم نوشت
وخلافت ہم عبد الوہاب را بود واز پدرش سید عبد اللہ صالح را ولبعد از وفات عبد الوہاب خلافت
سید ابو صالح را وبعضی گویند کہ سید ابو صالح در مستی حق سبحانہ وتعالیٰ بسیار مستغرق بود کہ ہوش نداشت
وہمیشہ در جیلان مع این اسم مشغول بود وآن اسم اینست انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو وگاہ
گاہ در آبادانی جیلان آمدہ واہلیہ خود را خبر گرفتہ وخاطر جمع داشتہ باز در جیلان مع این اسم
دوام مست میگردید انتہی الخ ذکر انساب سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ونام وی موسیٰ

ولقب وی جنگی دوست وکنیت وی ابوصالح وپدرش سید عبدالله بن سید یحیٰ زاہد ونام مادرش
عایشه بنت شیخ ابونصر بن شیخ عبدالله که ازکبار مشایخ جیلان بود وولادت وی روز چہارشنبه
پانزدہم ازماہ شعبان درزمان شاہ محمود بن شاہ علاء الدین سنة من الہجرة درجیلان بظہور
آمده چون شصت ونه سال عمر وی رسید درخانه وی سید عبدالقادر رضی الله عنه متولد شد
ووفات وی روز جمعه دوازدہم ازماہ ربیع الاول درزمان شاہ عباس بن شاہ محمود در سنه ۴۹۱
من الہجرة احدی وتسعین واربعمائة وفات یافت ازمرض سکته درجیلان وعمر وی ہشتاد ونه سال
بود وقبر شریفش ہم درجیلان است ودرنقش نگین او ہوالحی القیوم وعابد بن صالح خادم
او بود دو فرزند داشت یکی سید عبدالقادر رضی الله عنه دوم سید ابی احمد عبدالله درحین
عنفوان جوانی ازین دار فانی بسرای بقا ودانی نقل فرمود وچون بحر عرفان حضرت سید ابو
صالح موسیٰ جیلانی رضی الله عنه ازجہان رحلت فرموده ہمین دو دُرّ یتیم گذاشته بود
خلافت ازیشان بحضرت سید عبدالقادر رار سید رضی الله عنه انتہی الخ **ذکر انساب حضرت**
غوث الاعظم قطب الاکرم سلطان الاولیاء برہان الاصفیا قطب الاقطاب فرد الاحباب غوث
الثقلین کہف الخافقین حضرت سید ابومحمد محی الدین سید عبدالقادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی الله عنه
وارضاه عنا ازسادات حسنی ازجانب پدر وحسینی اند ازجانب مادر مولود شریفش درگیلان که
درعجم است ونسب شریفش ازجانب والد بزرگوار بدین نوع است که حضرت سید محی الدین
ابومحمد عبدالقادر جیلانی ابن سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست ابن سید عبدالله صالح ابن سید یحیٰ
زاہد ابن سید محمد وسید محمود نیز گویند ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ ثانی ابن سید عبدالله ثانی
بن سید موسی الجون بن سید عبدالله المحض بن سید حسن المثنی بن امیر المومنین سیدنا امام حسن
رضی الله عنه بن امیر المومنین وامام الاشجعین سیدنا علی کرم الله وجہه ایضاً فی شرح انساب حضرت
سید عبدالقادر رضی الله عنه وپدرش سید ابوصالح رضی الله عنه رابشارت وانحضرت رضی الله عنه
ازپشت حسنی اند وازشکم حسینی اند ونام مادر انحضرت رضی الله عنه بی بی فاطمه وکنیت او ام الخیر

ولقب او امۃ الجبار دختر سید عبد اللہ[1] الصومعی الزاہد بن سید[2] ابوجمال الدین محمد بن سید محمود[3] ابن سید ابی العطا[4] عبد اللہ ابن سید کمال الدین[5] عیسیٰ ابن سید ابی علاء الدین محمد الجواد ابن سید امام علی رضا ابن سید امام موسی الکاظم ابن امام سید جعفر الصادق ابن الامام سید محمد الباقر ابن امام سید زین العابدین ابن امام شہید کربلا سیدنا حسین ابن امام امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انتہیٰ کذا فی تنویر السیر دویم در تاریخ بلخ مومن خانی آوردہ است و والدۂ حضرت غوث الاعظم امۃ الجبار فاطمہ بیگم سلطان نام دارند کہ دختر حضرت شیخ سید ابو عبد اللہ صومعی رحمہما اللہ بودہ و ایشان بن سید ابوجمال الدین محمد بن سید محمود بن سید ابی عطا عبد اللہ بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید علاء الدین محمد الجواد ابن امام علی موسی رضا ابن حضرت امام موسی کاظم ابن امام بن حضرت امام جعفر صادق ابن حضرت امام محمد باقر ابن حضرت امام زین العابدین ابن حضرت امام حسین ابن حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین سیوم در تفریح الخاطر آوردہ است واما نسبہ من طرف والدتہ فہی ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت السید عبد اللہ الصومعی الزاہد ابن ابی جمال الدین السید محمد ابن سید محمود طاہر ابن الامام ابی العطا السید عبد اللہ ابن الامام السید کمال الدین عیسیٰ ابن الامام ابی علاء الدین محمد الجواد ابن الامام علی رضا ابن الامام موسی الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین ابن الامام ابی عبد اللہ الحسین ابن الامام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چہارم در تحفۃ الابرار و لوامع الانوار آوردہ است از جانب مادر یعنی من جانب الام وامہ رضی اللہ عنہما امۃ الجبار فاطمہ بنت سید ابی عبد اللہ الصومعی الزاہد بن السید ابی جمال الدین محمد بن السید محمود بن السید ابی العطا عبد اللہ بن السید کمال الدین عیسیٰ بن السید ابی علاء الدین محمد الجواد بن السید الامام علی الرضا بن السید الامام موسی الکاظم بن السید الامام جعفر الصادق بن السید الامام بن السید الامام محمد الباقر بن السید الامام زین العابدین علی بن السید الامام الحسین بن امیر المومنین علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہم انتہیٰ پنجم در نزہۃ الخاطر الفاتر مولانا

[1] صفحہ ۲۷۶ مطبوعہ سکندریہ

[2] ورق ۲۷ قلمی

[3] صفحہ مطبوعہ اسلام بول

علی القاری آوردہ است اما النسبۃ الشریف لامہ مفصلا فھو متصلا بالامام الہمام سید الشہداء ابی
عبداللہ الحسین ابن سیدنا علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہما کما ذکرہ غیر واحد من العدول و
الثقاۃ علی ہذا الوجہ والمنوال وہو ان السید الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن السیدۃ ام الخیر
امۃ الجبار فاطمہ بنت السید عبداللہ الصومعی الزاہد ابن السید ابی جمال الدین محمد ابن السید محمود
ابن السید ابی العطا عبداللہ ابن السید کمال الدین عیسیٰ ابن الامام السید علی الرضا ابن الامام
موسی الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین علی ابن
الامام الہمام سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین ابن الامام الہمام امیر المومنین سیدنا علی بن ابیطالب
رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین شیخ ششم در فتوح الغیب آوردہ است اعلم ان حضرۃ قطب العارفین
الشیخ عبد القادر الگیلانی قدس اللہ تعالی سرہ والدتہ الکریمۃ رضی اللہ عنہا اسمہا ام الخیر امۃ الجبار
فاطمہ بنت السید عبداللہ الصومعی الزاہد ابن الامام ابی جمال الدین السید محمد بن الامام السید محمود
بن الامام السید ابی العطا عبداللہ بن الامام السید کمال الدین عیسی بن الامام السید ابی علاء الدین
محمد الجواد رضی اللہ عنہ بن الامام الہمام علی الرضا رضی اللہ عنہ ابن الامام الہمام موسی الکاظم رضی اللہ
ابن الامام الہمام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ ابن الامام الہمام محمد الباقر رضی اللہ عنہ ابن الامام الہمام
زین العابدین رضی اللہ عنہ ابن الامام الہمام سید شباب اہل الجنۃ وقرۃ اعین اہل السنۃ سید الشہداء
ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ عنہ وعنا بہ آمین ہفتم شبلنجی در نور الابصار آوردہ است فصل فی
ذکر مناقب محمد الجواد بن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین
بن الحسین بن علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہم امہ ام ولد یقال لہا سکینۃ المریسیۃ وکنیتہ ابو جعفر
ککنیتہ جدہ محمد الباقر والقابہ کثیرۃ الجواد والقانع والمرتضی واشہرہا الجواد صفتہ ابیض معتدل شاعرہ
حماد بوابہ عمر بن الفرات نقش خاتمہ نعم القادر اللہ معاصرہ المامون والمعتصم ولد ابو جعفر محمد الجواد
بالمدینۃ تاسع عشر شہر رمضان المعظم سنۃ خمس وتسعین ومائۃ من الہجرۃ قال صاحب کتاب مطالب
السوال فی مناقب آل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذا محمد ابو جعفر الثانی فانہ قد تقدم فی ابائہ ابو جعفر

لہ صفحہ ۱۷۲ مطبوعہ مصر مع البہجۃ الاسرار

لہ صفحہ ۱۵۱ مطبوعہ مصر و صفحہ ۱۵۸

محمد الباقر بن علی فجاء ہذا باسمہ وکنیتہ واسم ابیہ فعرف بابی جعفر الثانی وان کان صغیر السن فہو کبیر
القدر رفیع الذکر و مناقبہ رضی اللہ عنہ کثیرۃ انتہی در سفینۃ الاولیا آوردہ است حضرت امیر
المومنین علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کنیت ایشان ابو الحسن و ابو تراب است و لقب مرتضی
و اسد اللہ و نام شریف ایشان علی است و ہو ابن ابیطالب ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف
و نام مادر ایشان فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف است و ولادت ایشان در مکہ معظمہ بودہ
است در درون خانہ مبارک روز جمعہ سیزدہم رجب بعد از واقعہ فیل بہ سی سال و بعضی گفتہ
اند کہ ولادت ایشان در خانہ کعبہ بودہ در سال بعثت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بازدہ
سالہ بودہ اند بعضی سیزدہ سالہ گفتہ اند و اول کسیکہ از صبیان ایمان آوردہ ایشان بودند و
در سال سی و پنجم یا سی و ششم از ہجرت بر مسند خلافت نشستند و مدت خلافت ایشان پنج سال و
سہ ماہ بودہ و بقولی چہار سال و نہ ماہ بودہ و شہادت ایشان شب دوشنبہ بست و یکم ماہ
رمضان سال چہلم ہجری و بقولی روز جمعہ ہفدہم ماہ مذکور روی نمودہ و بعضی بست و سیوم گفتہ اند
و مدت عمر شریف ایشان شصت و سہ سال یا شصت و پنج سال بودہ و نقش نگین حضرت امیر
الملک للہ بودہ گویند کہ حق سبحانہ تعالی برای حضرت امیر کرم اللہ وجہہ دوبار رد شمس کرد و آفتاب
را از مغرب باز گردانید یکی در عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یکبار بعد از وفات آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم و قبر ایشان در نجف است چنانچہ در شواہد النبوت مسطور است کہ امیر المومنین
علی امام حسن و حسین را رضی اللہ عنہما وصیت کردہ بودند کہ چون بمیرم مرا بر سر بہ نہید و
بیرون برید و بغزنین کہ الحال بہ نجف شہرت دارد برسانید و آنجا سنگی سفید خواہید یافت کہ از آن
نور درخشان است آنرا بکنید در اینجا گشادگی خواہید یافت مرا در انجا دفن کنید ملا عبد الغفور
لاری رحمہ اللہ آوردہ اند کہ قبر حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ در بلخ است موضعی
کہ بآستانہ امیر مشہور است و درین باب حجتہا آوردہ اند واللہ اعلم قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم انت منی بمنزلۃ ہارون من موسی الا انہ لا نبی بعدی متفق علیہ مشکوۃ گفت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم مرعلی را کہ نسبت تو بمن ہمچو نسبت ہارون ہست بموسی غیر اینکہ نبیست بعد از من پیغمبری و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ صواعق یعنی گفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز غدیر خم ہر کس راہستم من مولای او پس علی مولای اوست خدایا دوست دار کسی را کہ دوست دارد علی را و دشمن دار کسی را کہ دشمن دارد او را حضرت امیر امام اول اند از ائمہ اثنا عشر رضی اللہ عنہم وسلسلہ ہای جمیع اولیا بایشان منتہی شود و ترتیب فضیلت چہار یار حضرت سید ابرار بہ ترتیب خلافت است چنانچہ در کلام اللہ در آخر سورۂ فتح اشارہ بآن شدہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا باید دانست وہر چہار یار را بہترین جمیع خلق خدا بعد از انبیا باید شناخت کہ علماء اسلام برین متفق اند و این حقیر در خواب بسعادت ملازمت خلفای راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین مشرف گشتہ چنانچہ شبی در خواب می بیند کہ چہار کس بلباس سفید بزرگانہ متعاقب یکدیگر میروند فقیر از شخصی پرسید کہ اینہا چہ کسانند گفت چہار یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقیر از عقب ایشان روان گشت ایشان از دریا گذشت برکوہی کہ بسیار بلند بود برآمدند و برابر ہم ایستادند فقیر پیشتر رفتہ اول بخدمت صدیق اکبر رسیدہ گفت السلام علیکم یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ در جواب فرمودند وعلیکم السلام گفتم التماس فاتحہ دارم فاتحہ خواندند وبعد از آن ہمین روش بخدمت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رفتم وسلام گفتہ فاتحہ التماس نمودم ایشان نیز خواندند و باز ہمین طور بخدمت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ وحضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہم سلام گفتہ وجواب شنیدہ التماس فاتحہ کردم ایشان نیز در بارۂ این فقیر جدا جدا فاتحہ خواندند و فرمودند بجہت یادگاری ماموز شدہ ایم و فقیر را باعنایت خاصی رخصت فرمودند و این خواب را از بیداری بخت وسعادتمندی کونین خود میداند کہ بچنین عطیہ عظمی مشرف گشتہ الحمد للہ علی ذلک و در تاریخ مومن خانی کہ آنرا تذکرۂ بلخ گویند اکنون شروع بہ بیان احوال واطوار علمای مجتہدین بلخ کنیم کہ اہل بلخ را چہ اقتضا رو

سیاہات بایشان بودہ است خصوصاً از انجملہ ہفتاد نفر ستودہ سیر بودہ اند کہ ہیچ کس را در فقاہت و ولایت و دیانت ایشان قیل وقال نبودہ است ایشان را بیان کنیم وباللہ التوفیق

واول شروع در ذکر مزار فائض الانوار حضرت شاہ ولایت کرم اللہ تعالیٰ وجہہ

کردہ شود وبعدازان شروع بآن اکابر نمودہ خواہد شد انشاء اللہ تعالیٰ بدانکہ چون امیرالمومنین حضرت علی مرتضیٰ را رضی اللہ عنہ عبدالرحمن ابن ملجم الخارجی علیہ ما علیہ المستحق چون بدرجہ شہادت رسانیدہ وی را بر شتری بار کردند کہ تا بمدینہ منورہ آوردہ نزدیک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن نمایند در اثنای راہ شتر غائب شد ندانستند کہ بکدام طرف رفت وہیچکس بران شتر قدر نیافت بنابرانیست کہ اہل عراق میگویند حضرت امیر رضی اللہ عنہ در سحاب اندو بعضی میگویند کہ ان شتر بہ بلاد طی رفت ودران بلاد وی را رضی اللہ عنہ مدفون ساختند وبعضی گفتہ اند در شام رفت وبعضی گویند در عدن ویا بین الجبلین رفت وبعضی گویند در بحرین ویا بلاد خراسان مشہد طوس یا مرو یا کوہ نور یا بلخ یا سواد آمل ویا کرخ بغداد رفت واللہ اعلم بالصواب گویند کہ انجناب رضی اللہ عنہ در سنہ شصت سہ سالگی بودند کہ شربت شہادت چشیدند وبعضی گفتہ اند کہ دران وقت شصت چہار سالہ بودند وبعضی گفتہ اند کہ شصت وپنج سالہ بودہ اند وبعضی پنجاہ وہفت نیز گفتہ اند گویند کہ قبر آن جناب را ازان جہت ظاہر نکردہ اند کہ مبادا خوارج بیدین جسد مبارک ایشان را از قبر بیرون آرند وضرر رسانند واز حضرت شریک رحمۃ اللہ علیہ منقول است کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پدر بزرگوار خود را در مدینہ منورہ فرستادہ پنہانی در نزد مادر عفیفہ خود رضی اللہ عنہا دفن فرمودند علمائی مدینہ ہمین قول را پسندیدہ اند واصح اقوال این است کہ در کتاب صواعق محرقہ آوردہ اند کہ چون جناب حضرت شاہ ولایت را کرم اللہ وجہہ بکارد زدند آن شب جمعہ بود ہمان شب جمعہ و روز جمعہ وشنبہ زندہ بودند ودر شب یکشنبہ وبار وز آن از عالم رحلت فرمودند وحضرت عالی درجات امام حسن وامام حسین وعبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ بامر غسل قیام نمودند و

و امام محمد حنفیہ آب میریختند و در توبے کہ بان قمیص نبوده کفن کردند و امام حسن رضی اللہ عنہ
بر جنازهٔ پدر بزرگوار خود امام شدند و ہفت تکبیر گفتند و بہ شب در دار الامارۃ کوفہ و یا
در قبر یکہ الحال مردم در نجف اشرف و یا در ما بین منزل وی و مسجد جامع اعظم کوفہ علی اختلاف
الاقوال مدفون ساختند قول اکثر علمای تاریخ انیست کہ در نجف است قبر ایشان اما در رسالہای
تواریخ بلخ آورده اند کہ قبر ایشان در ہر جای کہ بود بنا بر فتنهٔ گروه ناشکوه بنی امیہ بامر حضرت
امام محمد باقر رضی اللہ عنہ امیر ابا مسلم مروزی رحمۃ اللہ علیہ عیاران خود را فرموده در بلخ آورده
در دہہ خیران جسد مبارک ایشانرا پنہان دفن ساختہ اند و ہمچنان پنہان بود تا زمانیکہ سلطان
سنجر ماضی در مرو پادشاه شده و بلخ را با محمد بن قماج داد و در سنہ پانصد و سی از ہجرت چہار
صد نفر از علما و سادات و اکابر بلخ بیکبارگی در خواب دیدند کہ حضرت شاه ولایت رضی اللہ عنہ
در جای قبر خود کہ الحال در مزار فیض آثار میباشد ایستاده اند و باین اکابر میفرمایند کہ من
سالہاست کہ اینجا آسوده ام کسی اینجا بودن مرا نمیداند میباید کہ بوالیان مملکت شمایان اظہار
کرده قبر مرا ظاہر گردانید تا خلائق عالم زیارت کنند و بہره ور گردند چون این بزرگواران
از خواب بیدار شده صباح ہمہ ایشان بدربار امیر احمد بن قماج حاکم بلخ رفتند و آن خواب
با صواب خود را با میر تقریر کردند دران مجلس از علمای نامدار و فقہای عالی تبار امام عبد اللہ
تام عزیزی در مجلس امیر حاضر بود گفت کہ خواب را چندان اعتباری نمی باشد البتہ حضرت شاه
ولایت در اینجا نمیباشند کہ باقوال صحیح یا در مدینہ سکینہ است یا در عراق عرب یا در کوفہ یا در
سواد آن یا در کرخ بغداد یا نجف یا شہر عدن خواہد بود چہ ضرور بود کہ جسد مبارک ایشانرا
باین راه دور گرفتہ بیارند البتہ چنان خواہد بود و چون این سخن را آن بزرگوار در میان مجلس
علمای نامدار تقریر کرد ہر کس ہر جا پریشان شده رفت و چون شب شد آن فقیہ بلخ در خواب
دید کہ جمعی از سادات کرام او را گرفتہ محکم بربستہ دوان دوان و زنان زنان در نزد جد
شریف خود حضرت شاه ولایت بموضع قبر مطہر بردند حضرت امیر المومنین بآن ملای فقیہ تند شده

فرمودند که ای بی خرد جاہل کار بیرا که حق تعالی اظہار آن خواسته ہست تو میخواہی که بمجرد
تقول و زبان آنرا پوشیده داری چنین زدند ولت کردند که سیاه روی وضرب خورده گریان
ونالان وترس آلوده از جا برخواسته دران نیم شب بدربار حاکم بلخ رفت وانچه بروی گذشته
بود با میر تقریر کرده وآنگاه ہمه صغیر وکبیر بلدهٔ بلخ بجانب دیهه خیر انکه جانب شرقی بلخ مقدار دو
فرسخ شرعی واقعست رفتند وآن موضع راکندند صندوقی برآمد ودرآن صندوق کشاده دیدند
عزیزی دران خفته وہرگز اثر کہنگی وخرابی دران جسد مطہر عارض نشده وشخصے میانه بالای
سیاه رنگ مائل بگندم گون قوی جسم کشاده ابرو وچشمہا کلان فراخ وسیاه ومژگانهادراز
وشیر اندام وعظیم البطن وپہن سینه وفربه بدن ودرشت موی ونمکین رنگ وشیرین لب
وخوش ترکیب که اثر خون در بدن ایشان ظاہر ست واززخمہای ابن ملجم ہنوز خون جاریست
ودر لوحی نوشته که ہذا قبر امیر المومنین علی ولی الله اخ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ودیگر
مصحفی با دیگر نشانہا ظاہر شد وچون خاص وعام این کرامت وعلت دران مقام خجسته فرجام
مشاہده کردند کوس شادی وشادکامی رابفلاک رسانیده شب وروز فوج فوج گروه گروه
با نذور وہدایای نامعدوده از نقود واجناس واسپ وگاو واشتر وگوسفند وبز وغیرہا دران
مقام شریف آمده طواف وزیارت میکردند وکاہا درہنگام زیارت زیادت از دو صد ہزار آدمی
در فضای آن صحرای وسیع الحال رفیع الاقبال الله گویان جولان مینمودند ومترصد آثار
کرامت وملاحظهٔ ہزاران ہزار خوارق عادت میکردند تاکه در مدت انقضای دو ماه کما بیش
قریب یک ہزار پانصد کس از زمره کور وگنگ ولنگ وشل وبرص ومرض وغیرہا شفا یافته اند
وخلائق عالم این امور عجیبه غریبه را بچشم سر عیان میدیدند وچون این خبر خیر اثر انتشار واشتہار
یافت حضرت بادشاه اعظم سلطان سنجر ماضی انار الله برہانه برای زیارت از مرو شاه جہان
درینجا آمدند ومراسم زیارت رابجا آوردند ومیخواستند که عمارت عالی بناکنند اجل ایشان رسید
ودر روز شنبه بیست پنجم ماه ربیع الاول در سال پانصد پنجاه دو از ہجرت وفات کرده در مرو

مدفون گردیدند وسلاطین را فترات روی نمود و باندک مدت چنگیز خان خروج کرده عالم را خراب کرد وآن مقبرۂ مطہرہ کہ بنای آن از خشت خام بود باندک وقت از جہت شدت و کثرت برف باران خراب شد ومردم آنرا از جہت بیوقوفی تل علی میگفتند وہر کس دران عہد کہ قلیلی خبر داشتند از ترس کفار خواجہ خیران میگفتند وازین چون سہ صد وپنجاہ سال دیگر گذشت وعمارت بتمام انہدام واندراس یافت در عہد حضرت خاقان منصور یعنی پادشاہ دین پناہ سلطان حسین بایقرای گرگانی ولد منصور میرزا ابن بایقرا میرزا ابن امیر تیمور گرکان انار اللہ برہانہ بسال ہشتصد وہشتاد وشش از ہجرت تاریخی یافتند کہ حضرت شاہ ولایت در دہ خیران آسودہ اند امیرزادۂ بایقرا فرمود کہ آن تل را کاوند چون کشادند آن مجموع نشانہا کہ در بالا ذکر یافت ظاہر شدند ومنکران ہریک بزبان حال وبلسان مقال میگفتند بیت

کنون دارم من در خواب ماندہ مرا راہی نماند اکنون بجز رست	ولی در آتش اندر تاب ماندہ غبار کہ گلی از میان خود است	بلی این خیمہ آنگاہ پادشاہ است ہر آن جاہل قبول آن نکردہ	کہ بیداران عالم را پناہ است کہ او تصدیق بر قرآن نکردہ

بعد از آنکہ علامت وآثار کلی ظاہر شد این خبر را مردم بلخ بہرات بسلطان حسین میرزا رسانیدند سلطان این سخنان را باور نا کردہ امیر علی شیر را فرستاد تا تحقیق کردہ بیاید امیر علی شیر از بعد ورود آنمکان رفیع البنیان از حقیقت حال واقف شدہ ہمہ را آن امیر صاحب حال بروجہ کمال مشاہدہ نمودہ وعرضہ داشت کردہ بسلطان فرستاد غزل

بزم می در کام درد آشام بلخ آمد پدید	این ہمہ آغاز از انجام بلخ آمد پدید
ہیچکس عنقای مغرب را شکار خود نکرد	شاد باش ای دل کہ اندر دام بلخ آمد پدید
گوہری غائب شد اندر قعر دریای نجف	دین زمان از قبۃ الاسلام بلخ آمد پدید
شامیانرا بعد ازین قدر علی پیدا شود	کین فروزان شمع اندر شام بلخ آمد پدید
ثانی خلد برین یعنی مزار شاہ دین	در مقام لازم الاکرام بلخ آمد پدید
عین آب زندگی از کوفہ می جستند خلق	ای سکندر را کہ اندر جام بلخ آمد پدید

رد نوای بزم عرفان از مزار شاه جو	سکۂ شاهنشهی بر نام بلخ آمد پدید

وبالجمله چون صیت باصلابت این اخبار در عرصۂ روزگار مانند ایام بهار انتشار و اشتهار یافت آنگاه مردم حکایت آگاه از کمال اخلاص از عوام وخواص از حسن عقیده و اخلاق حمیده که داشتند فوج فوج وگروه گروه بالنقود واجناس ازمتاع ولباس وپلاس نامتناهی روی بقبلۂ علیه پادشاهی نهاده آمدند ودست بدعا گشاده گاه بودیکه در هنگام زیارت زیادت از دو صد هزار آدمی در فضای آن صحرای وسیع المحال رفیع الاقبال الله گویان جولان می نمودند و مترصد مشاهدۂ آثار کرامات و مترقب انوار خوارق می بودند که ان کرامات الاولیاء حق بالکتاب والاخبار والآثار تا که در مدت گذشتن دو ماه کما بیش ازمردم درویش وخدمتگاران شاه وسپاه ورعایا وبرایای خیرخواه قریب یکهزار پانصد نفر از زمرۂ اصم واعمی وطائفۂ اعرج وگنگ و نابینا گویا وشنوا وبینا دران دار الشفا از روی التفات بی غایات آن کامل الصفات شدند چنانکه زیاده از پانصد هزار کس صحت وعافیت در مدت اندک یافتند وهریک از زائران آن درگاه وسائران آن بارگاه صحت عاجل وشفای کامل آن طائفه بیمار وآن گروه زار و نزار رامیدیدند وبدیدۂ اعتبار بچشم انکسار ملاحظه ومشاهده درهر زمان وآن مینمودند بیت

ای مرقد شریف ترا حرمت حرم	کوی تو قبلۂ عرب و کعبۂ عجم
از بهر روشنائی تو مهر و ماه شمع	وز بهر سدۂ بوسی تو پست چرخ خم
از بهر آن مزار مقدس همی سزد	گردد چراغ سبز و فتیله سفید دم
از روی صدق خویش دران منزل شریف	از علت صمم بره بد زمرۂ اصم
چندین هزار کور بنا شد بدر گهت	فیض کرامت تو نشد هیچ وقت کم
هر کس که گفت نیست علی مرتضی ببلخ	ماند از کمال جهل دراو بار از نعم
در خوان روح پرور تو مندرج شفا	در فرش عرش گستر تو منهزم الم
گیتی بر آستانۂ تو میبرد پناه	گردون بخاک درگه تو میخورد قسم

گشت از ظہور روضۂ رضوان مآب تو ... خاک زمین بلخ به از گلشن ارم
لطف و عنایت تو بهر جا که جا گرفت ... بر دامن دلش ننشیند غبار غم
صالح بر آستانۂ تو میبر د پناه ... فرما که منشی ات زندش زاو لیا رقم

آنگاه سلطان حسین میرزا مکتوب با اسلوب امیر کبیر علی شیر را مطالعه نموده با جماعۂ از شاهزادگان و هزار الوس از چغتای و نه هزار لشکر جرار طرار با آنکه موسم سرطان د جلۂ کلان بود که از نهایت گرمی هوا ماهی دریا در عذاب بلا حساب بود رو به قبة الاسلام دار السلام بلخ گردید چون قوافل همان در رواحل دولت و بخت روز افزون قریب بجوار آن قبلۂ اقبال و کعبۂ آمال رسیدند سلطان فرمود که مرا از تخت روان پیاده کنند از بسکه فالج شده بود محرمان دست بدست گرفته میرفتند و هر یک بزبان ترجمان با یکدیگر میگفتند قطعه

بدرگاه علی مرتضی رو ... کز آنجا فیض بیحد میتوان یافت
رضای حضرت باریتعالی ... زابن عم احمد میتوان یافت
مراد هر دو عالم می بجواهی ... ازان پاکیزه مرقد میتوان یافت

بعد ازان سلطان بدان سر منزل عالیشان رسیده در حین طواف اطراف آن حرم محترم احرام فروتنی بسته با دل شکسته میگفت که غزل

السلام ای بارگاه شاه مردان السلام ... قبلة للناس حصن الخلق امن للانام
بارگاه کبریا الله اکبر این چه جاست ... سجده گاه اولیا سبحانک اللهم چه نام
حکم و لیطوفوا طوف در این بارگاه ... فیه آیات آیتی در شان این عالیمقام
چون عسل فیه شفا گفت للناس آن حکیم ... مثل زیتون مبارک یا که بهر خاص و عام
بر درت آمد گدای بینوا سلطان حسین ... رحم کن بر حال آن مسکین درگاه عظام

بعد از مراسم زیارت سلطان با جمعی از علما و اکابر و مشایخ و فقرا و اصاغر مصلحت در بردن صندوق حضرت شاه ولایت از بلخ بهرات کرده و گفت که در بلدۂ هرات در مدرسه علیای شاه رخیه که متصل مسجد جامع هرات است روضه بنا کرده شود و جسد مطهر آنحضرت را کرم الله وجهه الکریم اینجا نقل کرده شود از بسکه فرمان جل و علی دران نبود سلطان را ازین کار نا برا منع کردند

آنگاه سلطان فرمود تا اوستادان پرکار را حاضر کردند و عمارتی بغایت متانت که الحال موجودست بنا کردند و در مدت چهارده سال این عمارت بسر رسید و هنوز در صدد زینت و درستی آن بودند که سلطان حسین میرزا در روز دوشنبه یازدهم ماه قربان در سال نهصد و یازده از هجرت در هرات وفات کرده آنجا مدفون گردید گویند دران اوان سلطان چهابا غی بنا کرده بود بچهار حد روضه که روضه درمیان بوده و بدروازه خانه چهار باغ که جانب جنوبی آن واقع است نقاره خانهٔ عالی بنا کردند چنانکه در عهد سلطان سنجر هم بنای نقاره خانه در انجا بوده و مشهورست که حضرت خواجه بهاء الدین نقشبند قدس سره دران سر منزل که مسجدی هم شده است و الحال که آن قدمگاه موجودست و مکان مسجد شده است معتکف سه چله نشسته بودند باشد که رخصت زیارت یابند بعد از اتمام سه چله تا بدروازهٔ درون اذن یافته زیارت کرده از انجا مراجعت نمودند و مشهورست که سگی قبل از ایشان بزیارت ماذون شده در روضه رفته بدن خود را مالیده است و ایشان از کمال آداب از آن مقام تجاوز نمیکردند تا آنگاه که اذن یافته اند و بچراغ خانه بالی خود را مالیده از انجا درون تر داخل نشده اند چنانچه امیر علی شیر که تخلص او نوای است این را رباعی فارسی کرده است رباعی در زیر نقاره خانه حضرت شاه شیران جهان آمده کم از روباه * سه چله نشست نقشبند از سر صدق * سگ رخصت یافت او ادب داشت نگاه

وحضرت مولانا می جامی قدس سره فرموده اند - رباعی

گویند که مرتضی بشاه نجف است
در بلخ چه خورشید بذات الشرف است
جامی نه عدن گوئی نه بین الجبلین
خورشید یکی است نور در هر طرف است

و صد زوج آب از دریای بلخ جدا کرده موسوم بنهر شاهی کردند و انرا وقف صحیح مؤید ساختند و صد نفر سادات و صد نفر غلام را آزاد کرده برای خدمت دران گذاشتند و امور تولیت و وقف صحابیت سید تاج الدین اندخوی علیه الرحمه که از اولاد سید امیر برکهٔ اندخوی قدس سره بودند قرار گرفت و بعد از ایشان تولیت بخواجه میرزا ابوالحسن انصاری که از اولاد

حضرت خواجه عبدالله انصاری قدس سره و لدارشد حضرت شیخ شمس الدین مسکین رحمة الله علیه بود ند قرار گرفت والله اعلم **غزل** گنجی زخاک بلخ سپهر آشکار کرد * آنرا وسیلهٔ شرف روزگار کرد

آن گنج مرقد اسدالله غالب است	تا انروجها به بندگیش افتخار کرد
آن شاه دین پناه معمار عدل او	قصر هدی چو طارم چرخ استوار کرد
چون سینهٔ شتر شده پیشانی سپهر	از سجدها که بر حرم این مزار کرد
دائم بیانی وصف علی مرتضی کند	از عشقبازی که بدل صد هزار کرد

در تاریخ آورده اند که حضرت علی مرتضی را از نجف کوفه بنابر فتنهٔ گروه بنی امیه بامر حضرت امام باقر رضی الله عنه عیاران ابومسلم مروزی علیه الرحمة پنهانی در بلخ آورده در دیهٔ خیران که الحال موسوم بمدینه مزار است مدفون ساختند بالحال که سنه از هجرت هزار و سه است آن آستانهٔ عالی و عتبهٔ متعالی قبلهٔ مقبلان و کعبهٔ صاحبدلان سالکان طریق طلب و راه نوردان بادیهٔ مطلب از اطراف و جوانب از بلاد های قریبه و بعیده متوجهٔ طواف آنمکان عالیشان عرش مطاف اند و پادشاهان عالیجاه و سلاطین عالم پناه تراب جناب عتبهٔ علیه عزت مرتبهٔ عالیحضرت ولایت پناهی را بلب ادب بوسه میزنند و چون حلقها می روی ارادت بی تعب و شغب بر در طلب نهاده ملازم و عازم آن آستانه استانند خواص و عوام بلکه جمهور انام از روی تعظیم و اکرام از کمال اعتقاد و اهتمام تمام دران دارالسلام آمده بمطالب و مقاصد صوری و معنوی و بمرادات دنیوی و اخروی واصل میگردند و طوایف بیماران و ضعایف نزاران مثل کور و کر و گنگ و شل و اکمه و ابرص و جزام و سرسام و خفقان و غیر آن بقدر اخلاص و بقدر مناص از شفاخانهٔ آن حکیم کریم باذن حضرت رب الرحیم جل سلطانه العظیم بدرد خود باده او برنج خود شفا می یابند کما لایخفی علی من له ادنی درآیة واذی عنایة **بیت**

ذوق ترا بسینهٔ اصفا نهاده اند	شوق ترا بقالب مجلا نهاده اند
مستغرق محیط کرم مرتضی علی رضه	قدر ترا بعالم بالا نهاده اند
داری در آستین کرامت ز بهر خود	خاصیتی که در ید بیضا نهاده اند

هنگام طوعت خاکدرت سایه افگنان — سجاده بر رواق معلا نهاده اند
کرعاجزیست مدعی از فهم آن عجیب — کی روشنی بدیده اعمی نهاده اند
ذات ترا دعای یزدانی بود قرین — در وی هزار مصلحت ما نهاده اند

و مولانای جام نیز تاریخی بنظم درین باب کرده اند تیمناً و تبرکاً درین رساله نیکو مقاله ایراد نموده میشود و آن این است که بر ناظران و سامعان راه مبین است ابیات

چو شد قندیل زرکردان برا وج قلعهٔ مینا — شعاع شمع کافوری مه گردید ناپیدا
سپاه زنگیان شد منهزم از خطهٔ ماچین — لوای فتح شاه چین چو عکس انداخت در دریا
فرو شد زورق سیمین و زرین سیماب گون دجله — روان شد کشتی زرین بروی نیلگون دریا
بگوش هوش من آمد ندا از عالم غیبی — که میگفتند باهم ساکنان عالم بالا
برایوان ولایت کوکبی اقبال شد طالع — ز گردون سعادت آفتاب صبح شد پیدا
طلوع مطلع دویم بیا باگوش جان بشنو — نبی گفتا نه من گفتم بقول روشن واصفا
ز فرزندان سلطان بایزید آن عارف بسطام — یکی آمد ببلخ و داشت تاریخی نکو انشا
ز فرزندان شمس الدین یکی بوده محمد نام — نبی خوی علی جو دو حسین خلق و حسین آرا
که در هندوستان در خانهٔ شیخ مسلمانی — بدست افتاد او را این چنین تاریخ روح افزا
باین مضمون که بعد از پانصد و سی سال از هجرت — بعصر سنجر ماضی که شاهی بود با تقوا
که در بلخ ست صندوق امیر المؤمنین حیدر — نهان در قریهٔ خیران بگفتی این نشانیها
ز سادات اهالی بلخ کامل چهار صد کس بود — بخواب خویش دیدند بودن حیدر درین ماوا
چو دیگر روز شد آن چهار صد کس جملگی رفتند — به پیش حاکم احمد قماج آن نام بود او را
چو سادات اهالی موالی جمع گردیدند — عیان کردند خواب خویش را آن چهار صد دانا
فقیه بود امام پیشوای بلخ در مجلس — بکرد انکار و گفتا نیست قطعاً مرتضی اینجا
که در پای منار مسجد آدینه کوفه — شهادت یافت شاه هست قبرش اندران ماوا

بقولی بعضی دیگر ہست در شہر عدن قبرش — که اینجا مشہد عالی بناکردند بس علیا
بقولی در سواد آمل وکرخ ونجف باشد — ویا اندر عراق وشام یادارد مدینہ جا
بہر تقدیر در اینجا نباشد مرقد آن شاه — زروی افترا وکذب میگویند ہست اینجا
چو کرد انکار این معنی فقیہ بلخ در مجلس — ہمہ مردم بہر جانب روان گشتند بی پروا
چو شب شد دید آن زا اولاد نبی جمعی — گرفتند وروان بردند پیش مرتضی اورا
علی گفتش چرا انکار قول مصطفی کردی — لتش کردند رویش را سیہ بیدار شد از جا
چو او بیدار شد از خواب نالان پیش حاکم رفت — سیہ کردیده رویش بود زخمین جملہ سر تا پا
بگفت آن اعتقاد پیش باطل بود برگشتم — ہمین جا ہست قبر مرتضی ومجتبی احقا
چو خواب خود بحاکم گفت حالش اینچنان دیدند — ہمہ رفتند بسوی مرقد از صغرا واز کبرا
چو بکشادند آن مرقد وجود شاه سالم بود — نگردیده سر موی زاعضای علی تنہا
چو قبر شاه ظاہر شد عمارت یافت بس آنجا — روان شد لنگ وبینا گشت کور وگنگ شد گویا
چو اندک فرصتی بگذشت شد چنگیز خان ظاہر — بقتل آمد تمام مردم بلخ اندران غوغا
کسی کم ماند تا گوید که ہست آن مرقد حیدر — زظلم ظالمان ویران شده چندین عمارتہا
زترس مشرکان ہر کس که زین اسرار واقف بود — مزار خواجہ خیران نام بنہادند بر عمدا
ازین چو نیصد وپنجاه وشش سال دگر بگذشت — بامر قادر بیچون قدیم فرد بی ہمتا
بوصف ساقی کوثر وصی سید لولاک — طلوع مطلع ثانی نمود مچون ید بیضا
ببلخ آورد آن تاریخ را چون شیخ بسطامی — بوفق آن یکے تاریخ دیگر نیز شد پیدا
چو سادات اہالی سر آن تاریخ را دیدند — بہ پیش والیان ملک کردند این سخن افشا
بشہر بلخ آندم بود حاکم بالقرا سلطان — بامر او بسی از سید ودرویش مولانا
بسوی خواجہ خیران را [illegible] گشتند خیر آن بود — که ظاہر شد مزار حیدر صفدر دران ماوا
چو بکشادند آن صندوق زنجیر شد ظاہر — نشانہا که میجستند از ہر پیر وہر دانا

برون آمد ز قد خشت سرخی داشت ہم خطی	نوشتہ بود انشاہای نیکو روشن اخوانا
کہ ہذا قبر اسد اللہ وصی احمد ولی اللہ	قسیم النار والجنۃ امیر الدین والدنیا
بسال ہشتصد ہشتاد و شش در بلخ شد پیدا	مزار حیدر صفدر امام دینی و عقبا
بعہد دولت سلطان حسین بالقرا از نو	مزار صفدر شاہ ولایت تازہ شد احیا
ہوای او عبیر آمیز گشت باد مشک افشان	شدہ آبش گلاب و خاک او از عنبر سارا
بطوف روضہ پاک علی ابن ابی طالب	ز صدق دل کسی آید کشاید جملہ مشکلہا
درون خلوت او دوش بودم معتکف جامی	بگوشش جان من آمد ندا از عالم بالا
برو برہان مجو دیگر گواہی نی ازین بہتر	ہزاران گنگ و کور و کر کہ صحت یافتند اینجا
دیار قبۃ الاسلام بلخ امروز در معنی	چو فردوس برین گشتہ فرح گشت روح افزا

بالقی از غیب الہام نمود	گو بی تاریخش مقیم روضہ بود	کرد تحریر از برای نشان	خادم روضہ میر کہ ای سلطان
گفت تاریخ این رقم خامہ	شد دو تاریخ با ظہور نامہ	با تمام این نقش جستند مشایخ	خرد گفت ز ہجرت حسابش تاریخ

تاریخ عمر و شہادت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ از مخزن الواصلین

آنکہ زوج بتول حق بودہ	ابن عم رسول حق بودہ	شاہ تخت ولایت است علیؓ	ماہ چرخ ہدایت است علیؓ
شش مہ و چار سال کردران	حکم امر خلافت آن سلطان	روز جمعہ بوقت صبح نمود	ماہ ماسوی اوج خلد صعود
بود ماہ صیام نوزدہم	کہ شد آن بادشاہ چرخ نہم	گر تو سال شہادتش جوئی	سر ماتم چہ انیکو لی
این سخن نیز بود بصاحب غم	کہ سر ماتم است این ماتم	باز سال شہادتش کہ جلی است	بیگمان آخر دو حرف علی است
شد رقم سال نقل آن اعظم	رفت صد حیف صاحب از عالم	عمر آن شاہ واثق الاحوال	ہمچو عمر نبی است شصت و سہ سال
سال نقلش دگر بتعمیہ خوان	دای صد وای زیب شد جہان	سال نقلش لغم منادی شد	کہ ز دوران علی اعلی شد

در نجف مرقد منور اوست	آسمان و زمین معطر زوست

صد و ہشتاد و سیوم گفتہ است سید اسمٰعیل بغدادی در کتاب خود فیوضات الربانی فی مناقب الشیخ

۴۰

سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ صد وہشتاد وچہارم گفتہ است عالم نجم ظاہر در مفاخر شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد وہشتاد وپنجم گفتہ است عالم علامہ داؤد اجودی در ملفوظات سید عبد الرزاق ابن غوث جیلانی رضی اللہ عنہ صد وہشتاد وششم گفتہ است عالم فاضل محمد علی خان در کتاب خود احسن الاذکار فی مناقب غوث الابرار بیان نسب شریف ایشان قدم ایشان بر گردن جمیع اولیاء اللہ الکرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین صد وہشتاد وہفتم گفتہ است سردار اولیاء کرام وعرفاء عظام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ در کتاب خود اسرار الطالبین۔ صد وہشتاد وہشتم گفتہ است سردار اولیاء غوث اعظم وقطب اکرم حضرت محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ در رسالہ عزیزیہ خود صد وہشتاد ونہم گفتہ است ابو الحسنات قطب الدین احمد القادری القریشی در کتاب خود اعجاز غوثیہ بیان نسب شریف حضرت غوث ثقلین ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ابن سید ابی صالح موسیٰ ابن سید عبد اللہ ابن سید یحییٰ الزاہد ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ ابن سید عبد اللہ ابن سید موسیٰ الجون ابن سید عبد اللہ المحض ابن سید حسن المثنیٰ ابن الامام سیدنا الحسن المجتبیٰ ابن الامام امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اشعار در مدح غوث الابرار رضی اللہ عنہ منظوم

ای شمع شبستان ابی صالح موسیٰ	شد لمعۂ رخسار تو بر طور تجلّی
ہر صومعہ از پرتو نورِ تو روشن	تا شعشعۂ زد شمع رخت در شب یلدا
نیسان محسن چون بصفا شد متقاطر	از بحر حسین آمدہ آن گوہر یکتا
در مہد بدان ماہ کہ شد ہادی عالم	تو در مہدی عہد بست زبان گشت چو گویا
او برق صفت از کتف دایہ بخورشید	رو کرد فلک دایہ گری داشت تمنا
ہر گہ سوئی مکتب شدہ آن سرو خرامان	شد پیش و پسش مجمعی از ملاء اعلیٰ
در عہد جوانی رخ تو ہر کہ بدیدہ	از جان و دل خویش شدہ والہ وشیدا

صد ونود وم گفتہ است عالم علامہ مولانا مفتی محمد سعید در رسالہ خود قول الجلی فی بیان قدمی

ہذہ علی رقبۃ کل ولی صد و نود و یکم ^۱۹۱^ گفتہ است عالم علامہ بحر و بر ابن حجر در فتاوی حدیثیہ و بیان قدمی ہذہ علی رقبۃ کل اللہ صد و نود و دویم ^۱۹۲^ گفتہ است عالم علامہ شیخ احمد بن محمد دری موصلی رفاعی شافعی در کتاب خود روضۃ الناظرین **صد و نود و سیوم** گفتہ است در کتاب ہفدہ مجالس و بیان نسب شریف **صد و نود و چہارم** گفتہ ست در تکملہ خلاصۃ المفاخر ذکر نسبہ رضی اللہ عنہ و صفتہ اما نسب او پس او شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر بن سید ابو صالح موسی جنگی دوست بن سید ابی عبد اللہ بن سید یحیٰ زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبد اللہ بن موسی الجون بن سید عبد اللہ المحض و ینعت ایضاً بالمجل بضم میم و تشدید لام من الاجلال بن سید حسن المثنی بن امام حسن بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہی **صد و نود و پنجم** گفتہ است در حقیقۃ الحقایق **صد و نود و ششم** گفتہ است در حیٰوۃ الحیاۃ **صد و نود و ہفتم** گفتہ است در گلشن کرامات **صد و نود و ہشتم** گفتہ است در مخارق القادریہ **صد و نود و نہم** گفتہ است در مرآت الیضقان **دو صد دکم** گفتہ است در شجرۃ النساب اہل بغداد و ان از قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین سند الکاملین سید المتکلمین عمدۃ الفاضلین المتمسک بحبل اللہ المتین شیخنا و مرشدنا و سیدنا و مولانا سید محمد صالح الحسنی الحسینی الجیلانی البغدادی العراقی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ و ایشان از بغداد شریف در بمبئی تشریف آوردہ بودند و از بمبئی روانہ ملک سندھ حیدرآباد شدند و در شہر رانی پور بقضاء الٰہی بمرض تپ شدید جان شیرین بجہان آفرین تسلیم نمودند **انا للہ و انا الیہ راجعون** بتاریخ بیست و چہارم شہر ربیع الاول یوم یک شنبہ سنہ ۱۲۰۰ھ ہزار و سیصد و دہ و در انجا مدفون شدند این است تاریخ وفات ایشان **منظوم**

آن مطلع نور ماہ عرفان	آن برق تجلی عنایات
آن عارف حق محمد صالح	مفتاح درر موز آیات
آگاہ نکات دفتر عشق	استاد علوم فقر بالذات
یکتای زمان بخلق و رحمت	خوش فکر خوشا لقا خوش اوقات

چون رفت ازین جہان بجنت　آن مرشد و کاشفِ کرامات
یدبیت وچہار ماہ مولود　برگشت دلم ز رنج و آفات
خونشدل زمرۂ مریدان　گلبانگ زنان ہمہ کہ ہیہات
اخلاص ز روی درد گفتہ　شاہنشہ مجمع کمالات ۱۲۱

و این است شجرہ طیبہ انساب ایشان رحمۃ اللہ علیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ فاتح اقفال القلوب بذکرہ وکاشف استار الغیوب ببرہ ورافع اعلام الزیادت للقایم بشکرہ احمدہ علی ان جعلنا من اہل توحیدہ واشکرہ طالبا لفضلہ ومزیدہ واصلی واسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ افضل انبیائہ وعبیدہ وعلی آلہ واصحابہ الکاثرین کے بطویل الفضل ومزیدہ اما بعد فیقول العبد الفقیر المقر بالعجز والتقصیر الراجی عفو ربہ الولی السید محمد صالح القادری ابن السید خمیس ابن السید سلمان ابن السید مصطفی ابن السید زین الدین ابن السید نور الدین ابن السید محمد درویش ابن السید حسام الدین ابن السید نور الدین ابن السید ولی الدین ابن السید زین الدین ابن السید شرف الدین ابن السید شمس الدین ابن السید محمد الھتاک ابن السید عبد العزیز ابن السید السادات قطب الوجود والدرۃ البیضاء مالک ازمۃ المتصرفین راس المحبوبین امام الجواہر المفرد سلاالاحوال قطب الاقطاب الغوث الاعظم الجامع بین المعشوقین السید الشیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز ابن ابی صالح موسی جنگی دوست ابن السید عبد اللہ الجیلی ابن السید یحیی الزاہد ابن السید محمد ابن السید داؤد ابن السید موسی ابن السید عبد اللہ ابن السید موسی الجون ابن السید عبد اللہ المحض ابن السید حسن المثنی ابن السید امام الحسن رضی اللہ تعالی عنہ ابن السید الامام علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لوی ابن

غالب ابن فہر ابن مالک ابن النضر ابن کنانہ ابن خزیمۃ ابن مدرکۃ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن اد ابن اد د ابن الھمیسع ابن سلامان ابن حمل ابن نبت ابن قیدار ابن اسمٰعیل علیہ السلام ابن ابراہیم علیہ السلام ابن آزر او قال ابن تارخ ابن ناخور ابن شاروخ ابن ارغوت ابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح علیہ السلام ابن لمک ابن اخنوخ ابن الیار د ابن ادریس ابن مہلائیل ابن قینان ابن انوش ابن شیث ابن آدم علیہ السلام ابی البشر و علی نبینا افضل الصلوات والسلام وآدم من التراب والتراب من الارض والارض من الزبد والزبد من الموج والموج من الماء والماء من الدرۃ والدرہ من القدرت والقدرت من الارادۃ والارادۃ من علم اللہ تعالیٰ انتہی دو صد و یکم گفتہ است عالم فاضل قاضی طلا محمد پشاوری مرحوم در کتاب خود عروہ الوثقی در بیان سلسلۂ قدوۃ السالکین عمدۃ العارفین مجدالدین مخزن اسرار و حضور حضرت شیخ مولانا عبدالغفور رحمۃ الشکور المعروف بابو البرکات مستجمع الحسنات حضرت آخوند صاحب صوات علیہ الرحمۃ والتحیات و تاریخ وفات ایشان منظوم من طبعزاد اسوۂ اکارم نقبا سید محمد عظیم شاہ ناظم اعاظم اکبرپورہ اضلاع پشاور اینست

آن مرشد زمان کہ در آفاق مثل او
نی دیدہ بود دیدہ و نی گوش کس شنید

حامی شرع و ملت و داعی اہل حق
ماحی شرک و پردہ ہر مبتدع درید

داد جہاد داد جوان مردی ہدی
در معرفت ندید و نہ دیدش بدیدہ دید

در شرق و غرب و مثل عدیلش نبودہ ہست
تا مش چو نور مہر بارض و سما رسید

چون نفس مطمئنہ اش آواز ارجعی
بشنید و گوش کرد و بسمع رضا شنید

طوعاً ازین سراچہ غفلت بہوش رفت
در روضہ بہشت و براحت بیار مید

افسوس کز خزان چنین نو بہار زہد
صد نوک خار غم بدل اہل دل خلید

زین غم سحر دریدہ گریبان اشک ریخت
نیلی لباس در بر و پشت فلک خمید

افسوس کز غروب چنین آفتاب علم
صد گونہ تیرگی بجہان صفار سید

دردا و حسرتا و دریغا که بعد ازین　　در صد قرون عصر نیاید چنین پدید
چون طائران قدس ازین آشیان تنگ　　زد بالهای شوق و باوج بقا پرید
عبد الغفور شیخ زمان فرید عصر　　در عهد خود مجدد و شبلی و بایزید
تاریخ سال وصل غوبی غریب یافت　　با تاج هوش رفت و بعشرت سر احمید
۱۲۹۵

تاریخ من طبعزاد سردار باوقار محبت نشان سردار محمد اکبر خان حفظه الله المنان

شنیدم من امروز او و فغان　　که رحلت نمود انسر سروران
بشاهی و دولت بنودش نظر　　نه بر دُر و یاقوت و مرجان و زر
شیخ خوردی و نیم قرص جوین　　بهمت بکردی همه کار دین
چو میعاد رفتن بسر در رسید　　ز آثار رحمت نشان ها بدید
هماندم که محنت شد از وی تمام　　ز رضوان بسویش در آمد پیام
که خالی بکن اینجهان خراب　　بماوای آبای خود کن شتاب
ندا را چو از جانب حق شنید　　از اینجا به بست رخت آنجا کشید
بهشتم ز ماه محرم بدان　　که بد روز شنبه رفت از جهان
ز ایام دی وقت اشراق بود　　که از غم دو تا گشت چرخ کبود
بشادی بشد سوی حور و قصور　　که آواز ارجع شنید از غفور
۱۲۹۵
باعداد تاریخ دین دود　　بکرد از جهان سوی جنت صعود
اگر کینه خواهی بگویم زکین　　که چون روز جمعه نشد شیخ دین
ز عاشوره هم بود باقی دو روز　　چرا شد خمش شمع گیتی فروز
نداسته و نارسا بوده است　　که در راه کج رفت از راست جست
با ول ز آیات حق بی یقین　　بدو بیم بر و سوی اصحاب بین
دگر آن ذخائر که او داشته　　وآن تخم بیجد که او کاشته

بتقدیر حق بود ظاهر نخست ... چو کافی بس دید دیگر نجست
نه این رکن دین شد که باشد مرو ... نه در روزهای دگر شد قصور
بصدها ز کفار در جمعه مرد ... ز ایمان نخود ذره هم نبرد
اگر باده شیئ نباشد بکس ... چه پرها و چه پر مگس
صحیح و درست است هست همچنان ... پسندیده گفتی تو ای کامران

تاریخ دویم ایضاً من طبعزاد سرور صاحب موصوف پسر وزیر صاحب نظام الدوله

بشد از جهان آن بشر نامور ... بسیرت ملک بود صورت بشر
ضیابخش دلهای تاریک بود ... بشبهای یلدا چو نور قمر
بعصرش مثالش ندیده کسی ... نه در کوه و دشت و نه در بحر و بر
بسا رتبه و جاه دادش اله ... مگر رو نکرد او بشغل دگر
همه عمر در صوم بود و صلوات ... بشاهی و دولت نبودش نظر
نه جیش و نه ملک و نه سامان حرب ... مگر صولتش بود چون شیر نر
بسا بادشاهان بافر و جاه ... بیفتاده اند پیش تیغش سپر
ز دنیا بکوی قناعت نمود ... نمیخواست ابود فی شور و شر
همه روز و شب خلق جاری بدند ... اگرش راه پرخوف بود و خطر
بهر کس چنان مهربان بود او ... که از خدمتش کس نکردی حذر
بصدها بندی در آنجا مقیم ... بیامد بهر روز صدها دگر
که ملجا و ماوای شاه و گدا ... بد آن رشک حاتم بدان خوش گهر
همه عالمان و همه فاضلان ... به مثل یتیمان شدند بی پدر
بتدبیر و سنجا مثل و ثانی نداشت ... بنزدش چه خاک و چه خزدار زر
ز نیک دشمن دین که پرخوف بود ... به بردند او را بدار السقر

پس آنگه بفارغ دلی رو نهاد — بدهلیز و آستان خیر البشر
چو شد نام نامیش عبد الغفور — بغفران پناهی بر آورد سر
محرم بد و هشتم شنبه بنیر — که راهی شد و سوی رب البشر
زمستان و اشراق بود ان زمان — صحیح و درست است هم معتبر
ز اطراف پشاورش صوات دان — که هم بود هم هست او را مقر
همانجا بشد مرقد پاک او — که کردی وضو شام گاه و سحر
همه شکر یزدان بجا آورید — که هر جاش بنشست چون گل پسر
خداوند عالم برومند ساز — که از اصل پاکست نیکو شجر
برای مریدان صاحب یقین — بده این شجر را تو شیرین ثمر
بگفتم دو و سه چار فرد درست — که هم راست هستند و هم مختصر
بپرسیدم از سالک راه دین — که از سال نقلش چه داری خبر
بگفتا فدای پیمبر بد او — تو اعداد ببینبر ما شمر ۱۲۹۵
بر آید هزار و دو بیست و نود — علاوه دگر پنج اے پرهنر
اسد واقفی وصف آن پیر کرد — که شیخ اجل بد چو روشن نیر

و این است سلسله منظوم من طبعزاد عالم فاضل سید قاضی حاجی طلا محمد غفره الله الصمد

بسم الله الرحمن الرحیم

یارب بجلال و جمال خود بر بنده زار حزین مددی — وز بحر عطا و نوال خود بر تشنه ما معین مددی
دل در شغف دنیا طلبی الله الله زین بی ادبی — وین نفس غوی در بو العجبی یا مالک یوم الدین مددی
روزانه ز تفرقه افسرده در خواب بشبها چون مرده — این بنده بهرزه بسر برده یا بار خدای معین مددی
در کنه تو وهم و خرد گمره سبحان الله سبحان الله — حالم ز گنه گردید تبه یارب تو برین غمگین مددی

ای مفخر کل وی شاه رسل ظاهر ز تو شد این جمله سبل — از نور تو شد پیدا اشیاء کل ای مهبط روح الامین مددی
ای واسطه فیض ازلی در جمله جهان خود بی مثلی — وز حضرت اقدس لم یزلی طاها لقب و یاسین مددی
لولاک طرازی بر تاجت برتر ز فلک شد معراجت — توحید الهی منهاجت از لطف برین مسکین مددی
ای صفدر دین وی شاه علی آثار کرامات تو جلی — مولا و مطاع کل ولی ای صاحب تاج و نگین مددی
بر اوج خلافت تو شاهی در ملک سعادت خود شاهی — الحق بیقین اسد اللهی در معرکه شیر عرین مددی
ای آنکه وحید اندر عصری در علم و معارف لاحصری — شیخ کامل حسن بصری ای قدوه اهل یقین مددی
ای صدر نشین مقام کرم وی محرم محفل فیض اتم — سلطان جهان و حبیب عجم ای جالس علیین مددی
ای آئینه انوار نبی از جمله جهان خوش منتجبی — داود مهین طائی نسبی ای مفخر اهل زمین مددی
ای قدوه دوده عز و کرم مکنون ضمیرت بحر کرم — معروف ز کرخ و ملاذ امم ای ناصر دین متین مددی
ای آنکه بری از هر غلطی در علم و عمل زیبا منطی — سلطان جهان سری سقطی بر زمره معتقدین مددی
ای شیخ جنید مفیض کرم سالار جهان و امام امم — بغداد ز تو شد رشک ارم ای سرور عرش نشین مددی
بوبکر مهین سامی رتبا در اهل صفا شبلی لقبا — عالی نسبا والا حسبا خورشید سپهر یقین مددی
ای بر شرفت عالم شاهد کس نیست بتو هرگز جاحد — مخدوم جهان عبد الواحد ای سرور صدر گزین مددی
ای یوسف مصر جمال و بها وی واقف ذروه عز و علا — طرطوس ز تو شد نور افزا ای سرور اهل یقین مددی
اکسیر شرف خاک قدمت عالم همگی غرق نعمت — ای بو الحسن از لطف و کرمت بر جانب ملتمسین مددی
خورشید هدی مقبول خدا ای جالس صفه صدق و صفا — مخدوم جهان مخزومی ما ای ماسک حبل متین مددی
ای از تو کراماتها صادر در جمله جهان شهرت نادر — اعنی سید عبد القادر یا شیخ محی الدین مددی
ایدل هرگز تو بهرزه مپو سلطان جهان شهد و لاجم — انگه بضر اعتها میگو کای ساکن خلد برین مددی
بر من نبود دیگر هنری از صدق و صفا هرگز اثری — ای شاه منور کن نظری وی مونس کروبین مددی
تاکی ز الم زینسان حالم تا کی ز خطر شبها نالم — ای فخر جهان شاه عالم بر خسته زار غمین مددی
از فرط حیا کان ادبی وز عز و شرف عالی نسبی — در اهل صفا احمد لقبی بر عرش امین و مکین مددی

ای شیخ جنید مجسته لقا دارم زجنابت چشم سخا — یکره زکمال نوال وعطا برجانب اهو فقین مددی
ای شیخ صدیق جهان سرور ونصدق وصفا مشهور سیم — هستیم کنون درخوف وخطرای سرور صدیقین مددی
ای شیخ محمد او قائم آشفته شده ازغم ماتم — گشته تیه خطیاتم ای حافظ نور مبین مددی
ای شیخ شعیب ولی اجل ای آئینه اسرار ازل — درخاطر من صد ریخ وخلل ای مرشد شیخ وهیین مددی
ای عبد غفور خجسته نشان فایض بتو شد انجمله جهان — صاات ازقدم تو نظیر جنان برحال طلائی حزین مددی

قسم دویم

بسم الله الرحمن الرحیم

بحر عشق زورق رانده ام از همت والا — بیا ای شرط بسم الله مجریها و مرسیها
بفضل الله درین زورق بیانم از خطر ایمن — چه باک از موج چون شد نوح کشتیبان این دریا
خداوند ابمقبولان درگاه جلال خود که — که لاخوف علیهم کرده درحق شان انها
بجاه احمد امجد رسول ابیض و اسود — جلیس قاب قوسین افتخار صدر ما اوحی
بتوصیف جالش والضحی خوش آیتی روشن — بتعریف سواد موی او واللیل اذا یغشی
وفی ادنی بمقام او زاو حسینا پیام او — تدلی احتشام او دلیل قدر ش ارسلنا
بقدر حیدر صفدر محشر ساقی کوثر — بقوت قالع خیبر بجاک دین شر والا
قمین مسند شاهی سر دست ید اللهی — بذات مصطفی از مهر چون هارون من موسی
بزهد عارف بصری حسن آن مفخر دوران — که دارد از علی مرتضی خوش حصه او فی
بسوز عارف سامی حبیب ان مرشد جامی — عجم از نام او نامی عرب بریاد او شیدا
بروح شیخ داؤد آنکه اندر عالم از وی شد — اساس علم و دین محکم بنای شرع پا برجا
برا ز شیخ دین معروف کرخی عارف کامل — که دریاد حق از هردو جهانش بود استغنا

بسرّ سری سقطی امام کشور ایقان — وحید عصر خویش از فرط علم و دانش و تقوا

بزہد شیخ بغدادی جنید آن افضل دوران — امام مشرق و مغرب امیر دینی و عقبی

بہمین شیخ ابوبکر آنکہ شبلی شد لقب اورا — ہدایت طرز منوالش بحکم جاہدوا فینا

بحق شیخ عبدالواحد آن خورشید نور افشان — بصدق یوسف طرطوسی آن بہر فلک پیما

بشوق بوالحسن آن آفتاب اوج لاہوتی — بذوق بوسعید آن مقتدائے اکرم و اتقا

طفیل شیخ عبدالقادر جیلی کہ در عالم — کراماتش بود خارج ز کثرت از حد احصا

بہر نادی کہ نام نامی او در بیان آید — زبان و عقل و دل گوید تقدس سرہ الاعلی

بعز شیخ سید احمد گستان کہ در وصفش — قلم عاجز شود ماند زبان صاحب املا

بجہد شیخ سید احمد آن شاہ سریر دین — بجہد شیخ عبداللہ آن ماہ جہان آرا

بشوق قدوۂ اہل یقین و افضل دوران — مہ برج شرف سید جلال الدین والدنیا

بحکم آن بہاء الدین کہ عالم روشن از وی شد — بشیخ متقی سید جلال آن مرشد والا

بروح شیخ یاسین آنکہ از تسطیر نام او — مداد خامہ فایق میشود بر عنبر سارا

بعشق سید مستان بصدق شیخ زین الدین — بحق عبدالرزاق آن جلیس نادی اعلی

بذکر آن غیاث الدین بفکر شیخ خیر اللہ — بمہر حاجی سید امام و مرشد و مولا

براز شیخ دین معصوم کز فر قدوم او — پشاور رشد منور چون بہار جنت الماوا

بزہد آن جنید ذوالعلا کز ہمت عالی — فشاندہ دست رو یکسر برین دنیا و ما فیہا

بصدق شیخ صدیق آنکہ باشد معدن ایقان — بمجد و مہ جہان حافظ محمد نا بد یکتا

باآن پیر طریقت شیخ والا منقبت اعنی — شعیب ذوالکرم کز فیض دریائیست گوہر زا

طفیل شیخ ما عبدالغفور آن کز علو شان — کمالاتش ز کثرت عقل نتوان کرد استقصا

الٰہی از طفیل خاصہ گان حضرت عزت — کہ از لطف و عنایت مرطلا را رحمتی فردا

باسید کرم اینک بدرگاہ آمدم یا رب — بکرم ربنا فاغفر لنا یا رب و ارحمنا

قسم — بسم اللہ الرحمن الرحیم — سیوم

دگر بذکر اکابر دین سخن رسانم بر اوج و آلا
سواد این نظم بار ثالث نمودہ کلک نہی مرتب
ہیمنا تما دراکریا بجاہ خیر البشر محمد
قحین دیہیم بادشاہی جلیس اورنگ دین پناہی
شفیع است نبی رحمت کہ بی رضایش ملک عالم
اگر طبیعت نمایہ گیرد زفیض انعام او نخیزد
سفیض خیر و عطا نگردد اگر وجود کرم نشانش
بحق حیدر امیر شکر جلیس کوثر بر دور محشر کہ
سخا سجایای سیرت او کرم شعار سریرت او
بحق سلطان ملک و کشور حسن کہ عالم از وست انور
بعزت آن حبیب کامل ولی مشہور در فضائل
بصدق آن عارف خدائی ستودہ داود شیخ طائی
بحضرت پیر کرخ و عارف کہ اوست معروف در معارف
بحرمت بوالحسن کہ سری شدہ است نام مبارک او
بحرمت آن جنید سامی سمر بعالم بخوش کلامی
بحسن اخلاق شیخ شبلی سحاب جودہ محیط ایقان
بعزت بوالفرح کہ گیتی ز نور زہدش بود منور
بحرمت بوسعید امجد امین اسرار بزم احمد
بنور باہر شمس ظاہر سپہر افضال عبد قادر

وابتغی العون من کریم بعزۃ المجید قد تعالی
اذا ثنی فقد تثلث مثل شنیدم ز پیر دانا
کہ شد طفیل وجود ذاتش ظہور آدم بروز حوا
کہ دادہ بر فضل او گواہی طراز یاسین و نقش طاہا
جہان نہ بیند فروغ لمعی فلک نہ بندد طراز خضرا
ثمر ز قضبان گل گلستان ز ساز معادن گہر ز دریا
غمام گردد مطیر باران زمین نروید گلا و خضرا
بنرم سرور بزم صفدر امام رہبر امین اتقا
کہ کرم اللہ وجہہ شد بحق او از پیمبر انہا
بفرق صدق وسداد منبر بفضل و حلم و کمال یکتا
بحلم توصیف اوست شاغل عرب بتعریف اوست شیدا
سمر بدوران بپہنای جلیل و اعلی بقدر راسی
بری ز دنیا روا ز زخارف فدا شدہ در رضای مولا
بسر و اطوار شرع عارف بجلوہ اسرار عشق دانا
بجان گرامی بنام نامی بعلم خورشید عالم آرا
بصدق اخلاص عبد واحد سپہر عرفان میان دنیا
بقدرت بوالحسن کہ ذاتش بود ز توصیف عقل بالا
کہ اصل عز و سعادت آمد بذات فیاض او تولا
بزہد باہر باصل طاہر امین اسرار حق تعالی

بحق

بحسن یوسف بدست موسی بعلم خضر و بحلم عیسی
بحق نگویم ولی است ما صفات هر دو در وست پیدا

بحرمت پور شیخ اکبر که عبد رزاق نام او شد
سپهر رفعت سحاب رحمت محیط علم و بفیض اعطا

بعزت آن شرف که آمد دلیل عز و شرف کمالش
بحرمت آن بهای نامی کز وست روشن جهان معنی

بشوق سید عقیل ذیشان بذوق آن شمس چرخ عرفان
بعشق سید گدای رحمان به بو الحسن مرشد دل آرا

بنور آن شمس ذو المعارف بسر سید کمال عارف
بحرمت آن فضیل کامد دلیل سید کمال والا

بعزت و مجد شه سکندر که او بملک صفا است سرور
مؤید علم و دین اطهر مروج زهد و شرع و تقوی

بجاه گردون کامرانی بسر ور کشور معانی
مجدد دین بالف ثانی انیس بزم رفیق اعلی

بحرمت شیخ سید آدم امام ابدال و فخر عالم
بعزت آن حبیب اکرم بشیخ شه باز راحت افزا

بشیخ مومن ولی کامل بشیخ صدیق ذو الفضایل
بان محمد که گشت حاصل ورا و ولایت بحظ اوفی

بان شعیبی که کشور دین بنور زهدش منور آمد
ولی کامل آمین فاضل مه منور شرر معلا

بصاحب صات ذو المکارم سحاب رافت بفیض رحمت
که قدس الله سره شد ز کلک قدرت بنامش املا

طلای محزون زرنج بجد بود زمین غموم بعید
بزرگ باری خدای امجد بحال زارم کرم تو فرما

من وگدائی بارگاهت فانت حسبی وانت ربی
بغیر ذات کرم سماتت مرا نه ملجا مرا نه ماوا

درین پنجی سر لبی دوران امید بیم زتست یارب
فان رجونا فمنک نرجوا وان خشینا فمنک نخشی

قسم چهارم

بسم الله الرحمن الرحيم

نخستین میکنم آغاز از تحمید سبحانی
ز بسم الله الرحمن الرحیم این نظم نورانی

خدائی کز تقدس در خیال کنه ذات او
نه بندد طرف عقل نکته دان جز هرزه گردانی

شهنشاهی که پیرامون درگاه جلال او
سلاطین را زخاک سجده باشد فیشانی

ز کنهش وهم بستر مانده در مطمور خجلت
بوصفش عقل بالین کرده از زانوی نادانی

بعالی حضرت او کش ملک هم ره نمی یابد
بود ام محال آنجا مجال عقل انسانی

زورگاهش خرومایوس و محزون از برون در برجع قهقری آمد دل افکار از پشیمانی
دلا مانند طفلان چند گاهی خاک و گاهی گل سر بازیچه تا کی اندرین لعبتگه فانی
دل از تعلیم استاد ازل معمور کن تا کی دل آسایت مویز و نقل چون طفل دبستانی
ز رشته وار از قید تعلق شو بری تا کی چو بختی در زمام قهر از مستی و حیوانی
فیوض عالم بالا مهیا بهر اثبارت تو در بیت الخلا آلوده اقذار نفسانی
خرد را خادم دنیا مکن زیرا که خوش نبود پر طاوس جنت ساختن صرف مگس رانی
مبیر از مرکب رهوار این وادی بگرد دلی که این ره سنگلاخست و نیاید کار پالانی
بجان خویشتن بی مهر و از سوز زیان فارغ سرا پا در دو در اعضا چرا غافل ز درمانی
اگر قربان کنی جان را برای قربت مولا ترا بهر مبارک باد آید عید قربانی
بدامان بزرگان دست زن گر دسترس داری که آمد فابتغوا الیه الوسیله حکم قرآنی
و رین قحط الرجال از کید مکاران مشو ایمن گزین پیران لایعنی شوی آخر تو نیرانی
بسیرت حنظل و زهر و زقوم و خنجر بران بصورت سبحه و سجاده و محراب و پیشانی
مهذب کرده ظاهر از عصا و شمله و خرقه نهان زیر مرقع کارگاه مکر شیطانی
ضراعت را ز خود مگسل سعادت گر همی خواهی مشو ایمن ز کید نفس اگر جویای ایمانی
اگر عرفان همی خواهی بشیخ ما توسل جو که فیض یک نظر بخشد ترا ملک سلیمانی
تعلم گر کنی یک لمحه در بزم کمال او رموز معرفت یکسر بهد و همزه برخوانی
صفا منهاج رای او دو عالم در ثنای او بود آن خاک پای او به از کحل صفاهانی
سپهر معرفت عبد الغفور آن کز علو شان بدار الملک جان او راسزد صدر جهانبانی
بکنون ضمیر او نهان سر خداوندی ز سیمای جبین او درخشان نور یزدانی
نگوی فضل در نادی ارباب علم و دین صفا و مروه مردان اگر درگاه او دانی
نسیم روضه رضوان بصدقت شاهدی باشد حریم مجلس او را اگر باغ ارم خوانی

برای زینت فردوس رضوان دسته بربندد — بهار حسن تقریرش نماید چون گل افشانی
زنور صحبتش در کلبهٔ جان شمع تابان نه — بجائی گر نخواهی زخاطرهای ظلمانی
کنون سازم رقم اسمای شیخانش گرایزد — طفیل شان سعادت مرمرا فرماید ارزانی
بحمد الله کزین نظم چهارم کرسی نسبت — بچار ارکان مرتب گشت چون اورنگ قاآنی
خداوندا بسلطان رسل خیر البشر احمد — شفیع روز محشر مهبط آیات فرقانی
جلیس مجلس اعلی انیس بزم ما اوحی — رئیس یثرب و بطحا رسول انسی و جانی
بحق شاه مردان حیدر صفدر کز عزت — بخیل اولیا او را رسد دعوای سلطانی
بحق آن حسن کز حسن اخلاقش معطر شد — بسان روضهٔ رضوان فضای بزم روحانی
بذوق و شوق سلطان عجم آن سرو عالم — حبیب اہل معنی واقف اسرار پنہانی
بحق شیخ دین داؤد طائی افضل دوران — ظہیر دین و سالار طریقت قطب ربانی
بحق شیخ دین معروف کرخی عابد زاہد — بحق عارف سری لقب مفخر مسلمانی
بحق آن جنید ذوالکرم کوشد ز علم و دین — رموز عشق را کاشف بنای زہد را بانی
بحق شیخ شبلی کش فلک گوید جزاک الله — بحق عبد واحد کش ملک سازد ثنا خوانی
بزہد یوسف طرطوسی آن خورشید نور افشان — بصورت یوسف ثانی بمعنی پیر کنعانی
بعلم بو الحسن آن قدوهٔ اعصار در عرفان — بحلم بوسعید آن مخزن اسرار ربانی که
بحق سید السادات غوث عصر قطب دین — معین بیکسان اعنی محی الدین جیلانی
مغیثی آن که از فرط کرامت کشتی غرقه — پس از عمری رساند بر کنار از بحر طوفانی
بحق عبد الرزاق آن نهال دوحهٔ رافت — بشیخ دین شرف در جود و احسان ابر نیسانی
بآن سید بہاء الدین مہ تابان علیین — که باشد خدمت خاک درش بهتر ز سلطانی
بآن سید عقیل ذو العلا آن مفخر عالم — که دارد عقل و هنر کمالش آفرین خوانی
بسید شمس دین آن مشرق انوار لاہوتی — بآن سید گدا آن مظهر الطاف رحمانی

بخواجہ بو الحسن سلطان تسلیم و دل و آتش ۔۔۔ بنور شمس عارف فانی اندر عشق حقانی
بشمس الدین و ہم خواجہ فضیل شہ کمال الدین ۔۔۔ بحق شہ سکندر در معارف شیخ لاثانی
بحق آن مجدد کو نمودہ از سر ہمت ۔۔۔ بدور الف ثانی دین احمد را نگہبانی
بحق آدم عالی نسب کز جمیع صدیقان ۔۔۔ چو او در رتبۂ معنی کسی نکردہ گرم جولانی
بآن والا حسب اعنی بہا در مرشد کامل ۔۔۔ کہ مشکلہا ز نام نامی او گیرد آسانی
بصدق شیخ مامون آنکہ اندر نسبت پاکش ۔۔۔ مرا مامون نما یا رب ز تسویلات نفسانی
بزہد فضل دوران نعیم ذو العطا کز وی ۔۔۔ مروج گشت رسم زہد و آئین خدا دانی
باخلاص محمد شاہ کز فیض نوال او ۔۔۔ دل طالب تفاخر میکند بر گنج شایانی
بصدق صادق و صدوق اعنی شاہ صدیقان ۔۔۔ کہ کردہ نام او بر نامہ ارشاد عنوانی
باخلاق محمد آنکہ اندر راہ عشق آمد ۔۔۔ ہدایت بخش از رہ رفتگان تیہ حیرانی
بشیخ دین شعیب ذو الکرم دریار گوہر زا ۔۔۔ کہ دارد جملش از فرط تبحر وصف عمانی
بقطب عصر و غوث دہر کاندر طاعت مولا ۔۔۔ بود باقی بذات ایزدی و ز خویشتن فانی
امام المسلمین عبد الغفور آن آفتاب دین ۔۔۔ رئیس کشور عرفان و خاص الخاص یزدانی
ببزم او اگر مقری شود حاضر بلا کلفت ۔۔۔ عیان بیند ز سیمای جبینش نور ایمانی
برسم غالیہ حوریان نکہت ہمی جوید ۔۔۔ چو خلق اکرم او عام سازد عطر ریحانی
خداوندا بآن نام طلا بخشا ز فضل خود ۔۔۔ کہ ریحانی و دیانی و حنانی و منانی
بحق آل احمد بخش برحال جوان مردی ۔۔۔ کہ کردہ خامہ من بہر او این گوہر افشانی

پس میگویم من بدانکہ این جملہ علماء و فضلاء و صد و یک نفر اند رحمہم اللہ علیہم اجمعین اکثر ایشان اکابر قطار و عمدہ امصار و در میان ایشان اولیاء عظام و علماء فخام محدثین مورخین متفقہین کرام متفق الکلمہ اند و مطابق و موافق اند بر شرافت و نسب شریف جیلی رضی اللہ عنہ و نیست در میان ایشان خلاف و اقوال ضعیف و بعضی از ایشان قبول کردہ اند از دفاتر عتیق در نسب ایشان و بعضی از ایشان استفادہ کردہ اند

بقو

بتواتر کہ نسب شریف سیادت ایشان ثابت و متحقق است و خلاف و کذب نیست در آن و بعضی از ایشان بہ کشف اخذ کردہ اند کہ ظاہر و باہر است نسب شریف غوث رضی اللہ عنہ و مولانا علی القاری رحمہ اللہ الباری در نزہۃ الخاطر آوردہ است کہ اجماع شدہ است برین کہ حضرت سردار ما شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سید است شریف است از طرفین از ابوین و امامین شریفین امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما از ابتدا الی انتہا و بتواتر و تصحیح ظاہر است مانند آفتاب نصف النہار و کسی شک ندارد و نہ نزاع و نہ تاویل و نہ دفاع چنانچہ واقع شدہ است اجماع و این رغم است از برای مبتدعین روافض و اہل زیغ و نفاق اللہ تعالیٰ نگہدارد بحرمۃ النبی علیہ السلام از مکر حاسدان گمراہان و گمراہ کنندہ گان کہ حسد دارند و ما یان امیدوار از رحمت پروردگار میباشیم کہ ارحم الراحمین است پس نیست حاجت بہ برہان و دلیل کہ قایم کنیم بر نسب شریف واضح است و روشن است و مشہور است در ہر اوطان و نیز باید دانست کہ آداب و حقوق اہل بیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیز بسیار اند صاحب تنبیہ الضالین میفرماید خاتم المجتہدین ابن حجر مکی در کتاب حسن التوسل نوشتہ است کہ یَجِبُ احترامُ الشریفِ والرعایۃ لو صف القرابَۃِ الذی لا یسلب عنہ بما یُری بہٖ من الابتداع و الرفضِ بل یجب معہ ان یتحاشا عن سَبِّہٖ و نَحْوِہٖ لِاَنَّ اَلْوَلَدَ العَاقَّ لا یمنعہ العقوق من الارث والانتساب والظن الجمیل فی نحو الصدیق والفاروق یعفو عمن وقع فیہ عن اقارب احبابہ فعلیک بحسن الظن مع الشفاعۃ المحمدیۃ اصالۃ لذوی الجنایات من اہل البیت اذ ہم المذہوب عنہم الرجس و المطہرون تطہیرا بالنص القرآنی حتی فہم بعض الاکابر من الآیۃ ان احدہم لا یخرج من دار الدنیا حتی یطہر من الدنس المعنوی بمرض و نحوہ و لو قبیل موتہ و ازیدک ان بعض الاکابر قال اذا وجب علی احد منہم حد شرعی اقمناہ علیہ علی سبیل ان العبد یطہر رجل سیدہ من قذر حل بہا و شیخ فرید الدین عطار در تذکرۃ الاولیا میفرماید کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یکبار درمیان درس دہ بار برخاست و بنشست گفتند چہ حال است گفت علوی زادہ بر در بازی میکند گوئی و چوگان میباز و ہر بار کہ در

برابر من می آید حرمت او را می خیزم که روا نبود فرزند رسول علیه السلام بیاید و من برنخیزم انتہیٰ و امام شعرانی در بحر المورود می طراز د لا ینبغی لنا ان نتزوج شریفة الا ان کنا نعد انفسنا من خدامها لان الشریفة بضعة من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتہیٰ و شیخ الہند در اخبار الاخیار از شیخ امان پانی پتی نقل میکند که علامت کمال محبت آن است که از محبوب بمتعلقان او تجاوز کند پس علامت کمال محبت حق آن باشد که محبت او متابعت پیغمبر کند و علامت محبت پیغمبر آنکه محبت اہل بیت او سرایت کند نقل است که اگر در وقت درس آواز طفلان سادات بازی کنان میشنید و آن کوچه میر سید ندا و کتاب در دست بگرفتی و بایستادی و مادام که ایشان استاده بودندی او را مجال نشستن نبودی انتہیٰ و نیز شیخ الہند در وی بقلم می آرد که قاضی شہاب الدین رساله دارد مسمی بمناقب السادات در آنجا داد عقیدت و محبت بہ اہل بیت نبوت سلام الله علیهم اجمعین داده سرمایہ سعادت و موجب نجات وی در آخرت آن خواهد بود انشاء الله تعالی باعث تصنیف آن رساله را چنان گویند که در زمان او سیدی بود که او را سید اجمل گفتند از اکابر وقت بود و لیکن جمال نسبتش از حلیۂ علم و فضل عاطل بود و غالبًا قاضی را با وی در بعضی محافل ملوک در تقدیم و تاخیر مجلس نزاعی شده بود و در اول قایل شد با فضلیت عالم و تقدیم او بر علوی عامی بعد از ان بتسویۂ عالم غیر علوی با علوی غیر عالم و درین باب رساله نوشت و گفت که عالمیت ما مشخص و متیقن است و علویت شما مشکوک پس ما را تقدیم و ترجیح بر شما ثابت شد استاد قاضی شہاب الدین این معنی از وی ناخوش آمد و مزاج حالش از وی منحرف گشت قاضی ازین معنی برگشت و در مناقب سادات و افضلیتِ ایشان رساله نوشت و از آنچه گذشته بود اعتذار نمود و بعضی گویند که حضرت سرور کائنات را علیہ افضل الصلوات و اکمل التحیات بخواب دید که او را از ین معنی تنبیه میفرماید و برای استرضاء سید اجمل مذکور تحریص مینماید قاضی پیش سید رفت و توبه کرد و رساله نوشت انتہیٰ این حال نفسِ سیادت و عوام سادات است پس حالِ مکمّلِ سادات چه خواهد بود مقتدایانِ جهان اند و جمهور سلاسل راجع بایشان مولانا دہلوی در ہمعات بیان

نسبت او بسیہ می نگارد و بر سر الٰہی کہ درین عالم ظاہر میشود لا محال او را تنہی وصوری خاص ہست ازین عالم کہ بوے سعیون میگردد و باین اعتبار توجہ عالم غیب وہیکل این برزہ مثالیہ حضرت پیغمبر اند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وازامت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول کسیکہ فاتح باب جذب شدہ ہست ودر انجا قدم نہادہ ہست حضرت امیر المومنین علی اند کرم اللہ وجہہ ولہذا سلاسل طرق بدان جناب راجع میشوند ودر حقیقت سلاسل اولیا بسوی ایشان ثابت انتہی ومولانا عبد الرحمٰن جامی در سلسلۃ الذہب آوردہ معنی انما یرید اللہ

معنی انما یرید اللہ	این بود نزد عارف آگاہ
کہ خدا از لوث رجس فساد	ہست تطہیر اہل بیت مراد
نیست پوشیدہ بر ذوی الافہام	کہ بود رجس بدترین آثام
چون بود رجس زلت وعصیان	نیست تطہیر آن بجز غفران
پس ہمہ اہل بیت مغفور اند	وز عقوبات آخرت دور اند
از گنہ چون بری ست ذمہ شان	نتوان بہر آن مذمت شان
از معاصی مدار شان معصوم	وز ذمایم مساز شان مذموم

اور مولانا شاہ عبد العزیز محدث قدس سرہ کی تفسیر میں بھی مفصل مرقوم ہو دیکھ لیو اور ابن حجر کی صواعق مین یہ حدیث شریف لکھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یعرف حق عترتی فالاحدی ثلث اما منافق واما ولد زنیۃ واما حملتہ امہ من غیر طہر یعنے فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کہ میری آل کا حق نہ پہچانا سو ان تین وجہون سے ایک وجہ ہوگا یا وہ منافق ہو یا ولد الزنا ہے یا اوسکی مان کو حیض کے وقت حمل رہا ہو انتہی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث شریف روایت کئے ہین کہ من ابغض اہل البیت فہو منافق یعنے جو شخص کہ بغض رکھا اہل بیت سے پس وہ منافق ہو اور دیلمی یہ حدیث شریف روایت کئے ہین کہ اشتد غضب اللہ علی من اذانی فی عترتی یعنے سخت ہوا غضب اللہ کا اوس شخص پر جو ایذا دیا مجھے بسبب عترت میری انتہی کذا فی فصل الخطاب تصنیف سید محی الدین شاہ ویلوری

باب پہلا در بیان نسب شریف وسیادت حضرت غوث الثقلین قطب المحققین

صحیح النسبین کریم الطرفین محبوب سبحانی غوث صمدانی قطب ربانی عارف حقانی قندیل نورانی غوث اعظم و قطب اکرم شیخ شیوخ عالم سید السادات غوث الارض و السموات شیخ الاسلام والمسلمین حضرت الشیخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر الحسنی الحسینی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا

نسب سیادت شریف صحیح اور متحقق ہو اور ثابت ہو بروایات ثقات معتبرات علمای مجتہدین کاملین محدثین مورخین و اولیا و عارفین سے اور صاحبان تصانیف ان سب بزرگوار ان صاحبان کتب عربی فارسی ہندی دو سو ایک کتاب سے تحریر کیا ہون مع عبارات اصل کتابون کے تحقیق عمیق و تدقیق سے ثابت ہو نسب و سیادت شریف حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کسی علمای اہل سنت وجماعت نے خلاف اور انکار نہین کیا ہو اور نکریگا مگر رافضی یا بدعتی یا جاہل یا معاند یا دشمن یا سفیہ بے عقل و نادان یا اہل زیغ جسکے دل مین عناد اور کدورت ہو اور اعتبار نکرنا چاہیے کہنا اہل زیغ و روافض و مبتدع و معاند و سفیہ کا کہ گمراہ ہین اور گمراہ کرنیوالے ہین اور نسب شریف غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مانند آفتاب نصف النہار ہے بلا شک و شبہ سادات اصل طیب طاہر سے ہین شک اور شبہ نہین ہو اور اجماع ہوئی ہو اسپر کہ سادات ہین اور حد تواتر کو پہنچا ہو نسب شریف کہ نسل اور صلب سادات سے ہین جانب پدر اولاد امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے ہین اور جانب مادر اولاد شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہین اور روایات و عبارات کتب کا ترجمہ بحسب مسطور الذیل ہو نظر انصاف سے ملاحظہ فرمانا اور تحقیق عمیق سے دیکھنا تاکہ ثواب پاوین اور حصول نعمت عقلی کرین اور نظر فاسد کو ترک کرنا اور متعصب نہونا اور تفصیل کتابین عربی و فارسی و ہندی کی یہ ہو۔ اوّل کہا عالم علامہ حبر فہامہ شیخ الاسلام زین الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن شہاب الدین احمد بن رجب حنبلی بغدادی دمشقی رحمہ اللہ نے اپنے طبقات مین کہ وہ صحبت دار امام احمد حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ کا ہو نزدیک ترجمہ سردار اولیا اور امام اصفیا ابو محمد محی الدین سید عبد القادر حسنی حسینی جیلانی رضی اللہ عنہ بیٹے سید ابی صالح موسی جنگی دوست کے وہ بیٹے سید عبد اللہ جیلی بغدادی زاہد شیخ عصر و قدوۃ العارفین اور سلطان مشایخ کا اور سردار اہل طریقہ کا اپنے زمانہ مین محی الدین ابو محمد صاحب مقامات و کرامات اور معارف و احوال انکا مشہور ہو اور متصل

ہے نسب شریف غوث رضی اللہ عنہ کا تا جناب امیر المومنین سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو ملتا ہے اور پیچھے زیادہ ہوا سید عبد اللہ بیٹے سید یحییٰ زاہد بیٹے سید محمد بیٹے سید داؤد بیٹے سید موسیٰ بیٹے سید عبد اللہ بیٹے سید موسیٰ الجون بیٹے سید عبد اللہ محض بیٹے سید حسن مثنیٰ بیٹے امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبیٰ بیٹے امیر المومنین سیدنا علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہم کے اور تولد ہوئے سنہ چہار سو ستر میں یا سنہ چہار سو اکہتر گیلان میں دوم کہا فقیہ النبیہ علامہ امام اکمل ابو عبد اللہ سید حسن بن عبد الرحمٰن اہدل حسینی یمنی شافعی نے اپنی تاریخ مختصر میں جو تالیف کیا ہے ۸۲۶ھ آٹھ سو چھبیس میں نزدیک ذکر حوادث ۵۶۱ھ وہ بیان ہو کہ جسمیں وفات پائی قطب اولیا محی الدین سید عبد القادر ابن سید ابی صالح موسیٰ ابن سید عبد اللہ ابن سید یحییٰ زاہد ابن سید محمد ابن سید داؤد وابن سید موسیٰ بن سید عبد اللہ بن سید موسیٰ الجون بن سید عبد اللہ المحض بن سید حسن المثنیٰ بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی بن ابیطالب قدس اللہ روحہ وارواحہم اور نسبت کیگئی ہو ساتھ جیل کے وہ شہریں ہیں متفرق سوائے طبرستان کے وہاں تولد ہوئے اور کہتے ہیں اوس شہر کو جیلان وگیلان اور وہ نواسہ ہو سید ابی عبد اللہ صومعی زاہد حسینی کا اور اجل یعنے بڑا مشایخ جیلان کا ہو اور احوال ولایت اونکا ظاہر رہا ہے سیوم تیسر کہا امام قدوہ زاہد پارسا عارف پہچاننے والا اللہ کا عفیف الدین ابو محمد بن اسعد بن سلیمان یافعی نے اپنی تاریخ مرآت الجنان میں قطب اولیا، الکرام شیخ الاسلام رکن الشریعۃ وعلم الحقیقۃ وواضح اسرار الحقیقۃ حامل رایۃ علماء المعارف والمفاخر شیخ الشیوخ وقدوۃ الاولیاء العارفین الاکابر استاد الوجود ابو محمد سید محی الدین عبد القادر بن سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست جیلی حسنی شریف قدس سرہ ونور ضریحہ انتہی چہارم کہا خاتم حفاظ ختم کرنیوالا یاد رکھنے والا محدثین صاحبان حدیث وارث میراث لینے والا جمیع علوم سلف صالحین کا معنی سلف کا یہ ہے کہ صاحبان قرون ثلثہ ہیں یعنے اصحاب تابعین وتبع تابعین معنی اصحاب کا یہ ہو صحبت یعنے مجلس شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے والا مشرف ہوا ہو ساتھ ایمان کے اور وفات پائی ہو ساتھ ایمان واعتقاد کے اور تابعین دیکھنے والا اصحاب کا اور تبع تابعین دیکھنے والا اوسکو کہتے ہیں کہ دیکھا دیکھنے والا اصحاب کو اونکا امام عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے طبقات کبریٰ میں کہ مسمی ہے بالکواکب الدریہ فی تراجم سادۃ الصوفیہ وہ نص ہے یعنے نسب شریف

اجماع حسنی ہونے پر

سید عبدالقادر بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ زاہد جیلانی حنبلی جو ذریت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ
ہیں وہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہیلا ہوا ہے ذکر حضرت غوث رضی اللہ عنہ کا آفاق میں یعنے تمام روئے
زمین میں اور اجماع کی ہے اہل خلاف و وفاق نے انکی امامت پر پنجم کہا شیخ محقق مدقق ابو عبداللہ محمد بن
احمد المسناوی الدلائی البکری الصدیقی الفاسی المغربی قدس سرہ نے اپنی کتاب نتیجۃ التحقیق فی بعض اہل الشرف
الوثیق میں ذکر کیا بعض حفاظ ثقات نے بدرستیکہ تہا سردار ہمارا سید شیخ المسلمین والاسلام شیخ مسلمین اور
مسلمانون کا ابی صالح محی الدین سید عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی الصدیقی البغدادی رضی اللہ عنہ انتہی
ششم کہا حافظ ابو سعید بن عبدالکریم بن محمد بن منصور السمعانی نے اپنی تاریخ میں ابو محمد سید عبدالقادر
من اہل جیلان کہ جناب ابو محمد سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ کہ رہنے والے جیلان کے ہین امام الحنابلۃ و شیخہم
امام شیخ ہین اہل مذہب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اور فقیہ ہین اپنے زمانہ کے نیک بخت ہین دین مین اور
نیکوکار ہین دین مین خیرات انکے یعنے کثیر ہو ذکرے اور دائم الفکر ہین سریع الدمعہ جلد رونے والے اور
آنسو جاری ہین اللہ کے خوف سے لکھے ہین اوصاف انکے او ہفتم کہا محب الدین محمد بن النجار نے اپنی تاریخ مین
سید عبدالقادر بن سید ابی صالح جنگی دوست الزاہد من اہل جیلان کہ جناب سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ جو رہنے
والے جیلان کے ہین اور امام مسلمین عاملین ساتھ اپنے علم کے صاحب کرامات ظاہرہ ہو ذکر کیا بدرستیکہ جب داخل
بغداد مین ہوئے ۴۸۸ھ چہارسو اٹھاسی مین تہی عمر شریف اٹھارہ برس کی پس پڑھا علم فقہ و احکام اصول
و فروع کو ساتھ خلاف کے اور سنی حدیث اور شغل کیا وعظ مین تاکہ ہو آئے پیچھے لازم کیا انقطاع کو اور ریاضت
اور سیاحت اور مشاہدہ دیکھنا سخت کو اور اٹھایا بارگران شاقہ کو داخل ہوا امور سخت خوفناک مین ملازمت
اپنے نفس سے اور لازم کیا اپنے پر شب بیداری کو اور بھوک کو اور مقام کیا جگہ خراب اور وحشت مین اور صحبت
کیا ساتھ شیخ حماد دباس زاہد کے اور اخذ کیا اونسے علم طریقہ پیچھے ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ظاہر کرنے
مخلوقات مین اور قبول کیا سب خلائق خاص و عام نے انتہی ہشتم آٹھوان کہا عالم علامہ صلاح الدین محمد
بن شاکر بن احمد الکتبی نے جو وفات پائی ۷۶۴ھ جز دوسری والی اپنی تاریخ فوات الوفیات مین ذیل تاریخ ابن
خلکان وہ ثابت ہے کہ سید عبدالقادر جیلانی بن سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست کا نسب شریف پہنچتا ہے

امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما تک اور شیخ ابو محمد جیلی حنبلی مشہور زاہد صاحب مقامات وکرامات کے اور
شیخ حنبلیون کے رحمہم اللہ تعالیٰ انتہی نہم نوان کہا استاذ امام علامہ زین الدین بن عمر الوردی جزء الثانی
اپنی تاریخ مین نزدیک ذکر حادث (۵۶۱ھ) اور اسمین ماہ ربیع الآخر مین وفات پائی شیخ سید عبد القادر
بن ابی صالح موسی الجیلی بغداد مین پیدا ہوئے سنہ ۴۷۱ھ چار سو ستر مین اور حنبلی مذہب مین کہا مینے کہ یہ
شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر بن ابی صالح موسی جنگی دوست بن ابی عبد اللہ بن یحیی الزاہد بن محمد
بن داؤد بن موسی بن عبد اللہ بن موسی الجون بن عبد اللہ المحض المجل بن الحسن المثنی بن الحسن بن علی بن
ابی طالب رضی اللہ عنہ سبط سید ابی عبد اللہ الصومعی الزاہد منسوب الی جیل انتہی دہم دسوان کہا عالم علامہ
جہر فہامہ حافظ زین الدین بن رجب فی طبقاتہ حافظ زین الدین بیٹے رجب نے اپنے طبقات مین سید
عبد القادر بن سید ابی صالح موسی جنگی بن ابی عبد اللہ جیلی ثم البغدادی زاہد شیخ عصر اور علامت صالحین
وقدوہ عارفین وسلطان مشائخ کا اور سردار اہل طریقہ کا محی الدین ابو محمد الی ان قال فی اثناء ترجمتہ کہا یہان
تک درمیان ترجمہ کے ظہر للناس ظاہر ہوئی خلق خدا کیواسطے اور حاصل ہوا انکو قبول تام مانا سب نے
اور مدد دیا پیرو سے کرنیوالے سنت شریف کو ساتھ ظاہر ہونے وجود شریف کے اور مخذول یعنے خجل ہوئے
اہل بدعت اور اہل ہوا یعنے خواہش نفس والے اور مشہور ہوا احوال واقوال وکرامات ومکاشفات حضرت
غوث رضی اللہ عنہ کا اور سب خلایق حاضر خدمت شریف ہوئے اطرافون کے واسطے فتوے لینے کے
اور ہیبہ کیا خلفا اور وزرا اور ملوک نے اور سوا انکے انتہی یازدہم گیارہوان کہا قطب ربانی ہیکل صمدانی
عارف باللہ عبد الوہاب شعرانی اپنے طبقات جو مسمی ہے بلواقح الانوار فی طبقات الاخیار مین ومنہم ابو صالح
سیدی عبد القادر الجیلی رضی اللہ عنہ وہو ابن موسی بن عبد اللہ بن یحیی زاہد بن محمد بن داؤد بن موسی
بن عبد اللہ بن موسی الجون بن عبد اللہ المحض بن الحسن المثنی بن الحسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ
عنہم اجمعین پیدا ہوئے تھے رضی اللہ عنہ سال سنہ ۴۷۱ھ چار سو ستر مین اور وفات ہوئی سنہ ۵۶۰ھ
پانچ سو ساٹھ مین اور مدفون ہوئے بغداد مین رضی اللہ عنہ انتہی دوازدہم بارہوان کہا عالم علامہ امام
عفیف الدین عبد اللہ بن اسعد الیافعی الیمنی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روض الریاحین میں فی

حکایات الصالحین میں حکایت کرتا ہو بدرستیکہ شیخ و امام و استاذ اکابرین جامع و رہبان علم باطن و ظاہر کے ہیں اور حسب اور نسب شریف میں فاخر میں سردار اور بزرگ سید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ روحہ و نور ضریحہ انتہی سیزدہم تیرہوان کہا عالم علامہ عزالدین احمد الفاسی اپنی کتاب نفحۃ المسکیۃ الرفاعیۃ بمالضہ وہ چیز ثابت ہو ذکر کیا نسب شریف سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور طعن کیا بعضون نے نسب شریف میں کہ ہمکو علم نہیں ہو پس مشہور رہوا کہ عجم میں اور صحیح ہونا نسب شریف کا کہا بشتیری نے اصل صحیح یہ ہو بدرستیکہ حضرت شیخ مرد فاطمی بلاشک و شبہ ہو اور شبہ نہیں ہو نسب میں کہ پہنچتا ہو جد اعظم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع اولیا نے ادب کیا دین میں انکو چہاردہم چودہوان کہا شیخ تقی الدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہجۃ الرفاعیۃ الکبری میں بدرستیکہ غوثیت اور ریاست مطلقہ اولیا میں نہیں ہوتا اپنے عصر میں مگر واحد اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام قطبیت سے معلوم ہوا کہ سادات حسنی حسینی ہیں انتہی پانزدہم پندرہوان کہا ابن ربیعۃ الاشرفی نے اپنے روضہ میں انتہی شانزدہم سولہوان کہا ابن عماد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شذرات الذہب میں کہ کرامات ان غوث قدس سرہ کے منقول ہیں متواتر بخلاف کرامات دوسرے اولیار کے کہ وہ منقول ہیں بطریق احاد کے اور اسقدر کافی ہو واسطے تنبیہ یعنی آگاہی کی اوپر جلالت اور عظمت قدر جناب قدس سرہ کی کہ دلیل لانیکی حاجت نہیں واسطے اسکے اصلا۔

شعر

ولیس یصح فی الاعیان شئ	اذا احتاج النہار الی دلیل

نہیں ہے صحیح اعیان میں کہ محتاج ہووے طرف دلیل کے باوجودیکہ حقیقت الامر غنی اور بے پرواہی تنبیہ اور آگاہ کر دیسے ہی جیسے کہ مخفی نہیں ہو پھر مرفوع کیا ہو آپکے نسب شریف کو یعنے پہنچتا ہو امام حسن رضی اللہ عنہ تک اسوجہ سے کہ کہا حضرت شیخ سید عبدالقادر ابن موسی ابی صالح ابن عبداللہ بن یحیی الزاہد بن محمد بن داؤد بن موسی ثانی بن عبداللہ صالح بن موسی الجون بن عبداللہ محض بن الحسن المثنی بن الحسن السبط بن سیدۃ فاطمہ رضی اللہ عنہا دختر جناب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین انتہی ہفدہم سترہوان کہا علامہ آلوسی سابق آگیا ہے ذکر انکا علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب طراز المذاہب شرح

قصیدۃ الباز الاشہب رضی اللہ عنہ میں جو تالیف بلیغ اور فصیح وعجیب عبدالباقی افندی عمری کی ہے نزدیک اس قول اونکے کے کہ

شعر

کم خواف من حضرۃ الباز لاحت	حین وافی ولا فوادم اجدل

بعد بیان کرنے اوسکے کہ جولازم اور ضرور تہی شرح خوافی اور حضرت اور بازکی مراد ساتھ باز کے حضرت مولانا غوث الصمدانی اور ہیکل ربانی شیخ سید عبدالقادر گیلانی قدس سرہ وعم نابرہ اور وہ رضی اللہ عنہ اوسکے کے جوکتاب شذرات الذہب میں ہے ابن ابی صالح جنگی دوست ابن ابی عبداللہ بن یحیی بن محمد بن داؤد بن موسی بن عبداللہ محض بن حسن مثنی بن حسن سبط بن علی کرم اللہ وجہہ ہیں اور غوث رضی اللہ عنہ نواسہ ہیں سید عبداللہ صومعی کے جو بزرگان مشایخ جیلان سے تہے ہژدہم اٹھارواں کہا عارف بزرگ اور علم طویل اور اولیاء اللہ مشہور صاحب مقامہ قدس شیخ پاک وطاہر شیخ عبدالغنی نابلسی دمشقی نقشبندی قادری قدس اللہ سرہ العزیز اور مدح کرتا ہے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا امام الجلیل غوث اعظم النبیل باز اللہ الاشہب والسیف الاشطب سلطان الاولیاء والصالحین مولانا وقدوتنا وسفرعنا اباصالح سید محی الدین عبدالقادر الحسنی الحسینی الجیلانی الحنبلی رضی اللہ عنہ بہذہ القصیدۃ الغرا

ظہرت شموس طوالع العرفانی	بالشیخ عبدالقادر الگیلانی

نوزدہم انیسواں کہا عالم علامہ امام عظریف فہامہ سید جعفر ابن سید حسن ابن سید عبدالکریم برزنجی مدنی مفتی شافعیہ مدینہ منورہ صاحب مولود نبوی منظوم مشہور ہے سب جہان میں اپنی کتاب جنی الدانی مناقب قطب ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ میں ابن سید ابی صالح موسی ابن سید عبداللہ ابن سید یحیی ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسی ابن سید عبداللہ ابن سید موسی جون ابن سید عبداللہ محض ابن سید حسن مثنی ابن امام سید حسن ابن امیرالمومنین علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہ وابن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بنت سیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرفہ وکرم ومجد وعظم الی انتہی بستم بیسواں کہا عالم علامہ قاضی القضات مجیرالدین شیخ محمد بن یحیی التاد فی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب قلائد الجواہر فی مناقب الشیخ سید عبدالقادر میں کہ پس کہتا ہوں میں کہ وہ سیدنا

شیخ الاسلام پیشوای اولیاء عظام علم الہدی وہ کہ جو منسوب ہوا طرف اونکے وہ ہوا سعد اسی قطب باقی اور فرد جامع صمدانی صاحب اصل طاہر محی الدین ابو محمد سید عبد القادر بن سید ابو صالح جنگی دوست اور کہا گیا ہو کہ جنگاہ دوست موسی بن سید عبد اللہ بن سید یحیی زاہد بن محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبد اللہ بن موسی جون بن سید عبد اللہ محض بن سید حسن مثنی بن امیر المومنین ابو محمد حسن بن امیر المومنین علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان قرشی ہاشمی علوی حسینی جیلی حنبلی سبط سیدنا شیخ ابو عبد اللہ صومعی زاہد کے ہیں اور اسی نام سے مشہور تھے آپ جبتک جیلان میں تھے انتہی۔ بیت ۱۱ و یکم اکیسوان کہا عالم نیکبخت فاضل بزرگ شیخ سیدی محمد امین بن احمد قونسی مالکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض البساتین فی اخبار سیدی عبد القادر الجیلی محی الدین میں انتہی۔ بیت ۲۲ و دوم بائیسوان کہا عالم علامہ شیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بہجۃ الاسرار و معدن الانوار میں خبر دی ہمارے کو فقیہ عالم ابو المعالی احمد بن شیخ محقق ابی الحسن علی بن احمد بن عبد الرزاق بن عیسی ہلالی بغدادی نے کہا خبر دی ہمارے کو قاضی القضات سید ابو نصر نے کہا کہ خبر دی ہمکو ہمارے والد نے سید عبد الرزاق نے کیا کہ سوال کیا مینے اپنے والد سید محی الدین رضی اللہ عنہ آپنے نسب شریف سے قال کہا سید عبد القادر ابن سید ابی صالح موسی جنگی دوست بن سید عبد اللہ بن سید یحیی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبد اللہ بن سید موسی جون بن سید عبد اللہ محض اور ملقب ہو ساتھ مجل کے بن سید حسن مثنی بن امیر المومنین سید حسن بن امیر المومنین سیدنا علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہم اور نواسہ ہیں سید ابی عبد اللہ صومعی کے اور جانتے تھے جس وقت تھے جیلان میں پس سوال کیا پیدا ہوے حضرت غوث رضی اللہ عنہ سے پس کہا ہمکو خبر نہیں ہو لیکن جب سابق تھے بغداد میں اور سال وفات پائی تمیمی عمری نے اوس وقت تہی اٹھارہ برس کے پس کہا بیٹے کون ہے تمیمی فرمایا ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب بن عبد العزیز بن حرث بن اسد

سال وفات پائی

وفات پائی ۵۶۱ھ پانسو اکسٹھ میں پس ہو پیدا ہونا حضرت کا رضی اللہ عنہ (۲۳) کہا عالم علامہ عامل فاضل
کامل عمدۃ المحدثین مولانا شیخ عبدالحق دہلوی بخاری سمرقندی نے اپنی کتاب زبدۃ الاسرار میں ذکر کیا نسب شریف
اور صفت حضرت غوث اعظم شیخ شیوخ عالم سید السادات شیخ الاسلام والمسلمین شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر
بن سید ابی صالح موسی بن سید عبداللہ بن سید یحیی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبداللہ بن سید
موسی جون بن سید عبداللہ محض اور صفت کیا گیا ہو ساتھ محل کے بن سید حسن مثنی بن سیدنا حسن بن علی مرتضے
رضی اللہ عنہم اجمعین اور نواسہ ہیں سید عبداللہ صومعی زاہد کے اس سے جانتے تھے جیلان میں نسبت کیا گیا ہے
طرف جیل کے کسرہ جیم اور سکون یا کا اور وہ بلاد ہیں متفرق سوا طبرستان کے اور وہاں پیدا ہوئے
اور وہ قصبہ ہو اور کہتے ہیں اوسکو جیلان و گیلان و گیل وہ قریہ ہو کنارہ دریاے دجلہ میں اور وہ رستہ ملا ہوا ہو ایکدن
کا بغداد سے اور واسط کے درمیان اور اوسکو ہی کہتے ہیں جیل عجم (۲۴) کہا ادیب فاضل شیخ عبدالباقی
عمری موصلی عراقی رحمہ اللہ نے اپنے دیوان جو نام ہو تریاق فاروقی میں ایک قصیدہ اور صفت کیا سلطان الاولیا
والعارفین القندیل النورانی والقطب الصمدانی مولانا و سیدنا سید محی الدین عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ
عنہ اور شرح کیا عالم علامہ عراق مفتی بغداد مرحوم شیخ محمد آلوسی بغدادی نے (۲۵) کہا عالم ربانی فقیہ نزیہت
پاکیزہ شیخ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ نے آخر اپنے شرح صلوۃ کبری جو مسمی ساتھ کوکب المعانی اور موکب المعانی شرح
صلوۃ شیخ عبدالقادر گیلانی ہو کہ یا آخر اوسکا ہو جو میسر فرمایا اللہ تعالی نے ہمارے واسطے کتاب سے بطور اختصار
کے بطریق شرح و بیان کے موافق آسان کرنے تقدیرات کے اوپر اوراد صلوۃ ہمارے شیخ ساتھ عہد و میثاق
کے اور تذکیرا و وعظا ساتھ زمرہ الہیہ کے صاحب بسط و انفاق کے اور ہمارے استاد ساتھ امداد ربانی اور
استعداد انسانی کے مقام روحانی میں قطب دائرہ وجود کے اور کوکب سموات معانیہ اور شہود کے فرد کامل اور عالم
علامہ عامل سید شیخ عبدالقادر بن سید ابی صالح موسی جنگی دوست بن سید ابی عبداللہ بن سید یحیی زاہد بن سید
محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبداللہ بن سید موسی جون بن سید عبداللہ محض بن سید حسن مثنی بن سیدنا
امام حسن بن علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہ و عنہم اجمعین جیلانی یہ نسبت ہو طرف جیلان کے اور یہ نام ہو بلاد متفرقہ
جو اوس طرف طبرستان کے ہو وہاں پیدایش آپکی ہو اور اوسکو کہتے ہیں جیلان اور گیلان بھی اور کہا مناوی نے

پیدا ہوئے تھے جیلان مین سال چار سو ستر ہین اور رضی اللہ عنہ نواسہ سید عبداللہ صومعی کے ہین جو بزرگان جیلان سے تھے انتہی (۲۶) کہا عالم عامل اور جدائی کرنیوالا درمیان حق اور باطل کے شیخ سید علی ابن شیخ سید یحیی ابن شیخ سید احمد ابن شیخ سید علی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفۃ الابرار ولوامع الانوار مین ذکر کیا ہو نسب طاہر ومحتّد ظاہر اوسکا پیدایش اور شہرہ اور ہجرت اور ظاہر ہوئے رضی اللہ عنہ قطب نورانی محی ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی ابن سید ابی صالح موسی جنگی دوست ابن سید عبداللہ ابن سید یحیی زاہد ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسی ابن عبداللہ ابن سید موسی جون ابن سید عبداللہ محض اور ملقب ہو ساتھ مجل کے ابن سید حسن مثنی ابن الامام سید حسن ابن امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب کرم اللہ تعالی وجہہ ابن عبدالمطلب ابن ہاشم بن عبدمناف معدن الجود والعفاف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ہزدواں اوس جا کا

	نورا ومن فلق الصباح عمودا		نسب کان علیہ من شمس الضحیٰ	

ہاشمی علوی حسنی حسینی جیلی نواسہ سید ابی عبداللہ صومعی کے ہین الخ (۲۷) کہا مشہور امام درمیان انام عالم دیار رومیہ صاحب بصارت دنا فذکل قضیہ محمود بن سلیمان مشہور کفوی اپنی کتاب مسمی اعلام الاخیار فی الکتیبۃ العاشر مین سید العارفین قبلۃ الواصلین سردار عارفونکا اور قبلہ اللہ سے ملانیوالون کا شیخ ربانی عارف صمدانی قطب الاولیآء غوث الاصفیا ابو محمد سید عبدالقادر بن سید ابی صالح بن سید عبداللہ جیلی گیلانی الحسنی الحسینی قدس سرہ اور تہی والدہ شریف آپکی ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی پیدا ہوئے سال چار سو اکہتر مین انتہی (۲۸) کہا تاج الوراق سید عبدالرزاق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی کتاب فتوح الغیب مین کہ کہا ہمارے والد رضی اللہ عنہ نے جو مدد دینے والا ہو اماماں دین کو اور سردار طائفہ طریقہ کا ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی صدیقی ابن ابی صالح موسی جنگی دوست ابن امام عبداللہ ابن امام یحیی زاہد ابن امام محمد ابن امام داؤد ابن امام موسی ابن امام عبداللہ ابن امام موسی جون ابن امام عبداللہ محض ابن امام حسن مثنی ابن امام امیرالمومنین حسن ابن امام ہمام اسداللہ الغالب فرزند غالب سیدنا علی بن ابیطالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین (۲۹) کہا عالم علامہ فہامہ فقہای بزرگان حنفیہ اور مدقق اونکے اور بلند اور انتہا

کرنے والے ذیشان اونکے علوم محکم مرضیہ ملت محمدیہ اور ناصر ادسکے مولانا علی قاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی کتاب نزہۃ الخاطر الفاتر مین ترجمہ حضرت سلطان الاولیا والعارفین الاکابر سید شیخ عبد القادر رحمہ اللہ مین کہ اما بعد کہتا ہو امیدوار برکات صالحین کا اپنے پروردگار باری سے علی بن سلطان قاری کہ مجھے معلوم ہوا ہو کہ بعض جہال نادان مقامات مولانا و سیدنا تاج المفاخر کہ جنکے واسطے پست ہوئین ہین گردنہای اکابر ربانی قطب ربانی غوث صمدانی سلطان الاولیاء والعارفین البازالاشہب و السیف الاشطب و الطراز المذہب شیخ الاسلام محی الدین عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی قدس اللہ تعالی روحہ و فتح علینا فتوحہ نے کہا ہو کہ یہ شیخ اپنے نسب مین سید نہین ہین اور اونکے بعد پیچھے کوئی اولاد نہین تہی کہ جنسے نسب منسوب ہوتا مگر بعض فقیہان کوتاہ کسب نے فتوی دیا ہو او سکا موافق کلام عوام کے جو توفیق یاب نہین تہے ساتھ تحقیق خاص کے اور حق اور سزاوار اونکو یہ تہا کہ وہ کہتے کہ ہمکو نہین معلوم کیونکہ لا ادری اور لا علم نصف علم ہو جیسے کہ آیا ہو حدیث مروی مین اور جرأت اور دلیری کرنا نسب کے معاملہ مین ساتھ نفی اور اثبات کے بغیر نقل کے اہل اثبات اور عدل سے لایق شان ارباب علوم اور دیانات کے نہین ہو کیونکہ اوسمین خوف ہو مقام بوار کا کہ داخل وہ مضمون اوسمین جو وارد ہوا ہو کہ بڑہکر جرأت والا تم مین کا فتوی اور حکم پر زیادہ تر جرأت والا ہو آگ جہنم پر لہذا مینے چاہا کہ ذکر کرون بعض وہ کہ جو متعلق ساتھ نسب شریف اور حسب لطیف آپکے سے کیونکر جسنے جمع کیا ہو دونون امر و دونون رنگ مین سے وہ عزیز الوجود غریب الشہود ہو دونون جہانین پھر نسب آپکا مجملا اسطرح پر ہو کہ ذکر کیا ہو مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی نے اپنی کتاب نفحات الانس فی حضرات القدس مین کہ یہ شیخ سید ہین ثابت نسب اور جامع ہین نسب اور حسب کے کیونکہ علوی حسنی ہین جانب پدر سے اور طرف مادری سے نواسہ ہین سید ابی عبد اللہ صومعی کے جو ملکیان مشایخ عظام اور اولیا کرام سے تہے اور اونکے احوال بزیدہ اور کرامات جلیہ تہے اور لیکن مفصلا اسطرح پر ہو جو کہا امام شیخ عبد اللہ بن اسعد یافعی رحمہ اللہ نے تتمہ روض الریاحین لحکایات الصالحین مین کہ بدرستیکہ سردار ہمارا سید محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن سید ابو صالح موسی جنگی دوست ابن سید عبد اللہ ابن سید یحیی زاہد ابن سید محمد ابن سید داود ابن سید موسی ثانی ابن سید عبد اللہ ابن سید موسی جون یعنے ساتھ ضم جیم یعنے ابیض اور زرد اور سعید اور لقب ہو انکا ابن سید عبد اللہ محض اور یہ لقب ہو اور معنی اسکے خالص ہین بن سید حسن مثنی ابن الامام سید

سیدنا حسن سبط ابن الامام سیدنا علی بن ابیطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواسہ ہین سید ابی عبد اللہ حسینی الزاہد کے اور اسی نام سے معروف اور مشہور تہے آپ جیلان مین علیہ الرحمۃ والرضوان اور کہا کہ والدہ شریف آپکی ام الخیر فاطمہ دختر سید ابی عبد اللہ صومعی زاہد کی تہی اور حصہ پورا تہا خیر و صلاح سے اور عمۃ یعنے پہوپی آپکی عورت صالحہ ام محمد یعنے مان محمد کی عایشہ بنت یعنے دختر سید عبد اللہ کی صاحب کرامات ظاہرہ اور مقامات باہرہ کی تہین اور کہا کہ لقب تہا سید عبد اللہ محض آپکے دادا کا محض اسواسطے کہ والد انکے تہے حسن مثنی بن حسن السبط ابن سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور والدہ انکی فاطمہ نام دختر امام حسین ابن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تہی اور نسبت سالم یعنے سلامت اور صاف ہو موالی سے اور خالص ہو شرافت عالی مین انتہی (٣٠) کہا عالم اور فاضل شیخ عبد القادر بن محی الدین اربلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ سید عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ منقبت پانسٹھ مین نسب شریف طرفین سے لیکن جانب پدر سے یہ سردار سید عبد القادر ابن سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبد اللہ بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبد اللہ ثانی بن سید موسیٰ جون بن سید عبد اللہ محض بن سید حسن مثنی بن سیدنا حسن بن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انتہی (٣١) کہا عالم علامہ شیخ صلاح الدین محمد بن شاکر کتبی دارانی دمشقی نے اپنی کتاب فوات الوفیات مین کہ سید عبد القادر جیلانی بن ابی صالح جنگی دوست کا نسب پہونچتا ہے امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما تک اور شیخ محمد جیلی حنبلی مشہور زاہد صاحب مقامات اور کرامات کے اور شیخ حنبلیون کے رحمہم اللہ تعالیٰ تشریف لائے بغداد مین اور فقہ پڑہی قاضی ابی سعید سے اور حدیث کی سماعت کی اور تہا کہانا اور قوت آپ کا عمل اپنے ہاتہہ سے اور کلام کیا وعظ مین اور بلند ہوا آواز یعنے شہرہ اور تہے آپ صاحب وقار اور ہیبت کے اور کہا شیخ شمس الدین نے کہ پیدایش آپ کی جیلان مین سال چارسو اکہتر ہوئے تہے اور وفات سال پانسو ایکسٹھ مین انتہی (٣٢) کہا درمیان مادہ بشتیری مین قاموس سے اور شرح کیا سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب تاج العروس فی شرح القاموس البشتیری اہلہ بشتیری اہل بین جماعت کے وہو بالضم و سکون الشین وکسر المثناۃ الفوقیۃ و سکون التحتیۃ ہکذا فی نسختنا ہو شیخ الاسلام والسنۃ الکبری علی اللہ الامام القطب محی الدین سید عبد القادر ابن ابی صالح موسیٰ جنگی دوست

الجیلی الحسنی پیدا ہوئے سال چار سو ستر مین اور وفات ہوئی آپ کی سال پانسو ایک سٹھ مین ایسا ہی تحریر کیا ہو نسب شریف حضرت رضی اللہ عنہ کا امام محمد قاضی ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے انتہی (۳۳) ذکر کیا گیا ہو کتاب خلاصہ مین مدینیکہ چار اقطاب رضی اللہ عنہم کلہم سادات اہل بیت سے ہین اور پہونچتا ہو نسب شریف انکا امام حسین بن علی تک رضی اللہ عنہما سوا شیخ سید عبد القادر جیلانی کے نسب شریف انکا پہونچتا ہو امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما تک انتہی (۳۴) کہا سید موسوی نے اپنے بحر الانساب اثبات نسب سید کل و رئیس کل قطب اقطاب سید عبد القادر جیلانی ابن سید ابی صالح موسی جنگی دوست ابن سید عبد اللہ ابن سید یحیی زاہد ابن ابن سید محمد ابن سید داود ابن سید موسی بن سید عبد اللہ ابن سید موسی جون بن سید عبد اللہ محض بن حسن مثنی بن امام حسن بن امام امیر المومنین علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہم اجمعین انتہی (۳۵) ہو در بیان کتاب منتخب مین بحر انساب سے ثابت کرنا نسب غوث اعظم شیخ سید عبد القادر کے اور مرفوع کرنا اوسکا طرف امام حسن رضی اللہ عنہ اسطرح پر کیا ہو کہ یہ شیخ سید عبد القادر بن موسی جنگی دوست بن عبد اللہ بن یحیی زاہد بن محمد بن داود بن موسی ثانی بن عبد اللہ بن موسی جون بن عبد اللہ محض بن حسن مثنی بن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے (۳۶) کہا سیرۃ النبلا مین شیخ الامام العالم الزاہد العارف قدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء تاج الاصفیا محی السنۃ ومیت البدعۃ معقل العلم السید الشریف الحسیب النسیب الحافظ الاحادیث جدہ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر ابن سید صالح جیلی حنبلی شیخ بغداد رضی اللہ عنہ (۳۷) کہا تاریخ اسلام مین شیخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر بن ابی صالح موسی ابن عبد اللہ جنگی دوست جیلی زاہد صاحب مقامات و شیخ الفقہاء و الفقرا اور تھے امام اپنے زمانہ کے اور قطب اپنے عصر کے شیخ شیوخ اپنے وقت کا بغیر نزاع کے اور سردار علم و عمل مین پس کرامات اونکے متواتر ہین اور کسی سے ایسی کرامتین سرزد نہین ہوئی ہین بعد انکے انتہی (۳۸) کہا عالم علامہ خاتمۃ المفسرین ابو الثنا شہاب الدین سید محمود افندی آلوسی مفتی بغداد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شجرۃ الانوار مین سلطان الاولیا سید عبد القادر پیدائش ہوئی عشق سال چار سو ستر مین و زندگانی پائی کمال مین سال ایک پر نوے مین اور وفات ہوئی معشوق الہی سال پانسو ایک سٹھ مین انتہی (۳۹) ہاتاریخ یافعی مین ہو کہ لیکن کرامات

آپ کے پس وہ خارج ہین حصر اور حد سے اور ضروری ہو ہمکو انھون نے کہ پایا تہا آپ کو اعلام ایمہ مین سے اوسکے کہ کرامات غوث رضی اللہ عنہ متواتر ہین یا قریب متواتر سے ہین اور بالاتفاق معلوم ہو کہ ظاہر ہوئے ہین کرامتیں مانند ظہور آپ کی کرامات کے واسطے غیر آپ کے لئے شیوخ آفاق مین سے بسبب اکرام آپکے کے علی الاطلاق اور خرقہ پہنا تہا اپنے ہاتھہ شیخ ابو سعید مبارک بن علی مخزومی سے جو نسبت ہو طرف محلہ زید بن مخزوم کے بغداد مین سنا مینے کتاب اجازت ابو بکر کفوی مین جو اعطا کی تہی شیخ ابو الوفائی شیخ محمد بن سید قاسم بن بحیر بن حسین بن علی بن محمد بن احمد بن صالح بن نصر بن عبد الرزاق بن قطب غوث اکبر محی الدین ابی محمد عبد القادر جیلانی بن ابیصالح موسی جنگی دوست بن عبد اللہ بن یحیی زاہد بن محمد بن داؤد بن موسی بن عبد اللہ بن موسی جون بن عبد اللہ محض بن حسن مثنی بن علی بن ابیطالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسطرح پر ثابت کیا ہو اوسمین اور کہا ہو اوسمین کہ منتہی ہوتا ہو نسب کریم آپ کا جانب والد آپ کے سے طرف سیدنا ابی محمد حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے اور جانب والدہ آپکے سے طرف شہید ابی عبد اللہ حسین رضی اللہ عنہ کے انتہی (۴۰) کہا عالم علامہ سید محمد سیف الدین اپنی کتاب درر السنیہ فی المواعظ الگیلانیہ مین کہ غوث اعظم قطب ربانی فرد صمدانی سید سلطان سید شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ ابن الامام ابیصالح موسی جنگی دوست ابن الامام سید عبد اللہ ابن الامام یحیی زاہد ابن الامام محمد ابن الامام داؤد ابن الامام موسی ثانی ابن الامام عبد اللہ ابن الامام موسی جون ابن الامام عبد اللہ محض ابن الامام حسن مثنی ابن الامام حسن السبط ابن الامام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ (۴۱) کہا عالم علامہ مدقق فہامہ محمد غوث بن ناصر الدین محمد المخاطب بشرف الملک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انہار المفاخر فی مناقب غوث الاعظم شیخ سید عبد القادر جدول ثانی شعبہ اولیٰ مین روایت کی شیخ سید عبد الرزاق نے اپنے بیٹے قاضی القضاۃ ابیصالح نصر رحمہ اللہ سے شیخ سید عبد القادر بن سید ابیصالح موسی جنگی دوست بن سید عبد اللہ بن یحیی زاہد الخ رضی اللہ عنہم اجمعین (۴۲) کہا عالم فاضل کامل علامہ نجم آل بیت الرسول والشمس المشرقۃ علی المعقول والمنقول قامع المبتدعین ودامغ المبطلین ابی الظفر سید ظہیر الدین القادری الحسنی الحسینی الحنفی حفظہ اللہ بلطفہ الخفی والجلی نے اپنی کتاب فتح المبین فیما یتعلق بتریاق المبین جو تحریر کیا ہو بیچ بیان

سیادت وجمیع محاسن وکرامات وخوارق عادات وکمالات حضرت غوث رضی اللہ عنہ کا کیا ہی اور ترجمہ
اس کتاب کا اردو زبان مین کیا ہی نام اوسکا اظہار الیقین ہی اور یہ کتاب عام ہو دیار مین انتہی (۴۳)
کہا عالم علامہ حبر فہامہ عالم فاضل شیخ رزوق نے اپنی کتاب قواعد شتضمنہ لسوائد فوائدہ مین جسوقت کلام
ہوئے نسب شریف مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم مین بدرستیکہ معتبر اصل نسب دینی ہی اور نسب فرع مجرد ہی
پس اضافت کئے گئے طرف طینی کے تہا اوسکے لئے سو کدا پس ملحق نہین رتبہ صاحب کا اپنے حال مین ہمیشہ
ساتھ اسکے جواب دیا ہی قول حضرت شیخ ابی محمد سید عبد القادر سے کہا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ
یعنے قدم میرا اوپر گردن سب اولیاء اللہ زمانہ کے ہی تحقیق مستمع ہوا علویت نسب اور شرافت حسب عبادۃ سے
اور علم سے اور دوسرے کو یہ رتبہ نہین تہا اپنے زمانہ مین انتہی (۴۴) کہا امام احمد بن محمد بن جزوی الاندلسی
الغرناطی جو مشہور ہی اپنی کتاب مختصر البیان فی آل عدنان مین تصریح کیا ہی ساتھ اسم نسب شریف جیلی رضی اللہ
عنہ کا تا امام حسن رضی اللہ عنہ تک انتہی (۴۵) کہا صاحب درۃ العقول فی ذکر آل الرسول مین وہ علامہ
شیخ عبد الرحمن ابن عبد القادر الفاسی نے اپنی کتاب مین اور ذکر نہین کیا ہی مگر اشراف یعنے سادات کا جو
اجماع اصلی ہی اوپر شرافت جیلی کے اسطرح جانتے ہین اور یہ کتاب تالیف ہوئی ہی واسطے اونکے ساتھ اذن
باپ کے جو شیخ الجماعہ ہی انتہی (۴۶) کہا حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب غبطۃ الناظرین مین انتہی
(۴۷) کہا علامہ ابن عرضون نے ساتھ نقل علامہ شیخ مغربی سیدی محمد قنوری کے (۴۸) کہا ابن
جوزی نے اپنی کتاب مرآت الزمان مین انتہی (۴۹) کہا علامۃ النساب شیخ محمد عربی فاسی نے اپنی کتاب
مرآت المحاسن مین کیا ہی ثبوت یعنے اصل شرفا رفاس کہ واسطے جو قادری ہین اولاد قطب سید محی الدین
عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نسبت انکی طرف غوث رضی اللہ عنہ کی ثابت ہی یہانتک کہ کہا رضی اللہ عنہ
سید عبد القادر نے اور ذکر کیا نسب شریف کا تا امام حسن رضی اللہ عنہ تک انتہی (۵۰) انساب القرطاس
مین ہی ذکر کیا ہی نسب شریف کا تا امام حسن رضی اللہ عنہ تک انتہی (۵۱) کہا امام نساب ابن فرحون نے
اپنی کتاب المسمی الاعتبار وتواریخ الاخبار والتعریف بالنسبۃ الی النبی المختار مین (۵۲) کہا علامہ نساب
ابن طیب نے اپنی نظم مین جو مسمی ہی ساتھ اشراف کے اوپر نسبت چہار اقطاب اشراف کے اور ذکر کیا گیا ہی

اس قول میں بعد استفتاح النظیم بانتظام معمود نسب چو چار اقطاب ہیں اہل الرتب صاحب مرتبہ

الشیخ عبدالقادر الجیلانی	وابن مشیش معنود الایمان
والشاذلی الکامل الوصول	وابن سلیمان ہم الجزولی

(۵۳) کہا شیخ محمد بن عبدالرحمٰن فاسی نے اپنی کتاب منح البادیہ والتحشی براعۃ فی تحریر الانساب وقدرہ فی علم الانساب میں اور ہیں دسمین اجازات علم واسطے اہل کے انتہی (۵۴) کہا شیخ مراد بغدادی نے اپنے شجرہ میں انتہی (۵۵) کہا شیخ محمد قاسم قصار نے کہ کہا مسناوی نے اور طول کیا نسب شریف کو صحت سے انتہی (۵۶) کہا عالم شیخ محمد بن عیاد اندلسی نے اپنے شجرہ میں انتہی (۵۷) کہا شیخ علی بن عبد ربہ شامی نے اپنے شجرہ میں انتہی (۵۸) کہا شیخ عبدالواحد الوانشریسی نے اپنے شجرہ میں انتہی (۵۹) کہا عالم علامہ امام اہل ورع صاحب تقوی اپنے زمانہ کا شیخ رضوان بن عبداللہ نے اپنے شجرہ میں انتہی (۶۰) کہا شیخ عبدالواجد بن احمد الحمیدی نے اپنے شجرہ میں انتہی (۶۱) کہا رقیم شیخ علی صقلی حسنی نے اور دریافت کیا محقق مسناوی نے نقل کیا شفی الغلیل سے انتہی (۶۲) کہا صاحب انساب عارف شیخ ابو توفیق ملجی مصری نے اپنی کتاب سرور القلب میں انتہی (۶۳) کتاب درسنی جو فاس میں اہل نسب حسنی میں اوسعین انتہی (۶۴) کہا عالم علامہ حبر فہامہ شیخ شبلنجی جو منسوب ہو ساتھ سید مومن کے اپنی کتاب نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختارین من الاقطاب الاربعہ سیدی عبدالقادر الجیلی ہو ابو صالح عبدالقادر ابن موسیٰ بن عبداللہ بن یحیی زاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ الجون بن عبداللہ محض بن حسن مثنی بن الحسن بن علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہم اجمعین پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ سنہ چار سو ستر میں ایسا ہی طبقات شعرانی میں کہا کہ حکایت ہے آپکے والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ سے کہ جب پیدا ہوا بیٹا میرا عبدالقادر تھا کہ وہ دودہ نہیں پیا روز رمضان میں اور ابر تھا آسمان پر اور چاند رمضان کا پوشیدہ رہا لوگ آئے میرے پاس اور استفسار کیا احوال غوث رضی اللہ عنہ سے پتے کہا کہ آج پستان میرا نہیں چوسا پیچھے روشن ہوا کہ یہ روز رمضان کا تھا اور مشہور ہوا جیلان میں اسوقت کہ تولد ہوا سادات کے گھر میں لڑکا اور پستان نہیں چوسا تمام رمضان

مین انتہی (٦٥) کہا حافظ انساب شیخ عبداللہ سجلماسی نے بعضے دانست فاسیون کے اور شرفاء
قادرین شہرہ ہو نسب شریف مین انتہی (٦٦) کہا سیدی علی بن موسی جزائری نے اپنی کتاب شجرۃ الانساب
تلخیص مین انتہی (٦٧) کہا شجر محمدی مین و تحقیق سے مین واقف ہون نسخہ اصلیہ پر اوس سے اور
اوسپر شرح ہو کتابات الموافقہ والاعتراف سے ساتھہ صحیح ہونے جو اوسمین ہین مانند ساتھ پر چالیس نقباء
الامصار ونسابی الاقطار اونمین سے علامہ ولی جو مشہور ہو سیدی ابو المغیث القشاش تونسی اور سید احمد
مکی جو نقیب سادۃ الاشراف بیان والسید محمد علی نقیب القدس الشریف اور سید علی عزوز وغیرہم وبعضہم
باختامہم مع خطوطہم پر آخر کتاب ہے جو ختم کی گئی ہے ساتھہ خطون کے آخر مواہیر ونکے اور وہ چیز جو دریافت
ہوئی اوسمین کتابین انساب سے ساتھہ اقوال معتبر کے تصریح کیا ہو اسطرح پر اور پر شرافت امام جیلی کے
کتب مورخین اور اصحاب طبقات اور صاحبان مناقب اور علمای عارفین سے کہ شک اور شبہ نہین ہو
اوسمین انتہی (٦٨) کہا عالم کبیر عارف شہیر سیدی احمد زروق فاسی مغربی مالکی نے اپنی کتاب
قواعد الطریقہ مین (٦٩) کہا عفیف بن مبارک نے اپنی کتاب فتح ربانی مین (٧٠) کہا اوستاذ
ابن ابا مخرمہ نے (٧١) کہا شیخ مراد شاذلی نے اپنی کتاب فتح کامل مین (٧٢) کہا شیخ علی ابن
یوسف ہیتی نے انتہی (٧٣) کہا عالم ربانی شیخ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی نے
اپنی کتاب نفحات الانس مین کہ حضرت شیخ غوث عبد القادر جیلی علوی حسینی ہین جانب پدر اور نواسہ
ہین سید عبداللہ صومعی زاہد حسینی کے شرح وبسط سے انتہی (٧٤) کہا عالم فاضل محمد بن محمود
الملقب بد مدار نے اپنی کتاب محشی نفحات الانس مین جو حاشیہ کیا ہو شیخ محی الدین سید عبد القادر
جیلی کہ مراد جیل سے گیلان ہو نہ وہ ہے کہ بعضون کو وہم پڑا ہے کہ مراد جیلی سے نزدیک بغداد کے ہو
کیا صومعہ قریہ ہے نزدیک شہر لاہجان کے اور جد مادری حضرت غوث رضی اللہ عنہ کا وہان کے ہے
اور حالا اولاد حضرت کی وہان رہتی ہو اور خانقاہ رونق افزا رکھتے ہین ونسب عالی یہ ہو سید محی الدین
عبد القادر ابن ابی صالح موسی جنگی دوست ابن عبداللہ ابن یحیی زاہد ابن محمد ابن داود بن موسی بن
عبداللہ بن موسی جون بن عبداللہ محض اور اوسکو عبداللہ مجل سے وصف کیا ہو ابن حسن مثنی ابن حسن

ابن امیر المومنین علی ابن ابیطالب رضی اللہ عنہ اور والدہ شریفہ فاطمہ حسینی تہی اور بعض اہل انساب نے کہا ہو کہ البازی الاشہب شیخ عبد القادر اپنی حیاتی کے زمانہ مین اظہار سیادت کا نہین کیا ہو اور اوسکو اپنی سند بنائی ہو اصلا تحقیق اور تتبع نہین کی ہو یہ قصیدہ ایک بیت اوسکا یہ ہو

کلی قطب یطوف بالبیت سبعا		وانا البیت طائف بخیامی	

کہ فرماتا ہے کہ جدی مصطفی شفیع الانام کہا کیا زیادہ اس سے کیا اظہار ہو وے اور والدہ شریفہ رحمہا اللہ نے کہا کہ فرزند عبد القادر پیدا ہوا ہر گز رمضان مین پستان میرا نہین چوسا اور شیر نہین پیا یہی دولت مادر زاد اور مضمون حدیث شریف کا السعید من سعد فی بطن امہ معنی حدیث شریف کا یہ ہے کہ نیک بخت ماںکے پیٹ سے نیک بخت ہے کہ پیدا ہونیسے اور عالم طفلی مین روزہ رکھا تمام رمضان شریف کا جیسا جناب امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے تعظیم اور تکریم کی ہو ماںکے پیٹ مین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتکی والدہ شریفہ فاطمہ بنت اسد سے روایت ہو کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر مین تشریف لاتے تہے یہ لڑکا میرے پیٹ مین کھڑا ہو جاتا تہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیجاتے تہے تب میرے کو آرام ہوتا تہا تب مینے جانا کہ میرے پیٹ مین جو ہے تعظیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہو اس مضمون موجب غوث نے پستان نہین چوسا اور تربیت الٰہی ایسی ہو اور یہ نشان وراثت کاملہ ہے واسطے حضرت شیخ رضی اللہ عنہ کی انتہی (۶۵) کہا انیس جلیس شارح بن باویس مین (۶۶) کہا امام عبد اللہ یافعی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب خلاصۃ المفاخر مناقب غوث الملکوت قطب الصمدانی شفیع الربانی شرف الاقطاب سید السادات محی الدین سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی ذکر کیا ہو نسب شریف کا رضی اللہ عنہ الشیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر بن ابو صالح موسی جنگی دوست بن ابی عبد اللہ بن یحیی الزاہد بن محمد بن داؤد بن موسی بن عبد اللہ بن موسی الجون بن عبد اللہ المحض وینعت بالمجل بضم المیم وتشدید اللام من الاجلال بن حسن المثنی بن حسن بن علی بن ابیطالب رضوان اللہ علیہم اجمعین سبط سید عبد اللہ الصومعی الزاہد انتہی (۶۷) کتاب وقائع خلفاء عباسیہ مین تحت ذکر مستنجد باللہ ابو المظفر یوسف بن محمد فی سنہ

چار سو ایک سنہ میں جو وفات ہوئے شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور یہ محی الدین عبد القادر بن ابی صالح موسی بن ابی عبد اللہ بن یحیی بن محمد بن داؤد بن موسی بن عبد اللہ بن موسی جون بن عبد اللہ محض بن حسن المثنی بن الامام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے سال چار سو اکہتر میں انتہی (۷۸) کہا عالم علامہ جامع سید احمد بن مبارک للمطی نے اپنی ابریز میں انتہی (۷۹) کتاب جامع الاصول مشہور میں ہو انتہی (۸۰) کہا شیخ محبی نے اپنی کتاب خلاصۃ الاثر ترجمہ سید نعمت اللہ میں (۸۱) کہا عالم سید عبد اللطیف شاہ نے اپنی کتاب فصل الخطاب میں (۸۲) کہا امام عارف باللہ سید عبد الرحیم البرعی نے ذکر کیا ہے نسب شریف اپنے قصیدۃ لہ ربانیۃ متوسلا فیہا بالحضرۃ المنیرۃ جو سید عبد القادر جیلانی صاحب شرافت اولاد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ہے مانند آفتاب کے کہ طلوع ہوتا ہے (۸۳) کہا شیخ جبرتی نے اپنی تاریخ ترجمہ سید عبد الخالق مصری میں انتہی (۸۴) کہا ملا سیدی محمد تونسی نے (۸۵) کہا شیخ سیدی محمد ابن اسمٰعیل کیلانی حلبی نے جو حاصل ہو مشرب سنیۃ طریقہ قادریہ شاذلیہ رفاعیہ اور نقشبندیہ میں مقدم ہو اور پر جمیع طریقوں کے ساتھ شہادت بہتیر علماء اعلام سے انتہی۔ (۸۶) کہا شیخ محمد عیسی قیروانی نے (۸۷) کہا شیخ محمد امین گیلانی تونسی نے اپنی کتاب مواہب جلیلہ میں (۸۸) کہا قطب کامل سیدی عبد اللہ علوی یمنی نے (۸۹) کہا ابن فضل اللہ صاحب نے اپنے مسالک الامصار میں (۹۰) کہا ابن شاکر نے اپنے تکملہ میں (۹۱) کہا ابن زکی نے (۹۲) کہا سید مصطفی بکری نے (۹۳) کہا علامہ یفرنی نے (۹۴) کہا امام ابن الازرق نے (۹۵) کہا سید عبد السلام الاسمر نے (۹۶) کہا امام منزلی نے (۹۷) کہا عالم ربانی سید ابی بکر شطا المکی نے اپنی کتاب نفحۃ الرحمن میں (۹۸) کہا شیخ عیسی التجانی نے اپنی شرح استغاثہ میں تصریح کیا ساتھ نسب شریف جیلی کے عند قولہ فی النظم یعنے نزدیک اپنے قول کے نظم میں۔

مولای عبد القادر الجیلانی | عونا علی ذی خمسۃ اظمانی

(۹۹) عالم علامہ ابو المحاسن قاؤقی شاذلی نے اپنے قصیدہ میں۔

یا ربنا بالھیکل النورانی | قطب الوجود منجد العیانی

بسع اسمائے آبائہ الکرام الخ (۱۰۰) کہا شیخ عبد الحق محدث دہلوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زبدۃ الآثار مین (۱۰۱) کہا عالم الشیخ ابی بکر عبد اللہ بن نصر الصدیق شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انوار الناظر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مین (۱۰۲) کہا عالم امام محمد بن سعید زالنجانی الشافعی رحمہ اللہ علیہما نے اپنی کتاب روضۃ الناظر ونزہۃ الخاطر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مین (۱۰۳) کہا عالم حافظ قسطلانی شافعی رحمہما اللہ تعالی نے اپنی کتاب روض الطاہر فی مناقب سید عبد القادر (۱۰۴) کہا شیخ مجد الدین فروزآبادی شافعی صاحب قاموس نے اپنی کتاب روض الناظر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مین (۱۰۵) کہا سید عبد القادر عیدروس شافعی نے رحمہ اللہ اپنی کتاب دار المفاخر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مین (۱۰۶) کہا نواسہ رومی نے اپنی کتاب مرآت الناظر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مین (۱۰۷) کہا علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نزہۃ الناظر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مین (۱۰۸) کہا امام مقدسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بہجۃ الناظر فی مناقب الشیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مین (۱۰۹) کہا امام سید حاتم الاہدل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انوار المفاخر فی مناقب الشیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مین (۱۱۰) کہا امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقد الجواہر مین (۱۱۱) کہا شیخ عبد الکریم حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الربانیہ فی مقامات الجیلانیہ مین (۱۱۲) کہا امام ناصر الدین دمشقی نے اپنی کتاب نثر الجواہر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مین (۱۱۳) کہا ابو الحسن علی یعقوبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دار الناظر فی مناقب الشیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مین (۱۱۴) کہا امام ابن ملقن سراج الدین عمر ابوحفص عمر بن علی بن احمد بن محمد انصاری شافعی رحمہ اللہ نے جو وفات پائی ہے سال آٹھ سو دو مین اپنی کتاب درر الجواہر مین (۱۱۵) کہا ہاشمی گیلانی حسنی نقیب حماہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لوامع الانوار مین (۱۱۶) کہا عالم علامہ قدوہ فہامہ محمد بن محمد بخشی حلبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شمس المفاخر فی مناقب الشیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مین (۱۱۷) کہا عالم علامہ حبر فہامہ شیخ سید محمد مکی ابن الاستاذی سیدی مصطفی ابن عزوز نفعنا اللہ ببرکاتہ تونسی نے اپنی کتاب سیف الربانی فی عنق المعترض علی الغوث الجیلانی مین ساٹھ کتاب معتبرات سے

نسب شریف حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی عنہ کا بخوب وجہ سے ثابت کیا ہو اور جواب بخوب وجہ سے معترضین رفاعیہ کو دیا ہو اول سے آخر تک اور علمار عظام کے تقاریظ و مواہیر سے مملو ہے اور شمس النہار سے ظاہر باہر ہے یہ کتاب عام دو دفعہ مطبوع ہو گئی ہے انتہی (۱۱۸) کہا سلطان دارا شکوہ ابن سلطان شہاب الدین شاہجہان دہلوی نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیار میں نسب شریف کو جانبین سے سلسلہ وار ثابت کیا ہو اور کہا ہے حضرت غوث الثقلین شاہ محی الدین سید عبد القادر حسنی حسینی رضی اللہ عنہ اور یہ سید العارفین فخر العابدین قطب صمدانی سید عبد القادر جیلانی ہوا ابن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست الخ اور مقامات و کرامات خوارق عادات سب تحریر کیا ہو کتاب عام ہو مطابع میں انتہی (۱۱۹) کہا عالم فاضل محمد صادق لطیفی قادری متخلص بشرلی نے اپنی کتاب خوارق صادقیہ مواہب قادریہ میں اور کہتا ہی بحر الانساب وغیرہ کتابوں سے صحیح ہے نسب شریف سردار شریف جوہر لطیف قطب ربانی محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی ابن سید ابی صالح موسیٰ اور یہ ابن عبد اللہ اور یہ ابن یحییٰ زاہد اور یہ ابن محمد سید اور یہ ابن سید داؤد اور یہ ابن سید موسیٰ ثانی اور یہ ابن سید عبد اللہ ثانی اور یہ ابن سید موسیٰ جون اور یہ ابن سید عبد اللہ محض اور یہ ابن سید حسن مثنیٰ اور یہ ابن امام حسن مجتبیٰ اور یہ ابن امام علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین انتہی (۱۲۰) کہا عالم فاضل صاحب تدریس اور سالک کامل لاشک ولاریب حضرت شیخ محمد شعیب قدس سرہ حنفی قادری نقشبندی چشتی پشاوری نے اپنی کتاب مرآۃ الاولیار میں ثابت کیا ہے غوث الاعظم غوث الثقلین سید عبد القادر ابن ابی صالح موسیٰ ابن سید عبد اللہ ابن سید یحییٰ زاہد ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ ابن سید عبد اللہ محمد ابن سید موسیٰ جون ابن سید عبد اللہ محض ابن سید حسن مثنیٰ ابن امام حسن مجتبیٰ ابن امام علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین انتہی (۱۲۱) کہا عالم فاضل سالک کامل حضرت شیخ سید میرزا جانجانان مظہر شہید نقشبندی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معمولات مظہریہ میں تحریر کیا ہو سید السادات سید عبد الرزاق نے اپنے والد سے قطب ربانی محبوب سبحانی غوث الثقلین سید محی الدین عبد القادر جیلانی اور جناب محبوب سبحانی نے اپنے والد سید

ابی صالح موسیٰ جنگی دوست سے اور یہ اپنے والد اور اپنے شیخ سید عبداللہ سے اور یہ اپنے والد اور اپنے شیخ سید یحییٰ زاہد سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید محمد سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید داؤد سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید موسیٰ سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید عبداللہ سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید سید موسیٰ جون سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید عبداللہ محض سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید حسن مثنیٰ سے اور یہ اپنے والد امام المومنین اور قدوۃ المتقین امام حسن رضی اللہ عنہ سے اور یہ اپنے والد امام ہدیٰ امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے اور اپنی والدہ سیدۃ النسأ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور یہ دونوں جناب سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہی (۱۲۲) کہا عالم فاضل خواجہ محی الدین معروف بسید شاہ بن محی الدین قادری کرنولی حیدرآبادی نے اپنی کتاب معدن الاسرار فی بیان جواہر الاسرار میں نزدیک ذکر سلسلہ قادریہ کے سلطان الاولیا سید عبدالقادر اور یہ اپنے والد سید ابصالح موسیٰ سے الخ تا امیر المومنین امام حسن رضی اللہ عنہ تک انتہی (۱۲۳) کہا عالم فاضل سید شاہ محمد قادری نے اپنی کتاب مشکوٰۃ ولایۃ الکبریٰ میں سید الاولیاء الاولین والآخرین فرد الافراد غوث الاغواث محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ عنہ وارضاہ انتہی (۱۲۴) کہا تذکرہ و تاریخ بلخ عبدالمومن خانی میں۔ بدانکہ حضرت غوث اعظم سید محی الدین جیلانی بن سید ابوصالح موسیٰ بن حضرت سید عبداللہ بن حضرت سید یحییٰ زاہد بن حضرت سید محمد بن حضرت سید داؤد بن حضرت سید موسیٰ بن حضرت سید عبداللہ بن حضرت سید موسیٰ جون بن حضرت سید عبداللہ محض بن حضرت سید حسن مثنیٰ بن حضرت امام حسن بن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین او روالدہ شریفہ امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی زاہد رحمۃ اللہ علیہ کے انتہی (۱۲۵) کہا عالم محدث محقق شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں قطب الاوقات فرد الاحباب الغوث الاعظم شیخ شیوخ العالم غوث الثقلین امام الطائفتین شیخ الطالبین شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ اور یہ احفاد عبداللہ محض بن حسن المثنیٰ بن امام المسلمین امام حسن بن امیر المومنین علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے (۱۲۶)

کہا عالم شیخ احمد مغربی گنج بخش نے اپنے رسالہ عربیہ مین (۱۲۷) کہا عالم میر محمد صادق قادری اورنگ آبادی نے اپنی کتاب محبوب المعانی مین (۱۲۸) کہا کتاب محبوب القلوب اردو مین (۱۲۹) کہا عالم حسن قطبی نے اپنی کتاب اللطائف القادریہ مین (۱۳۰) کہا عالم محدث محی الدین نووی نے اپنی کتاب بستان العارفین مین (۱۳۱) کہا عالم سید عطا حسین نے اپنی کتاب کنز الانساب نزدیک ذکر اولاد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے اور نسبت ثانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے (۱۳۲) کہا عالم فاضل کامل شاہ ابی معالی نے اپنی کتاب تحفۃ القادریہ اور ثابت کیا ہی نسب شریف حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا (۱۳۳) کہا عالم کامل صاحب تاریخ ابو عبداللہ سید محمد بن سید محمود بن سید احمد بن سید حسن حسینی ترمذی اکبرآبادی المدعو بمظہر الحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مخبر الواصلین مین جو تصنیف ہوئی ہو ۱۰۶۰ھ زمانہ شاہجہان شہاب الدین بادشاہ غازی دہلوی کے تاریخ ولادت ورحلت حضرت قطب الاقطاب غوث الثقلین شیخ الجن والانس سید محی الدین شاہ عبدالقادر الجیلانی الحنبلی رضی اللہ عنہ ۔ منظوم یہ ہے

آنکہ بیشک قطب ربانی بود	بیگمان محبوب سبحانی بود	شاہ شاہان شیخ عبدالقادر است	دلنشین و دلربا و دلبر است
سید عالی نسب میر اولیا است	نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ است	سال مولودش ز تاج کبریا	گفت ہاتف زیب تاج اولیا
سالِ مولودش کہ بس تحسین ترا	شد رقم محبوب عبدالقادر است	عقل نقل سال آن عالی شیم	صاحب فردوس اعلیٰ زد رقم

ایضاً لہ

آنکہ محبوب حضرت حق است	مہر آفاق رحمت حق است	قطب بغداد غوث جیلانی	لیس فی الدہر مثلہ ثانی
او بمشق چرخ مہ رکاب آمد	قدمش مالک الرقاب آمد	لقب او بدان بصدق و یقین	قطب کونین شاہ محی الدین
ذات او صاحب کرامات است	بیگمان آبروی سادات است	حیلی و حنبلی و بغدادی	بیشک و شبہہ مہدی و ہادی
حسنی و حسینی است شریف	احسن و محسن لطیف و نظیف	پدرش راست نسبت احسن	بیشک و ریب با امام حسن
مادرش را بجعفر صادق	نسب راسخ است و ہم واثق	ہر کرا بر سیادتش سخن است	دو منش زن کہ گندہ تر دہن است
رافضی گفت شاہ سید نیست	گفتہ رافضی موید نیست	خارجی گفت آن بلند نژاد	فی زنی و اشتہ است فی اولاد

آنکہ اولاد اوست بیشک دان
ذات آن شاہ روشن است چو ماہ
وصف او را شمار نتوانم
سال فرخندہ ولادت او
بیشک و شبہ از ربیع دوم
گفت سال وصالش اہل دل
شد رقم سال نقل آن غنا لے
ہادی خلق بود سوی خدا

بست نسل برادرش بجہان
باز اولاد او برفعت و جاہ
بلکہ یک از ہزار نتوانم
ولی مالک الرقاب بگو
روز آدینہ بود یازدہم
صاحب رونق جنان رضوانش
قدس اللہ روحہ العالی
قدس اللہ سرہ ابدا

ہمچنین گفتگوی نامقبول
تا قیامت ہمیشہ معمور است
سال مولود آن معلی شان
سال مولود آن سعید ازل
کہ ز دنیا باوج علیین
گفتہ ام سال نقل آن حق رس
مرقد پاک اوست در بغداد

آن دو بدکیش گشتہ اند فضول
ور دو آفاق فائض النور است
ہاتفم گفت کاشف دو جہان
سر اقطاب و اولیای اجل
ہمچو خورشید شد ز روی زمین
قطب اقطاب عالم اقدس
اہل عالم از و گرفتہ مراد

(۱۳۴) کہا عالم فاضل شیخ کامل قدوۃ السالکین شیخ معظم سید آدم بنوری نقشبندی قدس سرہ بن سید اسمٰعیل بن سید بہوہ بن سید حاجی یوسف بن سید سید یعقوب بن سید حسین بن سید اقبل بن سید سعدی بن سید قلندر بن سید محمد بن سید علی بن سید ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امیر المومنین علی رضی اللہ عنہم اجمعین مہاجر مدینہ منورہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نکات الاسرار میں تحریر کیا ہے کہ ایک روز مجلس شیخ فرید الدین محمد شکر گنج قدس سرہ رونق افروز ہوئے اور کہا کہ شیخ فرید قدس سرہ نے فرمایا کہ قدم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا رکھا حضرت شیخ معین الدین قدس سرہ نے اپنی گردن پر اگر میں اوس زمانہ میں ہوتا تو قدم مبارک میں اپنی آنکھوں کے کاسہ پر رکھتا اور یہ منصب میرا ہوتا اور افتخار میرا ہوتا ۔ (۱۳۵) کہا حرز القادریہ میں روایت ہے حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ رکھا اپنا سجادہ امانت اپنے محب کے پاس اور وصیت کی اسکو حفاظت سے رکھنا اور رہا تھہ بہا تھہ تا قرن خامس تک کہ ظاہر ہوگا غوث اعظم اور مسمی ہے ساتھہ سید عبد القادر حسنی گیلانی اور یہ امانت اونکی ہی ادا کرنا اور سلام میری طرف سے پہنچانا انتہی (۱۳۶) کہا شیخ محمد بن شیخ یحییٰ تادفی نے اپنی کتاب قلائد الجواہر میں اور کہا قطب ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات لواقح الانوار میں اور شیخ محدث عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زبدۃ الاسرار میں روایت کیا شیخ محمد شنبکی رحمۃ اللہ

معالم

علیہ نے بدرستیکہ کہا شیخ ہمارے ابو بکر بن ہوار البطایحی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے تہے اور کہا اوتاد عراق کے آٹھ ہین معروف الکرخی و امام احمد بن حنبل و بشر حافی و منصور بن عمار و جنید بغدادی و سری سقطی و سہل بن عبد اللہ تستری و شیخ سید عبد القادر جیلانی کہا نے کہ شیخ سید عبد القادر کون ہی اور کہا کہ مرد عجمی شریف ہی کہ سکونت کریگا بغداد مین اور ظاہر ہوگا قرن خامس مین اور ایک فرد ہوگا صدیقین اور اوتاد اور اقطاب سے اپنے زمانہ مین انتہی (۱۳۷) کہا بدر الدولہ امام علماء قاضی الاسلام محمد صبغۃ اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نثر الجواہر فی مناقب شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مین انتہی (۱۳۸) کہا کتاب حبل متین مین انتہی (۱۳۹) کہا عالم ربانی شیخ لاثانی سید جلال الدین بخاری قدس سرہ نے اپنی کتاب تحفۃ الاسرار مین (۱۴۰) کہا عالم فاضل کامل عبد اللہ بلخی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خوارق الاخیار مین (۱۴۱) کہا عالم علامہ حبر فہامہ شیخ شرف الدین سید عیسی بن حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جواہر الاسرار مین (۱۴۲) کہا عالم عامل شیخ کامل بدیع الدین شاہ مدار رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ملفوظات مین (۱۴۳) کہا شیخ جلال الدین سہروردی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر العارفین مین (۱۴۴) کہا شیخ عبد الرشید بن محمد جنیدی قدس سرہ نے اپنی کتاب حبل العاشقین مین (۱۴۵) کہا ولی کامل سید مخدوم جہانیان جہان گرد قدس سرہ العزیز نے اپنی کتاب سیر المسافرین مین انتہی (۱۴۶) کہا زبدۃ الاولیاء و العارفین التقین خواجہ حسن معین الدین سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ بن خواجہ غیاث الدین سنجری بن خواجہ نجم الدین طاہر بن خواجہ عبد العزیز مطہر بن سید مصطفی بن سید ادریس بن امام سید موسی کاظم رضی اللہ عنہ بن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بن امام محمد باقر رضی اللہ عنہ بن امام زین العابدین علی رضی اللہ عنہ بن امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ بن امام و امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی کتاب تشریح الاولیاء مین تاریخ وفات خواجہ قدس اللہ سرہ العزیز روز یوم جمعہ ششم رجب ۶۳۳ھ مین قبر شریف اجمیر شریف مین انتہی (۱۴۷) کہا شیخ بہاء الدین آملی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انیس القادریہ مین (۱۴۸) کہا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خلاصۃ القادریہ مین (۱۴۹) کہا شیخ سید محمود گیسو دراز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحائف الغرائب

مین (۱۵۰) کہا سید محمود قادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اوراد قادریہ مین (۱۵۱) کہا ولی کامل شیخ فرید الدین شکر گنج رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اسرار السالکین مین نسب شریف شیخ المسلمین شیخ فرید الدین ابن شیخ جمال الدین سلیمان ابن فرخ شاہ والی کابل ابن شیخ محمود ابن شیخ محمد خلیل ابن شیخ عبدالجلیل ابن شیخ عبدالجبار ابن شیخ عبداللہ صحرائی ابن شیخ عمر اسطاری ابن شیخ محمد زکریا ابن شیخ ابراہیم ابن شیخ قاسم ابن شیخ حضرت عبداللہ بن امیرالمومنین وامام العادلین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم اجمعین سال عمر شریف ۱۰۰ اور وفات ہوئی یوم سہ شنبہ تاریخ ۵ محرم ۶۷۰ھ قبر شریف پاک پٹن ضلع ملتان مین (۱۵۲) کہا عالم ربانی متبحر لاثانی مولانا نورالدین عبدالرحمٰن جامی قدس سرہ السامی نے اپنی کتاب شواہد النبوۃ مین (۱۵۳) کہا شیخ محمد ابراہیم بدری رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات حقیقۃ الحقایق مین انتہی (۱۵۴) کہا شیخ موسیٰ تہتوی قدس سرہ نے اپنی کتاب عاملۃ القصہ مین (۱۵۵) کہا عالم کمال الدین بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف اللطیفہ مین (۱۵۶) کہا شیخ داؤد قیصری رحمہ اللہ نے اپنی شرح فصوص مین (۱۵۷) کہا عالم مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خزینۃ الاصفیا مین جو مناقب جمیع خوارق وکرامات وثبوت نسب شریف اٹھارہ کتاب سے ثابت کیا ہے حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کا یہ کتاب لاہور مین عام ہے محبوب الثقلین سید الکونین ابومحمد محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی ابن سید صالح موسیٰ ابن سید عبداللہ ابن سید یحییٰ زاہد ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ ثانی ابن سید عبداللہ ثانی ابن سید موسیٰ جون ثالث ابن سید عبداللہ محض ابن سید محمد مشہور حسن مثنیٰ ابن الامام سیدنا حسن بن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم اجمعین (۱۵۸) کہا عالم محمد شاہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلطان الاذکار مین (۱۵۹) کہا کتاب تنویر السیر مین حضرت غوث الاعظم قطب الاکرم سلطان الاولیا برہان الاصفیا قطب الاقطاب فرد الاحباب غوث الثقلین کہف الخافقین محی الدین ابومحمد سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سید حسنی ہین جانب پدر سے اور حسینی ہین جانب مادر سے تولد ہوئے گیلان مین اور یہ ہے نسب شریف جانب پدر سے سید محی الدین ابومحمد عبدالقادر جیلانی ابن سید ابوصالح موسیٰ جنگی دوست ابن سید عبداللہ ابن سید یحییٰ زاہد ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ ثانی ابن سید

عبد اللہ ابن سید موسی جون ابن سید عبد اللہ محض ابن سید حسن مثنی ابن سیدنا امام حسن ابن امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہم اجمعین انتہی (١٦٠) کہا قاضی محمد یوسف نے اپنی کتاب زین المجالس مین (١٦١) کہا ابن اہدل نے اپنی تاریخ ترجمہ مین (١٦٢) کہا شریف تونسی نے اپنے منظوم مین (١٦٣) کہا امام عینی رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ غوث جیلانی مین (١٦٤) کہا ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ کبیر مین انتہی (١٦٥) کہا سید عبد الرزاق ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ مین انتہی (١٦٦) کہا عالم مقدسی رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ مین (١٦٧) کہا عالم ابن کثیر محدث رحمہ اللہ نے اپنے مورخ ترجمہ مین انتہی (١٦٨) کہا کتاب اقتباس الانوار مین انتہی (١٦٩) کہا در میان کتاب اخبار الاولیاء مین انتہی (١٧٠) کہا شیخ محمد ہاشم بیجاپوری علیہ الرحمہ نے اپنے رسالۃ الاولیا مین جو نام اوسکا ہو انتہی (١٧١) کہا امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی کتاب مکتوبات تیسری جلد جو مسمی معرفۃ الحقائق ہو اوسمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی جاننا چاہیے کہ راہ بجناب باریتعالی کے جو موصل یعنے ملانیوالے دو ہین اور رہ رستہ جو ساتھہ نزدیکی کے تعلق رکھتا ہو وعلی اربابہا الصلوۃ والسلام و موصل اصل الاصل ست اور ملانیوالا اصل کا اصل ہے یعنے جڑ ہے اور واصلان یعنے پہنچانے والے یعنے اللہ تعالی سے پیوست کرنیوالے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات ہین اور اصحاب اور جمیع امت یہان تک ہر کسی کو اس دولت کے ساتھہ نوازش فرماوین اگرچہ اندک ہو وین بلکہ اقل اس رستہ مین توسط وحیلولت نہین ہو جو کوئی ان واصلو نسے فیض مند ہوتا ہو بغیر واسطہ ایک کے جو اصل سے لیتا ہے اور کوئی ایک دوسرے کو حاصل نہین ہو اور رستہ ہو کہ ساتھہ قرب ولایت کے تعلق رکھتا ہے اقطاب واوتاد و بدلا نجبا عام اولیاء اللہ اس رستہ مین واصل یعنے ملے ہوئے ہین رستہ سلوک عبارت اس رستہ سے ہے بلکہ جذبہ متعارفہ بھی داخل اسمین ہو اور توسط وحیلولت اس رستہ مین کائن یعنے واقع ہے اور پیشوا واصلون کا اس رستہ کا اور سردار انکا اور منبع فیض ان بزرگوارونکا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ ہے اور یہہ منصب عظیم الشان اس جناب سے تعلق رکہتا ہو اور اس مقام مین گویا ہر دو قدم مبارک آنسرور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فرق مبارک اوسکے ہو کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا وحضرات حسنین رضی اللہ عنہما اس

مقام مین شریک ہین ساتھ جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے جانو اس بات کو کہ حضرت امیر پہلے پیدایش
عنصری صاحب اس مقام کے تھے چنانچہ بعد از پیدایش عنصری کے جسکو فیض اور ہدایت اس رستہ
سے پہنچتا ہے بواسطہ جناب پہنچتا ہے حضرت نزدیک منتہای نقطہ دایرہ اس رستہ کا اور مرکز اس مقام کا
تعلق انسے ہے اور جو دورہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا تمام ہوا یہ منصب عظیم القدر حضرات حسنین رضی اللہ
عنہما کو سپرد ہوا تسلیم کر چکے اور بعد حسنین شریفین رضی اللہ عنہما کے بارہ امام رضی اللہ عنہم کو بموجب ترتیب
اور تفصیل قرار پایا اور بیچ اعصار ان بزرگواروں کے ایساہی بعد وفات ان بزرگواروں کے جسکو فیض
اور ہدایت پہنچتا ہے ساتھ واسطہ ان بزرگواروں کے ہے اور اونکے وسیلے سے اور واسطہ سے ہرچند
یعنے اگرچہ اقطاب اور نجبا وقت ہووین ملاذ و ملجا یعنے آرزو اور جگہ پناہ کی سب بزرگوں کی یہ حضرات
تھے کیا اطراف کو غیر از لحوق این مرکز یعنے بغیر ملاپ اس مرکز کو چارہ یعنے علاج نہین ہے یہانتک جو
نوبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ النورانی کو پہونچی اور جو نوبت اس بزرگوار کی ہوئی
منصب مذکور حضرت شیخ سید عبدالقادر قدس سرہ مفوض گشت یعنے سپرد ہوا اور درمیان ائمہ مذکورین
و حضرت شیخ سید عبدالقادر قدس سرہ کوئی آدمی اس مرکز پر مشہود نہین ہو سکتا ہے اور وصول فیض
و برکات اس رستہ مین جو کوئی ہو خواہ اقطاب سے یا نجبا سے ساتھ واسطہ شریف کے مفہوم ہے
اور یہ مرکز یعنے مرتبہ دوسرے کو میسر نہین آتا ہے اس سے ہے کہ جناب نے فرمایا ہو کہ شعر

افلت شموس الاولین وشمسنا		ابدا علی افق العلی لا تغرب	

مراد شمس یعنے آفتاب سے فیضان و ہدایت اور ارشاد ہے اور یہ مرتبہ حضرت پر قرار پایا اور واسطہ وصول رشد
اور ہدایت کے ہوئے بغیر واسطہ حضرت شیخ رضی اللہ عنہ کے خدا تعالی سے واصل نہین ہو سکتا ہے الخ
(۱۷۲) کہا شیخ موسی تہتوی سہروردی نے اپنی کتاب تفریح الخاطر مین اور نقل کیا کتاب مکاشفات
جنیدیہ سے کہ تجلی کیا اللہ تعالی نے اوپر سردار طریقہ اور سردار طائفوں کا حضرت شیخ جنید بغدادی
قدس اللہ سرہ کے دن جمعہ کے درمیان خطبہ کے اور مستغرق ہوئے بحر مکاشفہ شہود مین اور کہا حضرت
شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قدم آپ کا ہماری گردن پر ہے بغیر انکار کے اور سر جھکایا ہے اور اوترے منبر

کے پایہ سے اور بعد تمام کرنے خطبہ اور نماز کے ہوش مین ہوئے اور سوال کیا انسے جو کیفیت گذری درمیان خطبہ کے کہا سردار طائفہ نے اللہ تعالی نے کشف کیا میرے کو یعنے دکھایا عالم غیب سے بدرستیکہ ظاہر ہوگا درمیان قرن خاص کے ایک مرد اولاد سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہوگا قطب عالم کیواسطے اور ملقب ہوگا ساتھہ نام محی الدین اور مسمی ساتھہ عبدالقادر رضی اللہ عنہ اور یہ غوث اعظم ہوگا اور پیدائش انکی گیلان مین اور مامور ہوگا ساتھہ کہنے قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی و ولیۃ اللہ من الاولین والآخرین سوی الصحابۃ والائمۃ من ذریۃ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین انتہی (۱۷۳) کہا عالم فاضل ادیب شیخ مصطفے البابی الحلبی رحمہ اللہ نے اپنے دیوان مین قصیدہ اور مدح کیا ہی ساتھہ اسکے حضرت سیدنا و مولانا شیخ الاسلام والمسلمین غوث الثقلین سید محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ عنہ اور شعر قصیدہ کا یہ ہے **شعر**

برتألق دیضاد الدجاھادی		علی العواصم من اکناف بغدادی	

یہ سب بیس اشعار ہین عربی مین تحریر مین آخر تک (۱۷۴) کہا ملفوظ غیاثی مین (۱۷۵) کہا درمیان ہدایۃ الاحوال مین (۱۷۶) کہا منازل الاولیا ء من (۱۷۷) کہا کتاب التباس مین (۱۷۸) کہا مرآۃ الضمیر مین (۱۷۹) کہا انوار محمدی مین (۱۸۰) کہا مجموعۂ فضایل مین (۱۸۱) کہا عالم علامہ مولوی غلام دستگیر مرحوم نقشبندی ہندی نے تحفہ دستگیریہ مین (۱۸۲) کہا تنویر السیر مین اور بیان کیا تواریخ اجداد کرام حضرت غوث الثقلین و قطب الکونین ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ کے تا جناب امیرالمومنین امام حسن رضی اللہ عنہ تک بدانکہ بدرستیکہ حضرت غوث الاعظم وقطب الاکرم سلطان الاولیا برہان الاصفیا قطب الاقطاب فرد الاحباب غوث الثقلین کہف الخافقین سید ابو محمد عبدالقادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا سید حسنی ہین جانب پدر سے اور اور سید حسینی ہین جانب مادر سے اور والدہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی زاہد کے ہین اور پیدا ہوئے سال چارسو اکہتر ہین اور وفات ہوئی سال پانچ سو باسٹھہ مین اور حضرت غوث رضی اللہ عنہ بیٹے سید ابو صالح موسی جنگی دوست کے نام موسی اور لقب جنگی دوست اور کنیت ابوصالح

بیٹے سید عبداللہ کے اور والدہ انکی عائشہ بنت شیخ ابو النصر بن شیخ عبداللہ کے جو مشایخ کبار جیلان کے
مین اور پیدا ہوئے دن چہار شنبہ کے تاریخ ۱۵ ماہ شعبان کے زمانہ شاہ محمود بن شاہ علاء الدین سنہ
ہجریہ مین جب عمر ہوئی اوہتر برس کی تب پیدا ہوئے سید عبد القادر اول ماہ رمضان مین اور زندگانی پایا
نواسی برس تک اور وفات ہوئی جمعہ کے دن ۱۲ تاریخ ماہ ربیع الاول کے بیچ زمانہ شاہ عباس بن شاہ
محمود کی قبر شریف جیلان مین اور نقش نگین انگشتری کا هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ اور خادم احمد بن صالح اور
اولاد دو سید عبد القادر قدس سرہ و سید محمد اور سید محمد وفات ہوئے جوان انتہی سید عبداللہ صالح مذکور
نام عبداللہ و لقب صالح و کنیت ابی محمد صادق ابن سید یحیی زاہد کے اور والدہ حمیدہ دختر شیخ عقیل
ابن شیخ موسی جیلانی اور پیدایش انکی جیلان مین روز چہار شنبہ تاریخ ۱۱ محرم بیچ زمانے شاہ علاء الدین
بن شاہ فیروز سال ۴۲۴ جب عمر بیس سال کی ہوئی تب پیدا ہوئے سید ابو صالح عبداللہ سال عمر ۴۹
زندگانی کیا اور وفات ہوئی یکشنبہ کے دن مرض تپ دق سے تاریخ ۷ ماہ صفر کے بیچ زمانے شاہ ضیاء الدین
بن شاہ علاء الدین کے نقش انگشتری مین وما امروا الا لیعبدوا اللہ اور خادم محمد ہاشم اور دو فرزند پیدا ہوئے
ایک عبد الوہاب اور دوسرا ابو صالح سید عبداللہ اور بحر الانساب مین ہے کہ جامع اور مستغرق تھے ساتھ ذکر
سبحانہ و تعالی کے اور یا اسم انت الحق لیس الهادی الا هو اور قبر شریف جبل کنور
مین جو نزدیک ہے قریہ بدر تیما کے انتہی سید یحیی زاہد مذکور بن سید محمد نام یحیی لقب زاہد و تقی اور کنیت
ابو علی اور والدہ شریفہ فاطمہ دختر شیخ محمد بن احمد باقلانی مشایخ کبار اور سردار زاہدون کا اور احوال عالی
صاحب کرامات ظاہر کے پیدا ہوئے سنیچر کے دن ماہ شوال مین قریہ قلمینا جو نزدیک ہے گیلان کے بیچ
زمانے شاہ فیروز بن شاہ عزت کے جب عمر ہوئی ۱۹ سال کی تب پیدا ہوئے سید ابو صالح عبداللہ جیلانی
محلہ توران مین ۴۰۰ھ اور سال عمر ۴۸ اور وفات ہوئی جمعہ کے دن ۲۹ تاریخ ماہ رمضان مین مرض
کابوس سے قبر شریف جیلان مین اور نقش نگین انگشتری کی هو الحی القیوم اور خادم نور الحق بن
فضل نام اولاد پسر اور دختر پسر دو موسی و عبداللہ صالح اور دختر ایک نام سلیمہ اور موسی و سلیمہ
وفات ہوئے صغیری مین انتہی سید محمد مذکور بن سید داؤد نام محمد لقب عابدین اور کنیت

ابی

ابی احمد تاج الدین اور والدہ شریفہ حلیمہ بنت شیخ نجیب بن شیخ قاسم شبنکی پیدا ہوئے قلیبنا مین چہارشنبہ کے دن تاریخ ربیع الآخر بیچ زمانے شاہ سلیمان بن شاہ احمد ۲۵۲ھ جب سال عمر ۲۱ ہوئی پیدا ہوئے سید یحیی الزاہد سال عمر ۱۵ اور وفات ہوئی جمعہ کے دن تاریخ ۱۰ ماہ رجب کے بیچ زمانے شاہ سلیمان ابن شاہ احمد ۳۳۵ھ قلیبنا مین اور قبر شریف گیلان مین اور نقش نگین انگشتری کا ان اللہ بالغ امرہ اولاد ونکے نو مین پسر چھہ اور دختر تین اول عبدالواحد دوم عبدالوہاب سیوم عبدالرزاق چہارم یحیی زاہد پنجم عبدالقادر ششم احمد ۳ دختر یکے اینہ دوم زینب سیوم عایشہ وفات ہوئے آٹھہ آدمی صغیر قلیبنا مین باقی رہا یحیی زاہد اور خادم محفوظ بن زکریا انتہی سید داؤد مذکور بن سید موسی زکریا نام داؤد لقب سراج الدین اور کنیت ابابکر اور والدہ شریفہ فاطمہ دختر شیخ عثمان تستری بن شیخ محمد مشایخ کبار عراق کے پیدا ہوئے دوشنبہ کے دن تاریخ ۹ جمادی الثانی بیچ زمانے شاہ عزت بن شاہ مصطفے ۳۹۰ھ کیمانی ماہ رجب سال عمر ہوئی ستائیس کی تب پیدا ہوئے سید محمد اور زندگانی کیا ۹۳ سال اور وفات ہوئی پنجشنبہ کے دن تاریخ ۲۰ ماہ شعبان مرض افلج سے زمانے شاہ احمد بن شاہ نواز کے ۳۹۰ھ مین اور واسطے تحصیل کرنے علم بلخ اور شہر سمرقند کو گئے تھے سمرقند مین وفات ہوئی اور قبر شریف سمرقند مین اور نقش نگین انگشتری مین ان اللہ علی کل شئ قدیر خادم قاسم بن عمر اولاد سات نفر پسر چار دختر تین پسران ایک محمد قاسم دوم عبداللہ الحمد سوم محمد عابدین چہارم شہاب الدین اور دختر زینب وجنت وعزت انتہی سید موسی زکریا مذکور بن سید عبداللہ نام موسی لقب شرف الدین وکنیت ابوزکریا اور والدہ شریفہ حفیظہ دختر شیخ ابوسعید بن قائل ابن ابی عبداللہ صوفی پیدا ہوئے یکشنبہ کے دن تاریخ ۱۲ ماہ ذی الحجۃ الحرام بیچ زمانے سبحانقلیخان ابن سلطان قلیخان ۴۰۳ھ شہر نعمان مین جب عمر ہوئی بیس سال کی پیدا ہوئے سید ابابکر داؤد اور زندگانی کیا ۷۰ سال دس ماہ اور وفات ہوئی جمعہ کے دن ماہ ربیع الاول بیچ زمانے سلیمان قلیخان بن سبحان قلیخان ۴۸۴ھ نعمان مین مرض سرسام سے اور قبر شریف جیلان مین اور نقش نگین انگشتری کا ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین اولاد سے پسر عبدالوہاب عبدالقادر وابابکر داؤد عبدالقادر وفات ہوئے صغیر نعمان مین انتہی سید عبداللہ مذکور بن سید موسی جون نام سید عبداللہ لقب وکنیت ابوتاج الدین

اور والدہ شریفہ آمنہ دختر ماموں بن ہارون پیدا ہوئے چہار شنبہ کے دن بیچ ماہ رمضان کے شہر طوس
مین بیچ زمانے مقسط باللہ بن مقتد باللہ سنہ ۲۲۲ جب عمر ہوئی سترہ سال کی پیدا ہوئے سید موسی زکریا اور
اور زندگانی کیا ۵۸ سال ۹ ماہ اور وفات ہوئے شنبہ کے دن تاریخ ۷ ماہ جمادی الآخر بیچ زمانے
منعم باللہ بن مستقیم باللہ سنہ ۲۸۲ شتالف حرب مروانیون مین زخم نیزہ سے ہاتھ مسلم بن ابراہیم اولاد
برادر مروان کے شتالف مین اور قبر شریف نعمان مین اور نقش نگین انگشتری مین حسبی اللہ نعم الوکیل
نعم المولی ونعم النصیر خادم ہاشم بن احمد متوکل اور ایک پسر دو دختر یہ موسی زکریا و دختر عجوزہ
ورحمت عجوزہ ورحمت وفات ہوئین صغیر سنتالف مین انتہی سید موسی جون بن سید عبد اللہ محض
نام موسی لقب جون کنیت ابوشہاب الدین اور والدہ شریفہ لبابہ دختر شیخ فیض اللہ مشایخ کبار موصل
کے پیدا ہوئے روز شنبہ کے دن تاریخ ۷ ماہ رجب ۱۴۳ بیچ زمانے ماموں بن ہارون کے بیچ مین جب عمر ہوئی
۷۵ سال کی تب پیدا ہوئے سید عبد اللہ شہر طوس مین اور زندگانی کیا ۵۹ سال چہار ماہ اور وفات
ہوئی طوس مین روز جمعہ تاریخ ۷ ماہ صفر بیچ زمانے معتمد باللہ ابن منعم باللہ سنہ ۲۲۲ اور قبر شریف طوس
مین اور زندگانی کیا سال ۵۹ و چہار ماہ اور قاتل ہادی بن ماموں بن عبد الملک بن مروان اور نقش نگین
انگشتری مین لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم خادم محمد بن احمد متوکل پانچ پسر
اور دو دختر اول صالح دوم شرف الدین یحیی قاسم عبد اللہ نام دختران سلیمہ و دوم فاطمہ خلافت سید
عبد اللہ کو پہونچی قاسم یحیی صالح سلیمہ یہ چار دن وفات ہوئے صغیر طوس مین انتہی اور کنز الانساب مین ہے
کہ سید موسی جون پسر دختر امام محمد باقر رضی اللہ عنہ و نام بی بی صاحبہ شریفہ رقیہ نام اسنے پیدا ہوئے دو
پسر ایک سید ابراہیم اونکی اولاد نہین ہے اور سید عبد اللہ انکی اولاد ہے انتہی سید عبد اللہ محض مذکور
نام عبد اللہ ولقب محل اور کنیت ابو محمد بن الامام حسن مثنی اور والدہ شریفہ فاطمہ صغری بنت امیر المومنین
سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے روز پنجشنبہ تاریخ ۱۵ ماہ شعبان سنہ ۵۵ اور دوسری روایت
مین سنہ ۴۳ یہ قول صحیح ہے بیچ زمانے سلیمان بن ابراہیم کے شہر مسان مین جب ۲۹ سال کی عمر ہوئی
پیدا ہوئے سید موسی جون اور زندگانی کیا ۶۹ سال و پنج ماہ اور وفات ہوئے روز شنبہ تاریخ ۱۰

۲۰ ماہ

ماہ محرم ۲۴۳ھ زمانے ولید بن ابراہیم موصل میں اور نقش نگین انگشتری میں عالم الغیب والشہادۃ ھو الرحمٰن الرحیم خادم جعفر بن احمد متوکل اور اولاد پسران سات و دختران سہ ابوالقاسم محمد کنیت ابوالقاسم و موسیٰ الجون و ابراہیم و عبداللہ و یحییٰ و سلیمان و ادریس و دختران زبدۃ النساء و سکینہ و زینب انتہی اور نور الابصار میں ہے کہا سید مومن شبلنجی رحمہ اللہ نے وفات ہوئے عبداللہ محض اور برادر انکا بند یخانہ منصور عباسی میں اور وفات ہوئے ۱۴۵ھ اور کہا نام محض جمع لول بدرستیکہ درمیان امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے حسنیہ سے اور جمع ہوئے درمیان حسینیہ کے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ انتہی سید حسن مثنی ابن امام حسن رضی اللہ عنہ نام حسن لقب محمد و ابی عبداللہ اور کنیت ابوعبدالنبی اور والدہ شریفہ کدبانو دختر شید بن یزدجرد پیدا ہوئے روز دوشنبہ شہر شلوزان میں تاریخ ۲۹ ماہ رمضان کی ۲۵ھ زمانے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے جب ۱۵ سال کے ہوئے خواستگاری کی اپنے عم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر کی اور نکاح کیا فاطمہ بنت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور عمر ۲۰ سال کی ہوئی تب پیدا ہوئے عبداللہ محض اور زندگانی کیا ۶۵ سال اور وفات ہوئے روز پنجشنبہ تاریخ ۵ شہر شوال ۱۰۱ھ اور قبر شریف نیسان میں اور نقش نگین انگشتری میں واللہ بصیر بالعباد اور دوسری روایت ہے وفات ہوئے جناب حسن مثنی بن امام حسن رضی اللہ عنہ ۹۰ھ اور عمر شریف ۶۵ سال اور خادم احمد بن عبداللہ اور دو پسر ایک دختر عبداللہ محض و محسن اور دختر خیر النساء اور کنز الانساب میں ہے کہ جناب حسن مثنی کی والدہ شریفہ صفورہ دختر سعد ابن زید ابن الخطاب اور زید برادر تھا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اور کہا عمدۃ المحدثین و افضل متورعین محمد بن اسمٰعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح بخاری باب جنازہ میں باب ما یکرہ من اتخاذ المسجد علی القبور باب درمیان اوس چیز کے مکروہ ہے مسجد باندھنا قبروں پر ولما مات الحسن بن الحسن بن علی جو وفات ہوئے حسن مثنی بن حسن بن علی رضی اللہ عنہم ضربت امرأتہ القبۃ علی قبرہ سنۃ خیمہ کھڑا کیا بی بی فاطمہ صغریٰ نے قبر پر ایکسال کہ وہ دختر جناب امیر المومنین امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہیں ثم رفعت فسمعوا

صانها الاهل وجد واما فقد ولیپچھے اوٹھایا خیمہ کو اور آواز سنا غیب سے آواز کرنے والے کا جن سے ہو یا مسلمان یا ہاتف سے کہ کہتا ہے ایک دوسرے سے وانا اور ہوشیار ہو آیا پایا تم نے جس چیز کو گما یا تہا جواب دیتا ہو دوسرا فالجابہ آخر بل یئسوا فانقلبوا پس جواب دیا دوسرے نے بلکہ ناامید ہوا اور پھر گئے اور تطبیق روایت یون ہو کہ خیمہ کھڑا کیا تہا البتہ تار پہونچتی ہوگی اہ اور ایسا ہی تیسیر القاری شرح بخاری اور شیخ الاسلام شرح بخاری مین ہو اور نور الابصار مین ہو انتہی اور انہار المفاخر مین کہ جناب امام حسن مثنی کربلا مین تھا اپنے عم جناب امیر المومنین امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بعد از شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اہل بیت کے بیچ بند یزیدونکے تھے پیچھے آیا اسما بن خارجہ اور یزیدون سے حسن مثنی کو چھڑا لیا اور کہا اللہ کی قسم ہو کہ نہین پہونچیگا اوسکو دکھ انتہی بن۲۲ امام حسن رضی اللہ عنہ اور والدہ شریفہ سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بنت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیدایش جناب امیر المومنین امام حسن رضی اللہ عنہ کی تاریخ نصف رمضان ۳ھ ہجریہ مقدسہ مدینہ منورہ مین اور ۲۵ حج کیا بیت اللہ شریف کا پیادہ یعنے پاؤن سے اور عمر شریف ۴۷ سال اور شہید ہوئے زہر سے ایک بڑھیا نے زہر دیا امام رضی اللہ عنہ کو اور یوم پنجشنبہ وفات ہوئے زہر سے اور مشابہت رکھتے تھے ساتھ جناب سرور کائنات شفیع عرصات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبر شریف مدینہ منورہ مین بقیع شریف مین اور دس پسر تہے (۱) زید (۲) حسن مثنی (۳) عمرو (۴) قاسم (۵) عبداللہ (۶) عبدالرحمن (۷) حسین (۸) اثرم (۹) طلحہ (۱۰) اسحاق رضی اللہ عنہم تہے اور دختران چھ ابن امیر المومنین ۱۳ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور شجاعت اور کرامات خوارق عادات بہت ہین عمر شریف ۶۳ سال صحیح اقوال مین اور شہید یعنے وفات ہوئے روز جمعہ تاریخ ۱۹ ماہ رمضان شریف مین ۴۰ھ ہجریہ مقدسہ مین اور قبر شریف مین اختلاف ہو چنانچہ نور الابصار کی یہہ عبارت ہے ودفن فی الغری لیلا موضع معروف یزار الی الآن وقیل بالنجف وفیہ وقیل دفن فی منزلہ والمسجد وقیل دفن بقصر الامارۃ بالکوفۃ کذا فی الفصول وقیل وغیر ذلک بعض نے کہا کہ جس منزل مین شہید ہوئے درمیان گھر اور مسجد کے اور بعضی نے کہا کوفہ مین اور بعضے نے کہا نجف مین اور تواریخ بلخ مومن خانی اور

بعونہ

سفینۃ الاولیاء اور مرآت الاولیاء میں کہ قبر شریف بلخ میں ہے الحال گنبد اعلی و مسجد و ہزار در ہزاران زیارت کو زوار آتے ہیں اور اپنے مقاصد اور مشکلات حل ہوتے ہیں چنانچہ اندھے اچھے صاحب بصارت ہو جاتے ہیں اور لنگڑے اور گنگے اچھے ہوتے ہیں یہ مسکین چھ برس بلخ شہر تاشقورغان میں تھا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوں اور روزانہ کھل جاتا ہے بغیر چابی کے اور نذر نیاز کا اندازہ نہیں ہے (۱۸۳) کہا سید اسمٰعیل بغدادی نے اپنی کتاب فیوضات الربانی فی مناقب شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ میں انتہی (۱۸۴) کہا عالم ربانی نے اپنی کتاب نجم الزاہر فی المفاخر سید عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ میں انتہی (۱۸۵) کہا عالم داؤد اجودی رحمہ اللہ نے درمیان ملفوظات سید عبد الرزاق ابن غوث جیلانی رضی اللہ عنہ میں (۱۸۶) کہا عالم فاضل محمد علی خان نے اپنی کتاب احسن الاذکار فی مناقب غوث الابرار میں ثابت کیا ہے نسب شریف کو اور ثابت کیا ہے قدم شریف حضرت کو سب اولیاء اللہ کی گردن پر انتہی (۱۸۷) کہا حضرت سید غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے کتاب اسرار الطالبین میں انتہی (۱۸۹) کہا ابو الحسنات قطب الدین قادری قریشی نے اپنی کتاب اعجاز غوثیہ میں انتہی (۱۹۰) کہا عالم مفتی مولانا محمد سعید نے اپنے رسالہ قول الجلی میں (۱۹۱) کہا ابن حجر نے اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ میں انتہی (۱۹۲) کہا عالم علامہ شیخ احمد بن محمد الوتری الموصلی الشافعی الرفاعی نے اپنی کتاب روضۃ الناظرین میں انتہی (۱۹۳) کہا زین الجالس میں قاضی محمد یوسف نے انتہی (۱۹۴) کہا امام عبد اللہ یافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تکملہ خلاصۃ المفاخر میں انتہی (۱۹۵) کہا کتاب حقیقۃ الحقایق میں انتہی (۱۹۶) کہا اور میان کتاب حیاۃ الحیاۃ میں انتہی (۱۹۷) کہا اور میان کتاب گلشن کرامات میں انتہی (۱۹۸) کہا کتاب مخارق القادریہ میں انتہی (۱۹۹) کہا کتاب مرآت الیضقان میں (۲۰۰) کہا شجرۃ الانساب اہل بغداد شریف نے اور وہ عبارت عربی فارسی میں مطبوع ہو گئی ہے (۲۰۱) کہا عالم علامہ سید حاجی قاضی طلا محمد پشاوری نے اپنی کتاب عروۃ الوثقی میں جو سلسلہ قادریہ منظوم چہار قسم کیا ہے جو سلسلہ حضرت قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین مجدد الدین سالک کامل عارف مکمل مخزن اسرار و حضور حضرت مولانا شیخ عبد الغفور رحمہ اللہ الشکور المعروف بحضرت آخوند صاحب آف

علیہ الرحمہ والثقات میں سب اسل منظوم عربی و فارسی تحریر ہوگئے ہیں حاجت تکرار کی نہیں ہے

الفصل الاول فی بیان نسبہ الشریف محبوب سبحانی القندیل النورانی غار یزدانی الشیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی الحنبلی العراقی رضی اللہ عنہ وھو متصل نسبہ الشریف من جانب الام الی الامام الھمام سیدنا الامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثبتت بروات المعتدات من المعتبرات الثقات علماء المحدثین والمورخین والفقہاء الکاملین العاملین رحمہم اللہ علیہم اجمعین الاول قال العالم العلامۃ والحبر الفہامۃ الشہیر الساری فی الملاء مولینا علی القاری رحمہ اللہ الباری فی کتابہ نزھۃ الخاطر الفاتر واما نسبہ الشریف لامہ بالامام الھمام سید الشہداء ابی عبد اللہ الحسین ابن سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کما ذکرہ غیر واحد من العدول والثقاۃ علی ھذا الوجہ والمنوال وان السید الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن السیدۃ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت السید عبد اللہ الصومعی الزاھد ابن السید ابی جمال الدین محمد ابن السید محمود ابن السید ابی العطا عبد اللہ ابن السید کمال الدین عیسیٰ ابن سید الامام ابی علاء الدین محمد الجواد ابن الامام علی الرضا ابن الامام موسی الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین ابن الامام الھمام سید الشہداء ابی عبد اللہ الحسین ابن الامام الھمام امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین وبہ تبین ان حضرۃ سیدنا الشیخ السید عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید شریف الطرفین صحیح النسبین من الابوین للامامین الاحسنین الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بحسب الابتداء الذی علیہ مدار الانتہاء متواتر صحیح ظاھر کظہور الشمس فی رابعۃ النہار لایقبل الخصمۃ والنزاع والتاویل والدفاع کما علیہ الاجماع رغما للمبتدع الرفضۃ اھل الزیغ والنفاق والشقاق والحسد حفظنا اللہ والمسلمین من کید الحاسدین الضالین المضلین الذین یحسدون الناس علی ما اتاھم اللہ من فضلہ وھو ارحم الراحمین فلاحاجۃ

لاقامۃ الدلیل علی ھذا النسب الشریف الواضح البرھان الثابت البنیان المشھور فی کل
مکان کما قال الشاعر فلا یصح فی الاذھان اذا احتاج النھار الی دلیل انتھی وعن ابن عمرؓ قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع امتی اوقال امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ
وید اللہ علی الجماعۃ ومن شذ شذ فی النار رواہ ابن ماجہ من حدیث انس رضی اللہ عنہ
انتھی کذا فی المشکوٰۃ وعن ابی ذرقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعۃ قدر
شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ رواہ احمد وابوداؤد وعن مالک بن انس مرسلا انتھی
کذا فی المشکوٰۃ الثانی قال العالم الامام الغطریف الحسیب النسیب الشریف علی علاء الدین الثانی
ابن سید احمد ابن سید علی الھاشمی الکیلانی الحسینی نقیب حماہ قدس سرہ فی کتابہ المسمی
تحفۃ الابرار ولوامع الانوار فی بیان النسب سیدنا القطب الربانی محی الدین السید عبدالقادر
الکیلانی رضی اللہ عنہ من جانب الام امہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید ابی عبداللہ
صومعی الزاھد بن السید ابی جمال الدین محمد بن السید محمود بن السید ابی العطاء عبداللہ بن
السید کمال الدین عیسی بن السید ابی علاء الدین محمد الجواد بن الامام علی الرضا بن السید
الامام موسی الکاظم بن السید الامام جعفر الصادق بن السید الامام زین العابدین
بن السید الامام حسین بن الامام امیرالمومنین علی ابن ابیطالب رضی اللہ عنہ ورضی اللہ
تعالی عنہم انتھی الثالث قال العالم العلامۃ والامام الغطریف السید جعفر ابن السید
حسن ابن السید عبدالکریم البرزنجی المدنی مفتی الشافعیۃ بالمدینۃ المنورۃ صاحب المولد
النبوی المنظوم والمنثور والمشھور قدس اللہ روحہ فی کتابہ الجنی الدانی فی نبذۃ من مناقب
القطب الربانی سیدنا الغوث الاعظم السید محی الدین عبدالقادر الجیلانی الحسنی الحسینی
رضی اللہ عنہ اللھم انشر نفحات الرضوان علیہ وامدنا بالاسرار التی اودعتھا لدیہ وامہ رضی اللہ
عنہ ھی السیدۃ الشریفۃ والدرۃ المنیفۃ الحسینیۃ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت السید عبداللہ
الصومعی الزاھد ابن السید ابی جمال الدین محمد ابن السید محمود ابن السید ابی العطاء عبداللہ

ابن السید کمال الدین عیسی ابن السید الامام ابی علاء الدین محمد الجواد ابن الامام علی الرضا ابن الامام موسی الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین ابن الامام الهمام سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین ابن الامام الهمام امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین الرابع قال العالم العلامۃ والحبر الفہامۃ الشیخ عبدالقادر بن محی الدین الاربلی رحمہ اللہ فی کتابہ تفریح الخاطر واما نسبہ من طرف والدتہ فہی ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت السید ابی عبداللہ الصومعی الزاهد ابن السید ابی جمال الدین محمد ابن السید محمود ولقبہ طاہر ابن الامام ابی العطا السید عبداللہ ابن الامام السید کمال الدین عیسی ابن الامام ابی علاء الدین محمد الجواد ابن الامام علی الرضا ابن الامام موسی الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین ابن الامام ابی عبداللہ الحسین ابن الامام علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین الخامس قال العالم الفاضل سلالۃ الافاضل البارع الظریف حائز قصب السبق فی التالیف الزکی الشیخ السید محمد المکی ابن الاستاذ سیدی مصطفی ابن عزوز التونسی نفعنا اللہ ببرکاتہ آمین فی کتابہ السیف الربانی فی عنق المعترض علی الغوث الجیلانی رضی اللہ عنہ فالصومعی شریف حسینی رغما علی المعترض کما ذکرہ غیر واحد من العدول والثقات هذا لفظ الشیخ علی القاری فالامام الجیلی حسنی من جہۃ الاب حسینی من جہۃ الام ونسبہ الحسینی هو ان امہ السیدۃ ام الخیر امۃ الجبار بنت ابی عبداللہ الصومعی ابن ابی جمال الدین محمد ابن محمود بن ابی العطا عبداللہ بن عیسی کمال الدین بن ابی علاء الدین محمد الجواد بن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین السبط رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین انتہی السادس قال العلامۃ الشیخ الامام سراج الدین عمر ابن الملقن الانصاری الشافعی تغمدہ اللہ برحمتہ فی کتابہ درر الجواہر فی مناقب سیدی عبدالقادر الحسنی الحسینی رضی اللہ عنہ وام سیدنا عبدالقادر المشار الیہ رضی اللہ عنہ

ھمام الخیر امۃ الجبار فاطمہ قدس سرھا کانت من کبار الاولیاء بنت سید عبد اللہ الصومعی الزاھد ابن السید جمال الدین محمد ابن السید محمود ابن السید ابی العطاء عبد اللہ ابن السید کمال الدین عیسی بن السید ابی علاء الدین محمد الجواد ابن السید الامام علی الرضا ابن الامام موسی الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین علی ابن الامام سیدنا الحسین ابی عبد اللہ ابن الامام امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین انتہی السابع قال العالم السید مومن المعروف بالشبلنجی فی کتابہ نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار فی ذکر مناقب محمد الجواد ابن علی الرضا ابن موسی الکاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین الثامن قال القطب الاکرم والغوث الاعظم رضی اللہ عنہ فی کتابہ فتوح الغیب فی بیان تکملۃ النسب لہ التاسع قال گفتہ شیخ محمد صادق شہابی سعدی قادری در کتاب خود مناقب غوثیہ می نگارد اما اصول مادری این است والدۂ آنحضرت ام الخیر فاطمہ بنت سید ابو عبد اللہ الصومعی الزاہد بن سید ابو جمال الدین محمد بن سید ابو محمود طاہر بن سید ابو عطا عبد اللہ بن سید ابو الکمال الدین عیسی بن سید علاء الدین محمد الجواد ابن السید الامام علی الرضا ابن السید الامام موسی الکاظم ابن السید الامام جعفر الصادق ابن السید الامام محمد الباقر ابن السید الامام زین العابدین ابن السید الامام الحسین ابن الامام علی المرتضی کرم اللہ وجہہ انتہی العاشر قال گفتہ عالم علامہ فاضل یگانہ جامع معقول ومنقول حاوی فروع واصول قدوۃ المحققین زبدۃ المدققین جناب مولانا مولوی محمد غوث المخاطب بشرف الملک رحمہ اللہ در کتاب خود اہنار الفاخر می نویسد نسب شریف وجمیع مقامات ایشان را در شعبہ دویم الشعبۃ الثانیۃ فی ذکر امہ رضی اللہ عنہما مادری رضی اللہ عنہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ دختر سید ابی عبد اللہ الصومعی پسر سید ابی جمال پسر سید محمد پسر سید ابی محمود طاہر پسر سید ابی عطا عبد اللہ پسر سید ابی کمال عیسی پسر سید علاء الدین پسر امام علی رضا پسر امام موسی کاظم پسر امام جعفر صادق پسر امام محمد باقر پسر امام زین العابدین پسر سید الشہدا ر

لہ فی فتوح الغیب والدتہ الکریمۃ رضی اللہ عنہا اسمہا ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت السید عبد اللہ الصومعی الزاھد بن الامام ابی جمال الدین السید محمد بن الامام السید محمود بن الامام السید ابی العطاء عبد اللہ بن الامام السید کمال الدین عیسی بن الامام السید علاء الدین محمد الجواد رضی اللہ عنہ بن الامام الہمام علی الرضا رضی اللہ عنہ بن الامام موسی الکاظم رضی اللہ عنہ ابن الامام الہمام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ ابن الامام الہمام محمد الباقر رضی اللہ عنہ ابن الامام الہمام زین العابدین رضی اللہ عنہ ابن الامام الہمام سید شباب اہل الجنۃ وقرۃ اعین اہل السنۃ سید الشہداء ابی عبد اللہ الحسین رضی اللہ عنہ وعنا بہ آمین

امام حسین پسر امیر المومنین علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہی الحادی عشر در تذکرۂ بلخ موسن خانی اوردہ است نسب شریف را ووالدۂ حضرت غوث الاعظم امۃ الجبار فاطمہ بیگم سلطان نام دارند کہ دختر حضرت شیخ سید ابوعبداللہ الصومعی رحمہا اللہ علیہما بودہ اند وایشان بن سید ابوجمال الدین محمد بن سید محمود طاہر بن سید عطا عبداللہ بن سید کمال الدین عیسی بن سید علاء الدین محمد الجواد بن امام علی رضا بن امام موسی کاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انتہی الثانی عشر در تنویر السیر آوردہ است نسب شریف مادر آنحضرت رضی اللہ عنہ از پشت حسنی اند واز شکم حسینی اند ونام مادر آنحضرت رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ وکنیت ام الخیر ولقب او امۃ الجبار دختر سید عبداللہ الصومعی الزاہد بن سید ابوجمال الدین محمد بن سید ابی محمود بن سید ابی العطا عبداللہ بن سید شیخ ابی کمال الدین عیسی بن سید علاء الدین محمد الجواد بن امام سید علی رضا بن امام سید موسی کاظم بن امام سید جعفر صادق بن سید امام محمد باقر بن سید امام زین العابدین بن امام سید السادات امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہم اجمعین انتہی ودر انہار المفاخر آوردہ است صومعی نسبت است بصومعہ وآن بفتح صاد مہملہ قریہ است نزدیک بلدہ لاہجان ودر آنجا اولاد وخانقاہ موجود است انتہی الثالث عشر قال العالم یعنی گفتہ عالم شیخ محمد بن محمود النقشبندی الملقب بدبہار در کتاب خود حاشیہ نفحات الانس آوردہ حضرت شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلی مراد از جیل گیلان است نہ آنکہ بعضی را توہم افتادہ است کہ مراد جیل نزدیک بغداد است چہ کہ صومعہ وہی است نزدیک بشہر لاہجان وجد مادری ایشان از آنجاست وحالا اولاد ایشان در آنجا میباشند وخانقاہی بارونق وارند انتہی الرابع عشر قال فی الفارسیۃ عمدۃ المحدثین شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ در اخبار الاخیار آوردہ است حسنی وحسینی بودن را ثابت کردہ است وحسنی وحسینی ازان گویند کہ پدر عبداللہ المحض حسن مثنی بن امیر المومنین امام حسن رضی اللہ عنہ وایشان ابن امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ومادر عبداللہ المحض فاطمہ بنت امیر المومنین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وایشان ابن امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ انتہی

الخامس عشر قال گفتہ فاضل اجل الشیخ محمد صادق الطیفی القادری در کتاب خود خوارق صادقیہ من مواہب القادریہ می آرد امہات صالحات حضرت محبوب سبحانی کہ بنات سیدات دوازدہ امام اند و بامام حسین سلسلۂ نسب آنہا منسلک میشود و آن سلسلہ بواسطہ دہم بامام برحق جعفر صادق رضی اللہ عنہ متوصل میگردد بشنو والدۂ ماجدہ صالحہ ساجدۂ حضرت سید عبد القادر جیلانی ام الخیر امۃ الجبار بنت ابو عبد اللہ الصومعی ابن ابی جمال محمد و ہو ابن سید محمد و ہو ابن سید محمود و لقبہ طاہر و ہو ابن سید عطاء اللہ عبد اللہ و ہو ابن سید کمال الدین عیسی و ہو ابن سید علاء الدین محمد جواد و ہو ابن سید علی رضا و ہو ابن امام موسی کاظم و ہو ابن الامام الہمام الناطق بالحق امام جعفر الصادق ازینجاست کہ آن محبوب سبحانی را سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجعفری الجیلانی میخوانند رضی اللہ عنہ و عنہم اجمعین و ایضا بداںکہ در سلسلہ شریفہ قادریہ علیہ شجرۂ الیست کہ آنرا شجرۂ امامیہ خوانند سلسلہ آن نیز بدوازدہ امام میرسد و اگر ازین دوازدہ امام ہمام امام حسن رضی اللہ عنہ را خارج نمودہ بشمارند نیز یازدہ امام باشند کہ حضرت غوث الاعظم در آل ایشانند پس بداںکہ نسبت صوری و معنوی و سلسلۂ فرزندی حقیقی و مجازی و خلافت ظاہری و باطنی از طرف حسنین بحضرت غوث الثقلین رسیدہ و بوجود شریف ایشان بحدی تکمیل پذیرفتند کہ غیر آنحضرت ہیچ فردی از افراد کمل اولیاء اللہ بتکمیل آن ندیدہ و بتحصیل آن نرسیدہ ہست و تا قیامت نیز نخواہد رسید زیرا کہ ازین اسرار خود خبر دار میفرماید شعر

ع	ولم یعطہا غیری لیوم القیمۃ		فاعطانی الموالی اجل ولایۃ

السادس عشر قال گفتہ جناب شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ در زبدۃ الآثار شرح زبدۃ الاسرار در کتاب خود آوردہ ہست و ام وی رضی اللہ عنہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبد اللہ الصومعی بود مر او را حظے وافر از خیر و صلاح بود انتہی السابع عشر قال جناب شیخ الشیوخ عالم الفاضل الفرد الکامل مولینا عبد الرحمن جامی قدس اللہ سرہ العزیز در کتاب خود نفحات الانس آوردہ ہست شیخ محی الدین سید عبد القادر الجیلی قدس سرہ کنیت وی ابو محمد ہست علوی حسنی بود نبیرۂ سید ابو عبد اللہ صومعی ہست از جانب مادر و مادر وی امۃ الجبار نام بنت سید ابی عبد اللہ صومعی ہست انتہی الثامن عشر قال العالم یعنے گفتہ عالم محمد شاہ در کتاب خود سلطان الاذکار حضرت محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی ابن ام الخیر امۃ الجبار بی بی فاطمہ بنت سید عبد اللہ

فصل اول

الصومعی الزاہد نسب شریف تا جناب امام حسن سید

در بیان نسب شریف حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث صمدانی حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ جانب والدہ شریفہ رضی اللہ تعالی عنہا سادات حسینی سے ہیں اور نسب شریف پہنچتا ہے تا جناب امیر المومنین سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تک کتاب معتبرات ثقات مجتہدین محدثین مشائخین کبار رحمہم اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہوا اور شک اور شبہ نہیں ہو نسب شریف میں (اول) کہا اکمل المحدثین عالم علم الیقین مولانا علی القاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی کتاب نزہۃ الخاطر الفاتر مین کہ نسب شریف جانب مادر سے کہ پہنچتا ہے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ تک تفصیل اسوجہ سے ہے کہ شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر حسنی حسینی جیلانی ابن ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ دختر سید عبد اللہ صومعی زاہد کی وہ فرزند سید ابی جمال الدین محمد بن سید محمود بن سید ابی العطا عبد اللہ ابن سید کمال الدین عیسی ابن امام سید ابی علاء الدین محمد الجواد ابن الامام سید علی الرضا ابن الامام موسی الکاظم ابن الامام جعفر صادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین ابن الامام سید الشہداء ابی عبد اللہ الحسین ابن الامام الہمام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین (۲) کہا عالم امام شریف حسیب علی علاء الدین ثانی نقیب حماہ الشریف حسنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفۃ الابرار مین نسب شریف حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جانب مادر بی بی ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبد اللہ صومعی زاہد بن سید ابی جمال الدین محمد بن سید محمود بن سید ابی العطا عبد اللہ بن سید کمال الدین عیسی بن سید ابی علاء الدین محمد الجواد بن سید امام علی رضا بن امام سید موسی کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام محمد باقر بن امام سید زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن امام امیر المومنین علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین (۳) کہا عالم علامہ امام سید جعفر بن سید حسن بن سید عبد الکریم برزنجی مفتی شافعیہ مدینہ منورہ جو مشہور ہو ساتھ صاحب مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جنی الدانی فی مناقب سیدنا الغوث الاعظم سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مین والدہ شریفہ ومنیفہ حسینیہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبد اللہ الصومعی الزاہد ابن ابی سید جمال الدین محمد ابن سید محمود ابن سید ابی العطا عبد اللہ ابن سید کمال الدین عیسی ابن سید الامام ابی علاء الدین محمد الجواد ابن الامام

سید علی الرضا ابن الامام موسیٰ الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین علی ابن الامام الہمام سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین ابن الامام الہمام امیر المومنین سیدنا علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہم اجمعین (۴) کہا عالم علامہ شیخ عبدالقادر بن محی الدین الاربلی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر میں نسب شریف حضرت غوث رضی اللہ عنہ جانب مادر سے ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ الصومعی الزاہد ابن سید ابی جمال الدین محمد بن سید محمود لقب طاہر ابن الامام سید ابی العطا عبداللہ ابن الامام سید کمال الدین عیسیٰ ابن الامام سید ابی علاء الدین محمد الجواد ابن الامام علی الرضا ابن الامام موسیٰ الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین ابن الامام ابی عبداللہ الحسین ابن الامام علی ابن ابیطالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہم اجمعین (۵) کہا عالم فاضل شیخ محمد المکی ابن الاستاذی سیدی مصطفےٰ ابن عزوز تونسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیف الربانی فی عنق المعترض علی الغوث الجیلانی میں امام جیلی حسنی ہیں جانب پدر سے حسینی ہیں جانب مادر سے اور نسب حسینی یہ ہے والدہ شریفہ سیدہ فاطمہ ام الخیر امۃ الجبار بنت سید ابی عبداللہ الصومعی الزاہد ابن ابی جمال الدین محمد ابن محمود ابن ابی العطا عبداللہ ابن کمال الدین عیسیٰ ابن ابی علاء الدین محمد الجواد ابن علی الرضا ابن موسیٰ الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زین العابدین بن حسین السبط رضی اللہ عنہم اجمعین (۶) کہا عالم علامہ شیخ امام سید سراج الدین عمر ابن ملقن انصاری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درر الجواہر فی مناقب سیدی سید عبدالقادر الحسنی الحسینی رضی اللہ عنہ میں اور والدہ شریفہ حضرت سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ الصومعی الزاہد بن سید جمال الدین محمد ابن سید محمود ابن سید ابی العطا عبداللہ بن سید کمال الدین عیسیٰ ابن سید ابی علاء الدین محمد الجواد ابن الامام علی الرضا ابن الامام موسیٰ الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین علی ابن الامام سیدنا الحسین ابی عبداللہ ابن الامام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین (۸) کہا حضرت غوث الاعظم وقطب اکرم رضی اللہ عنہ

نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں والدہ شریفہ کریمہ رضی اللہ عنہا ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید ابی عبداللہ الصومعی الزاہد بن الامام ابی جمال الدین سید محمد بن الامام سید محمود بن الامام سید ابی العطا عبداللہ بن الامام سید کمال الدین عیسیٰ بن الامام سید ابی علاء الدین محمد الجواد بن الامام علی الرضا رضی اللہ عنہ بن الامام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ بن الامام محمد الباقر رضی اللہ عنہ بن الامام زین العابدین رضی اللہ عنہ بن الامام سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ عنہ ۱ھ انتہی (۹) کہا شیخ محمد صادق شہابی سعدی قادری نے اپنی کتاب مناقب غوثیہ میں (۱۰) کہا عالم علامہ محمد غوث شرف الملک علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اظہار المفاخر میں (۱۱) کہا تذکرہ بلخ عبدالمومن خانی میں (۱۲) کہا کتاب تنویر السیر میں (۱۳) کہا شیخ عالم محمد بن محمود نقشبندی الملقب بہ بدہارنے اپنی کتاب حاشیہ نفحات الانس میں (۱۴) کہا عالم محدث شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں (۱۵) کہا عالم اجل فاضل بے بدل محمد صادق لطیفی نے اپنی کتاب خوارق صادقیہ میں (۱۶) کہا عالم اجل اولیا رکامل لاثانی مولانا نورالدین عبدالرحمٰن جامی قدس سرہ السامی نے اپنی کتاب نفحات الانس میں (۱۷) کہا شیخ محمد یحییٰ التادفی حنبلی نے اپنی کتاب قلائد الجواہر میں (۱۸) کہا عمدۃ المحدثین شیخ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب زبدۃ الاسرار میں (۱۹) کہا عالم محمد شاہ نے اپنی کتاب سلطان الاذکار میں اگر عمل کنی یک نکتہ بسیار است ❊ ورنہ کتابہا خروار است انتہی

الفصل الثانی فی بیان اوصاف امہ الشریفۃ وعمۃ الشریفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کما ورد فی کتب متعددۃ الاول قال العلامۃ والحبر الفہامۃ المولینا علی القاری رحمہ اللہ الباری فی کتابہ نزھۃ الخاطر الفاتر قال امہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمۃ رضی اللہ عنہا بنت السید ابی عبداللہ الصومعی الزاھد وکان لہا حظ وافی من الخیر والصلاح وعمتہ المرأۃ الصالحۃ الشریفۃ عائشۃ بنت السید عبداللہ ذات الکرامات الظاھرۃ والمقامات الباھرۃ قال ولقب السید عبداللہ جدہ بالمحض لان اباہ الحسن المثنی ابن الحسن السبط ابن سیدنا علی رضی اللہ عنہ وامہ فاطمۃ بنت الحسین رضی اللہ عنہ ابن سیدنا علی رضی اللہ عنہ وھی نسبۃ سالمۃ من الموالی وخالصۃ فی الشرف

العالی انتہی الثانی قال العالم المحدث الشیخ عبد الحق الدھلوی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ زبدۃ الآثار وقد حکی بعض المشایخ حکایات وامہ رضی اللہ عنہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت السید ابی عبد اللہ الصومعی وکان لہا حظ من الخیر والصلاح اخبر الشیخ الاصیل ابو محمد عبد اللطیف بن الشیخ القدوۃ ابی النجیب عبد القاہر السہروردی عن المشایخ قالوا کان لام الخیر امۃ الجبار فاطمہ ام الشیخ السید عبد القادر قدم فی ھذا الامر وسمعنا تقول غیر مرۃ لما وضعت ابنی عبد القادر کان لایرضع ثدیۃ فی نہار رمضان وغم علی الناس ھلال رمضان فاتونی وسألونی عنہ فقلت لہم لم یلتقم الیوم ثدیا ثم اتضح ان ذلک الیوم کان من رمضان واشتہر ببلادنا فی ذلک الوقت انہ ولد للاشراف ولد لایرضع فی نہار رمضان انتہی الثالث قال العالم القطب الربانی العارف باللہ سیدی عبد الوہاب الشعرانی فی کتابہ المسماۃ بلواقح الانوار فی طبقات الاخیار وحکی عن امہ رضی اللہ عنہا وکان لہا قدم فی الطریق انہا قالت لما وضعت ولدی عبد القادر کان لایرضع ثدیہ فی نہار رمضان ولقد غم علی الناس ھلال رمضان فأتونی وسألونی عنہ فقلت لہم انہ لم یلتقم الیوم ثدیا ثم اتضح ان ذلک الیوم کان من رمضان واشتہر ببلدنا فی ذلک الوقت ولد للاشراف ولد لایرضع فی نہار رمضان انتہی الرابع قال العالم الفاضل السید مومن الشبلنجی فی کتابہ نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار قال وحکی عن امہ رضی اللہ عنہا قالت لما وضعت ولدی عبد القادر کان لایرضع ثدیہ فی نہار رمضان ولقد غم علی الناس ھلال رمضان فأتونی وسألونی عنہ فقلت لہم لم یلتقم ثدیا ثم اتضح ان ذلک الیوم کان من رمضان واشتہر ببلدنا فی ذلک الوقت انہ ولد للاشراف ولد لایرضع فی نہار رمضان انتہی الخامس قال الفاضل الشیخ محمد بن یحیی التادفی فی کتابہ قلائد الجواہر وامہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت الشیخ السید عبد اللہ الصومعی الحسینی الزاہد وکان لہا حظ وافر من الخیر والصلاح نقل عنہا انہا کانت تقول لما وضعت ابنی عبد القادر کان لایرضع ثدیہ فی نہار رمضان وغم علی الناس ھلال رمضان فأتونی وسألونی عنہ فقلت لہم لم یلتقم الیوم ثدیا ثم

اقتضی ان ذلک الیوم کان من رمضان واشتہر ذلک ببلاد جیلان انہ ولد للاشراف ولد لا یرضع فی نہار رمضان انتہی السادس قال العالم الشیخ محمد بن محمود الملقب بہ ہدا رفی کتابہ حاشیۃ نفحات الانس بالفارسیۃ ووالدہ فاطمہ شریفہ بودہ حسینی وبعضی از اہل انساب آوردہ اند البازی الاشہب شیخ عبد القادر زمان حیواۃ خود اظہار سیادت نمودہ واین راسند خود ساختہ اندو اصلا تتبع نمودہ واین قصیدہ کہ یک بیتش این است کہ

کل قطب یطوف بالبیت سبعًا	وانا البیت طائف بخیامی بخواندہ اند

کہ میفرماید کہ جدی المصطفی شفیع الانام ووالدہ ایشان گفتہ کہ چون فرزندم عبد القادر متولد شد ہرگز درروز رمضان شیر نخوردہ ہیئت ودولت مادرزاد ومضمون حدیث شریف السعید وسعد فی بطن امہ وتربیت الٰہی چنین ہست واین نشانہ وراثت کاملہ است مرایشان را انتہی السابع قال المولینا عبد الرحمٰن الجامی فی کتابہ نفحات الانس آوردہ امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبد اللہ الصومعی ہست گفتہ است چون فرزند من عبد القادر متولد شد ہرگز درروز رمضان شیر نخورد یکبار ہلال رمضان بجہت ابر پوشیدہ ماند از مادر وی پرسید ند گفت امروز عبد القادر شیر نخوردہ است آخر معلوم شد کہ آن روز رمضان بودہ است انتہی الثامن قال سلطان دارا شکوہ در کتاب خود سفینۃ الاولیا آوردہ کہ حکایت ہست ووالدہ ماجدہ معظمہ مکرمہ آنحضرت ام الخیر ولقب امۃ الجبار فاطمہ بنت شیخ عبد اللہ صومعی است کہ از مشایخ کبار گیلان ومقتدای اولیای زمان ومستجاب الدعوات بودہ اند حضرت مولانا عبد الرحمٰن جامی نوشتہ اند کہ شیخ سید عبد اللہ صومعی از رؤسا زہاد بودہ اند ومر او را احوال عالی وکرامات ظاہرہ بودہ وقتیکہ درغضب شدی حق سبحانہ وتعالےٰ از برای وی زود انتقام کشیدی وہرچہ خواستی خدا تعالی چنان کردی وہرچیزکہ پیش از وقوع آن خبر کردی چنان واقع شدی ووالدہ ماجدہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ را بہرہ وافر بودہ از خیر وصلاح شیخ سید عبد الرزاق ولد حضرت غوث اعظم فرمودند وقتیکہ غوث صمدانی از صلب شریف پدر بر حم لطیف مادر حلول نمودند والدہ مکرمہ ایشان در سن شصت سالگی کہ زمان یاس ہست بودہ اند واین کرامات آنحضرت ہست رضی اللہ عنہ والدہ آنحضرت از کبار نسآء عارفات صالحات واصلات وصاحب مکاشفات بودہ اند

و ولادت باسعادت غوث اعظم درجیلان اول شب ماہ رمضان سال چہار صد و ہفتاو بقولی ہفتاد و یک ہجری بودہ والدہ آنحضرت قدس سرہ فرمودہ اند کہ چون فرزندم عبد القادر متولد شد ہرگز در ماہ رمضان روز پستان نگرفتی و شیر نخوردی یکبار ہلال رمضان بجہت ابر پوشیدہ شدہ بود مردم از من پرسیدند گفتم فرزندم امروز شیر نخوردہ است آخر معلوم شد کہ آن روز از ماہ رمضان بودہ است انتہی ترجمہ بزبان اردو یعنی ہندی حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ بشب غرہ ماہ رمضان تولد ہوئے اور تمام ماہ تک بجز وقت افطار روزانہ شیر اپنے والدہ کا نہ پیا بلکہ تا سن شیر خواری یہ ہی وتیرہ تھے اسیطرح سے آنحضرت رضی اللہ عنہ کا جاری رہا جس شب حضرت باکرامت تولد ہوئے وہ روز رمضان کا تہا اور جیلان مین ابر تہا اور ماہ پوشیدہ ابر مین رہا خلایق نے انکی والدہ ماجدہ سے استفسار کیا والدہ ماجدہ صاحبہ نے کہا جو امروز فرزند عبد القادر تولد ہوا ہے میرے پستان کو سوا مغرب کے شیر نہین پیا ہے آخر معلوم ہوا دوسری جگہہ سے کہ وہ روز رمضان شریف کا تہا تولد ہوتے ہی روزہ رکہا یہ ہر دولت مادر زاد بحکم حدیث شریف کے کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکبخت ماں کے پیٹ سے نیک بخت ہے حدیث یہ ہو السعید من سعد فی بطن امہ وراثت کامل ہو انکو انتہی اور والدہ شریفہ حضرت غوث رضی اللہ عنہ کے صاحب خیر و صلاح کی تہین اور صاحب کرامات عالیہ تہین اور ناناصاحب بہی صاحب کرامات و مستجاب الدعوات تہے حضرت سید شیخ عبد اللہ صومعی زاہد حسینی اولاد حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تہے وقال العالم العلامۃ الشہیر والحبر الفہامۃ مولینا علی القاری رحمۃ اللہ الباری فی کتابہ نزہۃ الخاطر الفاتر کان السید الشیخ السید عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اخ اسمہ السید ابو احمد عبد اللہ سنہ دون سنہ نشأ نشوا صالحا فی العلم والخیر ومات شابا رحمہ اللہ تعالیٰ وکانت لہ عمۃ اسمہا السیدۃ عائشۃ ام محمد ذات الکرامات الظاہرۃ والآیات الفاخرۃ وروی ان بلاد جیلان اجدبت مرۃ واستسقی اہلہا فلم یسقوا فاتی الشیوخ الی دارہا وسألوہا الاستسقاء فقامت الی رحبۃ بیتہا وکنست الارض فقالت یا رب انا کنست فرش انت فلم یلبثوا الا آن مطرت السماء کافواہ القرب فرجعوا الی بیوتہم یخوضون فی الماء وقد عمرت وماتت بجیلان انتہی والثانی قال المحدث الشیخ

بیان [illegible] کرامت [illegible]

عبدالحق الدھلوی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ زبدۃ الاسرار وعمۃ الشیخۃ الصالحۃ السیدۃ ام محمد عایشۃ ذات الکرامات الظاہرۃ روی انہ اجدبت جیلان مرۃ واستسقی اھلھا فلم یسقوا فاتی المشایخ الی الشیخۃ السیدۃ ام محمد عایشۃ عمۃ الشیخ السید عبدالقادر رضی اللہ عنہ وعنہا وسألواھا الاستسقاء لھم فقامت الی رحبۃ بیتھا وکنست الارض وقالت یارب انا کنست فرش انت قال فلم یلبثوا ان امطرت السماء کافواہ القرب ورجعوا الی بیوتھم یخضون فی الماء وعمرت و ماتت بجیلان انتھی الثالث قال الامام عبداللہ الیافعی الشافعی رحمۃ اللہ علیہما فی کتابہ خلاصۃ المفاخر وھی بالفارسیۃ وعمۃ او عورتی صالحہ صاحب کرامات سیدہ عائشہ نام داشت وکنیت او ام محمد بود در بلاد جیلان قحط شد واہل جیلان استسقا کردند ہیچ باران نشد پس جمیع خلق ومشایخ بر در خانہ عائشہ مذکورہ آمدند وازو دعاء استسقا درخواست کردند او برخواست وصحن خانہ را جاروب داد وگفت یارب انی کنست فرش انت در حال باران ہمچو افواہ قرب بیفتے مانند دہن مشک بارید وایشان میان آب خوض کنان بازگشتند انتہی الرابع گفت مولانا محمد غوث المخاطب بشرف الملک رحمہ اللہ در کتاب خود انہار المفاخر آوردہ و حضرت شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ را عمہ بود صالحہ وصاحب کرامات ظاہرہ نام وی ام محمد عائشہ بنت سید ابی عبداللہ مرویست از شیخ ابی صالح عبداللہ بن ابی عبداللہ طبقی نحوی کہ وقتی در جیلان خشک سالی شد ومردم برای استسقا برآمدند لیکن بارش نشدہ پس مشایخ بخانہ ام محمد عائشہ آمدند وازو دعا خواستند پس وی برخواست وصحن خانہ خود را رفت وگفت ای پروردگار من روفتم تو آب بپاش وراندک وقت باران چندان بارید کہ گویا دہن مشکہا کشادند ومردم بجاہہای خود در آب شناوری کنان رفتند وعمر وی دراز شد ودر جیلان وفات یافت انتہی حضرت محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر الحسنی الحسینی الجیلانی قدس اللہ سرہ النورانی کی پھوپی تھیں بی بی سیدہ ام محمد عائشہ نام صاحب کرامات ظاہرہ تھیں کہ جیلان میں خشک سالی ہوئی بسبب نہونے بارش کے اہل جیلان نے مشایخ اور صلحا واسطے طلب بارش کے دعاو نماز پڑھکر مانگے بارش نہوئی یعنے بارش نہ برسی تب سب مشایخ وصلحاء جیلان بی بی صاحبہ سیدہ مادر محمد عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازہ پر آئے اور طلب دعا واسطے بارش کے بی بی صاحبہ سے کی بی بی صاحبہ سنے او ٹھکر

جاروب لیا اور اپنے گھر کے صحن کو جاروب کشی کیا اور کہا کہ اے پروردگار میرے بیٹے جاروب دیا تو پانی چھڑک دے
اندک مدت میں اتنی بارش ہوئی ہیسے مینہ برسا گویا منہ مشکوں کے کھل گئے اور خلایق تیرتی ہوئی اپنے
گھروں کو پہونچی یہ روایت کیا ملا علی قاری رحمہ الباری نے کتاب نزہۃ الخاطرین اور شیخ عبدالحق رحمہ اللہ
نے زبدۃ الاسرار میں اور امام عبداللہ یافعی رحمہ اللہ نے خلاصۃ المفاخر میں اور محمد غوث رحمہ اللہ نے
انہار المفاخر میں رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے **الفصل الثالث** فی بیان النسب
الشریف سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ ثم قال المخالف فی صحاح الاخبار ان الشیخ عبدالقادر
رضی اللہ لم یدع ذلک ای النسب ولا احد من اولادہ الخ اقول الجواب ھذا کذب صریح
وقول قبیح بل ثبت عکس ذلک بروایۃ متعددات متکاثرات من العلماء الراسخین العاملین
انہ قال الشیخ السید عبدالقادر رجیلانی رضی اللہ عنہ علی الکرسی کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم
جدی صلی اللہ علیہ وسلم ومارفع المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قدما الا وضعت انا قدمی
فی الموضع الذی رفع قدمہ منہ الا ان یکون قدما من اقدام النبوۃ لاسبیل ان ینالہ غیر نبی
انتھی الاول قال العالم الشیخ نورالدین ابی الحسن بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوفی
الشافعی نفعنا اللہ بہا فی کتابہ بہجۃ الاسرار ومعدن الانوار قولہ رضی اللہ عنہ اخبرنا
ابومحمد سالم بن علی بن عبداللہ بن سنان الدمیاطی المصری المولد بالقاہرۃ سنۃ احدی
وسبعین وستمائۃ قال اخبرنا الشیخ شہاب الدین ابوحفص عمر بن عبداللہ السہروردی
قال سمعت الشیخ محی الدین عبدالقادر رضی اللہ عنہ یقول علی الکرسی بمدرسۃ کل
ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی صلی اللہ علیہ وسلم ومارفع المصطفی قدما الا وضعت
انا قدمی فی الموضع الذی رفع قدمہ منہ الا ان یکون من اقدام النبوۃ لاسبیل ان ینالہ
غیر نبی انتھی الثانی قال الشیخ محمد بن شیخ یحیی التادفی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہما فی کتابہ قلائد الجواہر
وکان رضی اللہ عنہ یقول کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی صلی اللہ علیہ وسلم
ومارفع قدما الا وضعت قدمی فی موضعہ الا ان یکون قدما من اقدام النبوۃ رضی اللہ عنہ

انتہی الثالث قال العالم الفاضل المحدث الشیخ عبد الحق الدهلوي رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ زبدۃ الاسرار ما نقل الشیخ السهروردی عنہ رضی اللہ عنہ انہ قال کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی المصطفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رفع المصطفی قدما الا وضعت قدمی فی الموضع الذی رفع قدمہ منہ الا ان یکون قدما من اقدام النبوۃ فانہ لا سبیل ان ینالہ غیر نبی انتہی بحروفہ الرابع قال العالم الشیخ عبد القادر بن محی الدین الاربلی رحمہما اللہ فی تفریح الخاطر وکان یقول علی الکرسی فی مدرستہ کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی صلی اللہ علیہ وسلم وما رفع المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قدمہ الا وضعت قدمی فی موضع الذي رفع قدمہ منہ الا ان یکون قدما من اقدام النبوۃ فانہ لا سبیل الی ان ینالہ غیر نبی انتہی الخامس قال العالم العلامۃ السید ظہیر الدین فی کتابہ فتح المبین من تحفۃ الابرار وغیرہ من العلماء بالسند عن الشیخ شہاب الدین السہروردی قدس سرہ قال سمعت الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ یقول علی الکرسی بمدرستہ کل ولی للہ تعالی علی قدم نبی من الانبیاء وانا علی قدم جدی رسول اللہ وما رفع المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قدما الا وضعت قدمی فی الموضع الذی رفع قدمہ منہ الا ان یکون قدما من اقدام النبوۃ فانہ لا سبیل ان ینالہ الا نبی انتہی السادس قال العالم الفاضل سلالۃ الافاضل البارع الغطریف حائز قصب السبق فی التالیف الزکی الشیخ السید محمد المکی ابن الاستاذي سید مصطفی ابن عزوز نفعنا اللہ ببرکاتہ فی کتابہ السیف الربانی فی عنق المعترض علی الغوث الجیلانی المبحث الثالث قول الشطنوفی ان الامام الجیلی قال انا علی قدم جدی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المشہور علی کل لسان ان کل ولی علی قدم نبی فمنہم من ہو علی قدم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویقال لہ محمدی ومنہم من ہو علی قدم غیرہ من الانبیاء وبیان ذلک کما قال الحاتمی ان الاقطاب المحمدیین ہم الذین ورثوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فیما اختص بہ من الشرایع والاحوال مما لم یکن فی شرع تقدمہ ولا فی رسول تقدمہ فان کان فی شرع تقدم شرعہ ومن ہو شرعہ او فی رسول قبلہ وہو فیہ صلی اللہ علیہ وسلم فذلک الرجل وارث

لذالک الرسول المخصوص ولکن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا ینسب إلا الی ذلک الرسول وان کان فی ھذہ الامۃ یقال موسوی ان کان من موسو، وعیسوی ان کان من عیسی ابراھیمی وماکان من رسول اونبی ولاینسب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الامن کان بمثابۃ ماقلناہ مما اختص بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہ ثم لایظن ان کل غوث محمدی ای علی قدمہ صلی اللہ علیہ وسلم بل یکون اغواث ولم تحصل لھم ھاتہ المنزلۃ اذ لیست الا لافراد من الاکابر فالامام الجیلی محمدی زیادۃ علی القطبانیۃ الکبریٰ السابع قال العلامۃ سید محمد قادری المعروف بشاہ قادری فی کتاب مشکوۃ ولایۃ الکبری عن الشیخ القدوۃ شہاب الدین عمر بن السھروردی رحمۃ اللہ علیہ قال سمعت سیدی الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ علی الکرسی بمدرسۃ کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی صلی اللہ علیہ وسلم ومارفع المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدما الا وضعت قدمی فی المواضع الذی رفع منہ قدمہ الا ان یکون من اقدام النبوۃ فانہ لاسبیل الی ان ینالہ غیر نبی انتھی الثامن قال فی الوقائع الخلفاء العباسیۃ تحت ذکر المستنجد باللہ در نفحات شیخ ابو النجیب سہروردی مرویست کہ گفت شنید از شیخ سید عبد القادر کہ میگفت کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی صلی اللہ علیہ وسلم ومارفع المصطفیٰ الا وضعت انا قدمی فی موضعہ منہ الا ان یکون من اقدام النبوۃ فانہ لاسبیل الی ان ینالہ غیر نبی انتہی التاسع قال الامام عبد اللہ الیافعی الشافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فی کتاب خلاصۃ المفاخر وہی بالفارسی حکایت صد وہشتم نقلست از امام المقربین شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ گفت شنیدم از شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ کہ بالای منبر می فرمود در مدرسۂ خود کہ ہر ولی بر قدم نبی است و من بر قدم جد خودم حضرت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم و برنداشت حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدمی مگر آنکہ بنہادم قدم خود برآن موضع کہ برداشت او قدم خود ازان موضع مگر اقدام نبوت کہ راہ نیست دران غیر نبی را انتہی العاشر گفتہ است علامہ محقق عارف مدقق شیخ محمد بن محمود الملقب بہ ہمارنقشبندی رحمۃ اللہ علیہ در کتاب خود حاشیہ نفحات الانس حکایت میکند از شیخ حماد دباس قدس سرہ نقلست حضرت شیخ سید عبد القادر

قدس سره در اثنای سخن گفت قدمی ہذہٖ علی رقبۃ کل ولی اللہ انتہی بدان نفعنا اللہ تعالی وایاک من برکاتہم
که این کلام حق انجام اگر در حال سکر واقع شود داخل شطحات است اما چون از حضرت سید عبد القادر قدس سره
در حال صحو صادر شده کنایه است از وصول ایشان بمقامیکه فوق ولایت ہست وصاحبش حاکم بر
ولی بشاید که اگر آنرا در عالم محسوس تمثال آورند چنان واقع میشود که قدم صاحب آنمقام محاذی گردن ولی
باشد و نسبت میانه این دو مرتبه از روی شرف وشان نسبت کسی ہست که پای بر گردن دیگری داشته باشد
وچون وصال باین مقام از مواہب غیبیہ ہست مامور بگفتن وخبر دادن از ان شده وچون حق صرف ہست
واز وجود بشری شائبه اثری بآن نبوده جمیع اولیاء گردن نهادند وبجان قبول نمودند بدانکه این اشاره است
بآنکه بمقامی رسیده که اگر ختم نبوت نشده بودی او نبی شدی وقدمی کنایه ہست از موقف عرفان یعنی
معرفت من از قسم معرفت انبیاء ہست وآنجا ایستاده ام وہم چنانچه گردن اولیا زیر بار متابعت انبیا ہست
گردن اولیای زمان زیر بار متابعت من ہست ومن متصرفم در ہمه انتہی الحادی عشر قال العالم
المحقق المحدث الشیخ عبد الحق الدہلوی علیه الرحمہ فی کتاب زبدۃ الآثار وہی بالفارسیۃ نقل کرده شده ہست
از شیخ خلیفه اکبر از حضرت رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم در خواب فرموده که شیخ سید عبد القادر قطب ہست
ومن رعایت میکنم او را وتایید میکنم اوراین تا آنکه نقل کرده ہست شیخ سہروردی قدس سره از غوث رضی اللہ
عنه که گفت ہر ولی بر قدم نبی ہست ومن بر قدم جد خودم حضرت مصطفی رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم
بر نداشت مصطفی صلی اللہ علیه وسلم قدمی را مگر آنکه قدم نهادم قدم خود را در موضعی که برداشت آنحضرت
صلی اللہ علیه وسلم قدمی خود را مگر آنکه باشد قدمی از اقدام نبوت که در نیابد ویرا غیر نبی انتہی الثانی عشر
گفته ہست عالم علامه محمد صادق شہابی سعدی قادری در کتاب مناقب غوثیه که حضرت سلطان الاولیا
غوث اعظم رضی اللہ عنه بر قدم جد اعلای خود صلی اللہ علیه وسلم بود چنانچه در بہجۃ الاسرار مذکور ہست
از شیخ امام قطب انام حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیه گفت شنیدم شیخ محی الدین سید
عبد القادر را رضی اللہ عنه که میگفت بر کرسی در مدرسه خود ہر ولی بر قدم نبی ہست ومن بر قدم جد خودم
صلی اللہ علیه وسلم نه برداشت مصطفی علیه الصلوۃ والسلام قدمی را مگر آنکه نهادم من قدم خود را در ان

موضعی

موضعی کہ برداشت ازان مصطفی علیہ السلام کہ قدم خود را مگر آنکہ بود قدمی از اقدام نبوت زیرا کہ نیست راہی سوی آن غیر نبی را انتہی از نجہت گشت قدم او بر گردن سائر اولیا چنانچہ بود قدم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برگردن سائر انبیا و گشت کرامات او بی نہایت و بی شمار انتہی الثالث عشر گفتہ است سلطان دارا شکوہ در کتاب خود سفینۃ الاولیا و حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ میفرمودند کہ ہر ولی بر قدم نبی میباشد و من بر قدم جد خودم صلی اللہ علیہ وسلم و ہر قدمی کہ جد من برداشت من برانجا نہادم مگر در قدم نبوت کہ راہ نیست دران غیر نبی را و این اشارت است بر کمال ولایت و متابعت و پیروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتہی الرابع عشر گفتہ است عالم علامہ قدوۃ المحققین زبدۃ المدققین مولینا محمد غوث المخاطب بشرف الملک در کتاب انہار المفاخر مروی است از شیخ شہاب الدین ابی حفص عمر بن محمد بن عبد اللہ سہروردی قدس سرہ بروایت ابی محمد سالم بن علی بن عبد اللہ بن سنان دمیاطی الاصل مصری المولد رحمۃ اللہ علیہ کہ شنیدہ ام شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ کہ بر کرسی در مدرسہ خود میفرمود ہر ولی بر قدم نبی میباشد و من بر قدم جد خودم و بر نداشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدمی مگر نہادم دران موضع مگر اقدام نبوت کہ بتحقیق بجز نبی کسی را بدان راہ نیست انتہی الخامس عشر گفتہ است عالم علامہ حبر فہامہ شیخ محمد صادق لطیفی القادری در کتاب خوارق صلوتیہ خود آوردہ است بدانکہ چنانچہ در دورہ انبیا علیہم السلام اول مظہر نبوت آدم علیہ السلام است ہمچنان درین دورہ ولایت مظہر اول آن شمس الحقایق ماہتاب وجود شریف حضرت علی است رضی اللہ عنہ چنانچہ انبیای دیگر اجزای نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بودن ہمچنان اولیای دیگر اجزای ولایت آنحضرت باشند بمثل دماشد و قلب بر قلب و قدم بر قدم انبیای دیگر کہ علمای امتی کانبیای بنی اسرائیل شاہد این مقال است **ابیات**

کنون ہر عالمی باشد ز امت — رسولی را مقابل در نبوت
بہر ظل نبوت گشت حاصل — یکی ظل ولایت در مقابل

و کرامت یکی از این اولیا مقابل معجزہ آن انبیا بود پس بعضی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موسوی و بعضی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عیسوی باشد و ولایت علوی مقابل نبوت عیسوی است چنانکہ بزبان حضرت

رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بجانب ظہور نبوت ہیچ نبی مرسل از عیسی علیہ السلام اقرب نیست موافق خبر
آنسرور علیہ الصلوٰۃ والسلام انی اولی الناس بعیسی ابن مریم فانہ لیس بینی وبینہ نبی ہمچنین
بجانب ظہور ولایت ہیچ ولی اقرب نیست بغیر از علی مرتضی کہ ولایت علوی حضرت مرتضوی بمقابل حضرت
عیسی ہست بموجب حدیث صحیح یا علی ان فیک مثل من عیسی علیہ السلام تا آخر ومثل صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ بمثل ابراہیم علیہ السلام ومثل فاروق تقی بنوح علیہ السلام ومثل عثمان ذوالنورین بلوط علیہ السلام
کردہ فرمودہ تحسنین کسی کہ بعد از لوط پیغمبر با زوجہ خود ہجر کردہ عثمان ہست رضی اللہ عنہم پس بدانکہ حضرت علی
کرم اللہ وجہہ در مراتب ولایت اول مصدر ولایت ہست ودر مراتب خلافت آخر مظہر خلافت ہست کہ بموجب حدیث الخلافۃ من بعدی ثلاثون
سنۃ تا آنکہ مظہر شمس الحقایق محمدی کہ ماہتاب ولایت علویت در تحت شعاع آفتاب وجود فایض الجود
حضرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بود مرتبہ مقارنہ داشت چون در تحت الشعاع باوج ارتفاع بر آمد واز مدارج
بدائیت بمعارج بدریہ راجع گشت بزمانیکہ عصر ونشر وجود شریف حضرت غوث الاعظم محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین
سلطان سید عبد القادر جیلانی ہست بمقابلہ تمام وکمال مرتبہ استوی شمس الشموس محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
بدر عالی قدر گردیدہ وبرتبہ علیہ قدم بر قدم محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز ومشرف گشت ونص[1] حکمت فردیہ
فی کلمۃ المحمدیہ بعینہ متجلی در بدر علیہ قادریہ گشت چنانچہ در چہاردہ روز وشب مہتاب جہانتاب کثرت بدرجات
بدریہ روشن ومزین میگردد ہمچنانکہ بچہاردہ کرسی حسب ونسب شریف مادر وپدر بزرگوار کہ ہریکی از انہا سیدات
وسادات صحیح النسب اند از سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا ظہور غوث الاعظم کہ بدر عالیقدر فلک وحدت
بدین درجات چہاردہ گانہ جہان وجہان جسمانی وروحانی را بنور ظہور خود بمرتبہ نور علی نور میرساند وکرسی نامہ
حضرت تا بآن ختم نبوت چنین بصحت پیوستہ

منظوم

شیخ عبد القادر را بگو محی دین است
ابن شمس الدین محمد با صفا
موسی الجون نہم از جدش بود

ابن شاہ عصر موسی بالیقین است
او ابن داؤد بحر اصطفا
عاشر عبد اللہ در عدش بود
تا رسول مقتدای مرسلین

ابن عبد اللہ آن ماہ تمام
ابن موسی آن بزرگ پاک دین
شد حسن دیگر مثنی بن حسن
ہادی محشر شفیع المذنبین

ابن یحیی کہ بزاہد داشت نام
ابن عبد اللہ آن شیخ گزین
بن علی بو طالب از وجہ حسن

[1] نص بالفتح وتشدید صاد وبکسر وضم نیز آمدہ منتخب اللغات

و دو بمال

ودر مثال بدریہ این چہاردہ بزرگوار عالیمقدار بچہاردہ روز بود چہاردہ ازواج سیدات مطہرات این چہاردہ ساوات رفیع الدرجات ساوات رفیع الدرجات بچہاردہ شب باشد چراکہ شب مظہر ستاری ست وچہاردہ صالحات عارفات زین المستورات اندو درین سلسلہ انساب مذکورہ بترتیب تناسل تا اصل پیوست بحسب صوری وسلسلہ معنوی کہ بیواسطہ حضرت غوث الاعظم فرزند سرورعالم اندآنست کہ فرمودہ اندکہ دیدم رویائے کہ در دامن مادر مومنان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہستم وآن امّ المومنین از پستان مبارک خود مرا شیر می نوشانند ودران احال حضرت سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم برسرمن حاضر اند وبزبان مبارک میفرمایند کہ ای عائشہ عبدالقادر فرزند من ہست **مصرع** زہی خوابی مراتب بہ زبیداری ہست ء واین نقل درکتاب قلائد الجواہر مذکور ہست واین فقیر صادق را درین معنی شعری ہست **رباعی**

آفتاب نبوت است نبیؐ	ماہتاب ولایت است علی
صادقی ہست بدر عالیقدر	غوث اعظم شہنشہ جیلی

پس بدانکہ چنانچہ در مراتب مہتاب مجازا از ہلال تا بزوال ہیچ مرتبہ فوق مرتبہ بدریت نیست ہمچنان درین مراتب ماہتاب ولایت از مرتبہ ارتفاع تا مرتبہ تحت الشعاع ہیچ مرتبہ اجلی واجمل وروشن ومبرہن چون مرتبہ بدر نیست کہ مرتبہ فوق فوق مرتبہ بدر ہست واین بدر قدر قادریہ کہ بچہاردہ نسبت شب وروز صوری و معنوی مظہر اتم شمس الشموس محمدی ہست صلی اللہ علیہ وسلم کہ در سائر مراتب سلوک طریقہ خاصہ محمدیہ درجہ بدرجہ سیر نمودہ وبجز یک قدم نبوت ہیچ قدم را از اقدام ولایت فروگذاشت ننمودہ بمقامی ورا را لوراء رسیدہ بمقامی دنی فتدلی فکان قاب قوسین اوادنی بحضرت ذوالجلال اتصال یافتہ ہست چنانچہ این مقدمہ وصال کمال خود بخجستہ مقال خود شرح فرمودہ کہ کل ولی علی قدم نبی وانا علیٰ قدم جدی المصطفے صلی اللہ علیہ وسلم وما وضع المصطفے قدما من موضع الا وضعت قدمی فی موضع قدمہ الا قدم واحد من النبوۃ لانہ خاتم الانبیاء علیہ السلام پس باید دانست کہ ہریک ولی کہ برقلب وقدم نبی ست شک نیست کہ قلب برقلب آن نبی باشد وکرامت آن ولی مثل معجزہ آن نبی بود انتہے السادس عشر قال العالم الشیخ السید محی الدین شاہ القادری الکرنولی الحیدرآبادی فی کتابہ

معدن الاسرار فی بیان جواہر الابرار بدانکہ سالک را در فناء اول شعوری در وقت تجلیات صفات باقی ہست اما در فناء الفناء شعوری اصلا نیست و در فناء الفناء سالک را بقا باللہ عزوجل حاصل آید ہمیشہ در ذات کائنات تصرف کند اما این مرتبہ ہیچ ولی را و قطب را نیشود تا آنکہ در مقام ولایۃ حضرت سلطان کونین محمد رسول اللہ سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نرسد و معلوم ہست حضرت قطب الاقطاب سلطان الاولیا والاحباب سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجعفری الجیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ دران مقام شریف اعلی الدرجات العلی رسیدہ اند چنانچہ فرمودہ اند کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و او قدم ایجاولایت ہست این سخن در حجرہ نگفتہ اند بلکہ در مجمع اقطاب و اولیاء احباب این سخن فرمود ہمہ اقطاب کبار و اولیا ء ذوی الوقار قبول کردند و یقین نمودند و راوی این حکایت قدوۃ الاولیا صاحب خانوادہ سہروردی شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ است انتہی السابع عشر قال فی اللسان الہندی العالم الفاضل مفتی غلام سرور لاہوری فی کتابہ گلدستہ کرامات روایات از جناب شیخ شہاب الدین سہروردی وحضرت گنج بخش کبیر و شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہم در کتاب بہجۃ الاسرار مین جو تصنیف حضرت علی و رجت شیخ نور الدین ابی الحسن شطنوفی شافعی کی ہے روایت کرتا ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ فرماتے ہین کہ فرمایا حضرت شیخ الخیر والکل غوث الثقلین غوث الاعظم والفرد الافخم والباز الاشہب قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہ اپنے جد امجد کے قدم پر ہون نہ اوٹھایا کوئی قدم انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام سے کہ نہ رکھا مین نے قدم اپنا اوس جگہہ پر اور جیسے کہ قدم آنجناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن سارے انبیاء پر ہین ویسے ہی قدم ہمارے بھی گردن پر کل اولیاء اللہ کے ہین۔ ترجمہ حاصل مطلب ۱۸ کتاب عربی فارسی وہندی کا یہہ ہے کہ حضرت محبوب سبحانی غوث صمدانی عارف حقانی شیخ سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہر ولی اوپر قدم نبی اپنے پیغمبر کے ہے اور مین اوپر

قدم اپنے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور نہیں اوٹھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مگر بیٹے رکھا قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوس جگہہ پر گرنہ وہ کہ قدم نبوت ہو اوسکو نہیں پاویگا سوا نبی کے انتہی

الفصل الرابع فی ثبوت النسب الشریف الشیخ السید عبد القادر رضی اللہ عنہ

انہ قال الشیخ السید عبد القادر رضی اللہ عنہ باللہ هذا الوجود وجود جدی لا وجود عبد القادر ورد فی کتب متعددة بروایة الثقات الاول قال العالم العلامة الشیخ عبد القادر بن محی الدین الاربلی فی کتابہ تفریح الخاطر المنقبة الرابعة والثلاثون فی قولہ رضی اللہ عنہ هذا الوجود وجود جدی صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر (ذکروا) ان حضرت الغوث توجہ یوما الی البیت وتبعہ ولدہ الشیخ عبد الجبار وقبل الدخول الی البیت لم یر الغوث فدخل البیت وقال لوالدتہ کنت مع الغوث الی الباب فلم ارہ یدخل البیت فقالت والدتہ منذ خمسة عشر یوما ما دخل فی البیت فلما سمع هذا الکلام توجہ الی الحجرة المطهرة التی یشتغل فیها الغوث فی اللیالی بالعبادة فرای باب الحجرة معلقا من الداخل فعلم ان حضرة الغوث فیها فوقف قائما متادبا واضعا احد یدیہ علی الاخری عند باب الحجرة الی نصف اللیل فلما تجاوز نصف اللیل فتح الغوث باب الحجرة فقال لولدہ الشیخ عبد الجبار انک کل وقت تلاحظ فی نفسك ان عدم رواحی الی البیت کان احسن فانہ کان الامر کما لاحظت تعطلت صورة التوالد والتناسل لکن فی الحقیقة اجی الی الحجرة وفی نظر الخلائق انهم یرونی اروح الی البیت کما رایت فسر الشیخ عبد الجبار بهذا الکلام فسألہ الشیخ عبد الجبار ان النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قضی حاجتہ تبتلع الارض ما برز منہ ویفوح عرقہ کالعطر ولا یقع علیہ الذباب فهذہ خاصة النبی صلی اللہ علیہ وسلم والا نری هذہ الخاصة من حضرتکم فقال لہ الغوث ان عبد القادر صار فانیا وباقیا فی ذات جدہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال الغوث تاللہ هذا وجود جدی لا وجود عبد القادر فسألہ ایضا کان صلی اللہ علیہ وسلم یظللہ السحاب ولا مانع من تظلیل حضرتکم فقال الغوث ترکتہ عمدا لئلا یظنوا انی نبی رضی اللہ عنہ انتهی

والثانی قال العالم الشیخ محمد صادق شهابی سعدی قادری فی کتابہ مناقب الغوثیہ وهو بالفارسیة

در مناقب معراجیه مذکور است که مگس نمی نشست بر بدن مبارک وی رضی الله عنه چنانکه نمی نشست ببدن مبارک آنحضرت صلی الله علیه وسلم و بود عرق وی و بدن وی خوشبوی چنانکه عرق و بدن آنحضرت صلی الله علیه وسلم بود در بیت الخلا میرفت بول و غایط وی را زمین فرو می برد صلی الله علیه وسلم پرسیده شد حضرت غوث الثقلین را رضی الله عنه ازین حالات پس گفت بالله هذا وجود جدی لا وجود عبد القادر یعنی این وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم است نه وجود عبد القادر و درین کلام اشارت است سوی فنا را تم آنحضرت غوثیه در آنحضرت نبویه ذاتا و صفاتا و قولا و فعلا و حالا و کمالا پس معلوم شد که رتبه آنحضرت رضی الله عنه از رتبه سائر اولیا و تصرفات و افاضات وی بسیار است انتهی والثالث قال العالم الفاضل السید محمد معروف شاه قادری فی کتابه مشکوة ولایة الکبری وهی بالفارسیة حضرت سید الاولیاء الاولین والآخرین جگر گوشهٔ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نور نظر حضرت مرتضی فرد الافراد و قطب الاقطاب غوث الاغواث حضرت محبوب سبحانی سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجعفری الجیلانی را سلام الله علیهم بعدد معلومات الله تعالی الی یوم الدین آئینه شهود ذات بمثال و مظهر قال و حال و کمال حبیب خویش ساخت تا بیگانگت قدیمی که حکم وجود جدی لا وجود عبد القادر وارد قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله انتهی الرابع قال العالم الفاضل المحقق الشیخ محمد صادق الطیفی القادری المتخلص بمشربی در کتاب خوارق صادقیه خود آورده است چنانچه از حضرت غوث الثقلین قدس سره مرویست ترجمه آن در نظم این است

کرده ام بانفس خو چندین جهاد ... تا که مومن گشت این کافر نهاد
شد مسلمان نزد من شیطان من ... یافت ایمان حقیقی جان من
پس من از کون و مکان بیزار شدم ... در هوای مخزن گوهر شدم
ماند مخلوقات موجودات پس ... غیر سو آنجا ندیدم هیچکس
چون بچشم سر خود کردم نظر ... آن مکان را یافتم چندین در
بر در باب توکل سر زنان ... رفتم و دیدم بسی زحمت در آن
پس برفتم بر در شکر و غنا ... یافتم بر هر دو رنج و عنا
آمدم ز آنجا بدرگاه شهود ... چون بدیدم خالی از زحمت نبود
پس از آنجا بر در فقر آمدم ... یافتم خالی درون در شدم
اندر آنجا آنچه من بگذاشتم ... بهر آنجا جمله حاضر یافتم
گنج اکبر عز اعظم فتح شد ... فی الحقیقت ملک من شد آنچه بد
جذبهٔ خالص غنای سرمدی ... گشت حاصل از عطای ایزدی
جلوهٔ قادر بقدرت رو نمود ... از سر تو خلق فرسود آنچه بود
من نه آنم آنچه بودم پیشتر ... گشته اکنون این وجود من دگر

چنانچہ فرمودن رضی اللہ عنہ ہذا وجود جدی و لا وجود عبد القادر صدق الشیخ رضی اللہ عنہ ما گدایان کہ خود را فقیر میخوانیم چیزی دیگر ہست و فقر یکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم و غوث الاعظم رضی اللہ عنہ بآن افتخار فرمودہ اند معنی دیگر دارد انتہی الخامس ترجمہ فی اللسان الہندی اور گلدستہ کرامات میں روایت جناب شیخ الابرار سید عبد الجبار رحمہ اللہ الغفار نور العین آن محبوب کردگار فرماتے ہیں کہ والدی و سیدی و مولائی شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی اکثر زبان حق ترجمان سے فرمایا کرتے تھے کہ ہذا وجود جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر یعنی یہ ہے کہ یہ وجود میرا میرے جد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہیں ہے وجود عبد القادر کا ترجمہ عبارت کتاب تفریح الخاطر و دوم مناقب الغوثیہ و خوارق صادقیہ کا حاصل مطلب یہ ہے کہ حضرت غوث الاعظم محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اللہ کی قسم ہے کہ یہ وجود میرا میرے جد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہیں ہے وجود عبد القادر کا یہ مقام فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ کو سوای حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا خیال نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ شانہ فرمایا ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں قولہ تعالی و من یطع الرسول فقد اطاع اللہ انتہی **الفصل الخامس فی ثبوت النسب الشریف رضی اللہ عنہ** وایضا یدعی الشیخ رضی اللہ عنہ نسبہ الشریف کما ورد فی کتب متعددۃ من الفحول العلماء والثقات لاشک فیہ الاول قال العالم الفاضل المحدث الشیخ عبد الحق الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ زبدۃ الاسرار واخبر المشایخ الشیخ عبد الوہاب والشیخ عبد الرزاق والعمران الکیمانی والبزار قالوا سمعنا الشیخ محی الدین السید عبد القادر رضی اللہ عنہ یقول علی الکرسی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا بنی لم لا تتکلم فقلت یا ابتاہ انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء بغداد فقال افتح فاک ففتحت فتفل فیہ سبعا وقال لی تکلم علی الناس وادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ فصلیت الظہر وجلست وحضر فی خلق کثیر فارتج علی فرأیت علیا رضی اللہ عنہ قائما بازائی فقال لی افتح فاک ففتحتہ فتفل فیہ ستا فقلت لم لا تکملہا سبعا فقال ادبا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ

سیوم مشکوۃ و تلا گری
چہارم خوارق

وسلم ثم تواری عنی فقلت غواص الفکر فی بحر القلب علی درّ المعارف فیستخرجہا الی ساحل الصدر فینادی علیہا سمسار ترجمان اللسان فتشتری بنفایس حسن الطاعۃ فی بیوت اذن اللّٰہ ان ترفع قالوا ھذا اول کلام تکلم بہ الشیخ السید عبد القادر للناس علی الکرسی رضی اللّٰہ عنہ انتہی۔ الثانی قال العالم الفاضل الشیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوفی الشافعی فی کتابہ بہجۃ الاسرار ومعدن الانوار اخبرنا الفقیہ ابو الفتح نصر اللّٰہ بن القاسم یوسف بن خلیل بن احمد الہاشمی البغدادی الکرخی بالقاہرۃ سنۃ ثلاثین وستمائۃ قال اخبرنا ابی عبد الرزاق ببغداد وعمی عبد الوہاب والعمران الکیما فی والبزار سنۃ تسعین وخمسمائۃ قالوا سمعنا الشیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللّٰہ عنہ سنۃ ثلاث وخمسین وخمسمائۃ یقول علی الکرسی رائیت رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قبل الظہر من یوم الثلاثا والسادس عشر من شوال سنۃ احد وعشرین وخمسمائۃ فقال لی یا بنی لم لا تتکلم قلت یا ابتاہ انا رجل اعجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب ببغداد قال لی افتح فاک ففتحتہ فتفل فیہ سبعا وقال لی تکلم علی الناس وادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ فصلیت الظہر وجلست وحضر فی خلق کثیر فارتج علیّ فرأیت علی بن ابو طالب کرم اللّٰہ وجہہ قائما بازائی فی المجلس فقال لی لم لا تتکلم قلت یا ابتاہ قد ارتج علیّ فقال افتح فاک ففتحتہ فتفل فیہ ستا فقلت لم لا تکملہا سبعا فقال ادبا مع رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ثم تواری عنی فقلت غواص الفکر یغوص فی بحر القلب علی درر المعارف فیستخرجہا علی ساحل الصدر فینادی علیہا سمسار ترجمان اللسان فتشتری بنفایس اثمان حسن الطاعۃ فی بیوت اذن اللّٰہ ان ترفع قالوا ھذا اول کلام تکلم بہ الشیخ علی الکرسی رضی اللّٰہ عنہ انتہی۔ الثالث قال العالم العلامۃ والحبر الفہامۃ الشیخ محمد بن یحیی التادفی الحنبلی رحمۃ اللّٰہ علیہ فی کتابہ قلائد الجواہر فی مناقب الشیخ السید عبد القادر رضی اللّٰہ عنہ وقال استاذنا الشیخ السید عبد القادر رضی اللّٰہ عنہ رأیت رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قبل الظہر فقال لی یا بنی لم لا تتکلم فقلت یا ابتاہ انا

رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء بغداد فقال لی افتح فاک ففتحتہ فتفل فیہ سبعا وقال تکلم علی الناس وادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ فصلیت الظہر و جلست وحضرنی خلق کثیر فارتج علی فرأیت علیا رضی اللہ عنہ فقال افتح فاک ففتحتہ فتفل فیہ ستا فقلت لم لا تکملہا سبعا قال ادبا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تواری عنی فقلت غواص الفکر یغوص فی بحر القلب علی درر المعارف فیستخرجہا الی ساحل الصدر فینادی سمسار ترجمان اللسان فتشتری باثمان بنفائس اثمان حسن الطاعۃ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع انتہی الوبیع قال العالم الفاضل السید ظہیر الدین القادری فی کتابہ فتح المبین عن ابی الفتح نصر اللہ بن القاسم بن یوسف بن خلیل بن احمد الہاشمی الکرخی ببغداد قال اخبرنا قاضی القضاۃ ابو صالح نصر بن الحافظ تاج الدین ابی بکر عبد الرزاق البغدادی سنۃ ستین وستمائۃ قال اخبرنا ابی عبد الرزاق وعمی عبد الوہاب والعمران الکیمانی والبزار ببغداد سنۃ تسعین وخمسمائۃ قالوا سمعنا اباہم السید الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ سنۃ ثلث وخمسین وخمسمائۃ یقول علی الکرسی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر من یوم الثلاثاء السادس عشر من شوال سنۃ احدی وعشرین وخمسمائۃ فقال لی یا بنی لم لا تتکلم فقلت یا ابتاہ انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء بغداد فقال افتح فاک ففتحتہ فتفل فیہ سبعا ثم قال لی تکلم علی الناس وادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ فصلیت الظہر وجلست وحضر فی خلق کثیر فارتج علی فرایت علی بن ابیطالب کرم اللہ وجہہ قائما بازائی فی المجلس فقال لی یا بنی لم لا تتکلم قلت یا ابتاہ قد ارتج علی فقال افتح فاک ففتحتہ فتفل فیہ ستا فقلت لہ لم لا تکملہا سبعا فقال ادبا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تواری عنی فقلت غواص الفکر یغوص فی بحر القلب علی درر المعارف فیستخرجہا الی ساحل الصدر فینادی علیہا سمسار ترجمان اللسان فتشتری بنفائس اثمان الطاعۃ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع قالوا فہذا اول کلام تکلم بہ علی الناس علی الکرسی رضی اللہ عنہ ونقل الامام السیوطی علیہ الرحمۃ ایضا

فی کتابہ تنویر الحلک فی بیان رویۃ النبی والملک عن الشیخ سریع الدین الملقن فی طبقات الاولیاء من ان الشیخ السید عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر فقال افتح فاک ففتحتہ فتفل فیہ سبعا وقال تکلم علی الناس وادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ فصلیت الظہر وجلست وحضرنی خلق کثیر فارتج علی فرأیت علیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائما بازائی فی المجلس فقال لی یا بنی لم لا تتکلم قلت ابتاہ قد ارتج علی قال افتح فاک ففتحتہ فتفل فیہ ستا فقلت لم لا تکملہا سبعا قال ادبا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تواری عنی فقلت غواص الفکر یغوص فی بحر القلب علی درر المعارف فیستخرجہا الی ساحل الصدر فینادی علیہا سمسار ترجمان اللسان فتشتری بنفائس اثمان حسن الطاعۃ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع انتہی بحروفہ الخامس قال العلامۃ الشیخ عبد القادر بن محی الدین الاربلی رحمہ اللہ تعالی فی تفریح الخاطر المنقبۃ الثانیۃ فی اول تکلمہ علی الناس علی الکرسی رضی اللہ عنہ ذکر فی بہجۃ الاسرار قال رضی اللہ عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر من یوم الثلاثا السادس عشر من شہر الشوال سنۃ احدی وعشرین وخمسمائۃ فقال لی یا بنی لم لا تتکلم قلت یا ابتاہ انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء بغداد فقال لی افتح فاک ففتحتہ فتفل فیہ سبعا فقال لی تکلم علی الناس وادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ فصلیت الظہر وحضر فی خلق کثیر فارتج علی فرأیت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قائما بازائی فی المجلس فقال لی یا بنی لم لا تتکلم فقلت یا ابتاہ قد ارتج علی فقال لی افتح فاک ففتحتہ فتفل ستا فقلت لم لم تکملہا فقال ادبا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تواری عنی فقلت غواص الفکر یغوص فی بحر القلب علی درر المعارف فیستخرجہا الی ساحل الصدر فینادی علیہا سمسار ترجمان اللسان وتشتری بنفائس اثمان حسن الطاعۃ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع قالوا ہذا اول کلام تکلم بہ علی الناس علی الکرسی رضی اللہ عنہ انتہی السادس قال العالم العلامۃ والحبر الفہامۃ الامام عبد اللہ الیافعی الیمنی الشافعی رحمہما اللہ تعالی

فی کتابہ خلاصۃ المفاخر فی مناقب غوث الملکوت السید عبد القادر رضی اللہ عنہ حکایت صد وہفتاد و
سیوم نقل ست از شیخ عمر کیمانی و عمر بزاز و از شیخ الاسلام سید عبد الرزاق و از سید عبد الوہاب ابناء
شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر رضی اللہ عنہ کہ گفتند وقتی شیخ بالای منبر میفرمودند کہ پیغامبر را
صلی اللہ علیہ وسلم روز سہ شنبہ شانزدہم از شوال سنۃ احدی وعشرین وخمسمائۃ دیدم وی صلی اللہ
علیہ وسلم فرمودند یا بنی لم لا تکلم گفتم یا ابتاہ من مرد عجمی ام بر فصحاء بغداد چگونہ سخن گویم فرمود دہن
بکشا ہچنان کردم ہفت بار در دہن من بدمید و گفت بر خلق سخن گوی وادع الی سبیل ربك بالحکمۃ
والموعظۃ الحسنۃ پس من نماز ظہر بگذاردم وہم بر جای خود نشستم ودیدم کہ خلقی بسیار جمع آمدند و
زبان من بستہ شد امیر المومنین علی بن ابیطالب کرم اللہ وجہہ را دیدم کہ در مقابلہ من ایستادہ است
ومیگوید ای فرزند چرا سخن نمیکنی گفتم یا ابتاہ زبان من بستہ شدہ است فرمود دہن باز کن دہن باز
بکشادم شش بار در دہن من بدمید گفتم چرا ہفت بار ندمیدی فرمود از جہت ادب با پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم واز نظر من متواری غائب شد بعد از ان من در سخن آمدم وگفتم غواص فکر در دریا ر قلب
غواصی میکند برای در ر معارف پس بیرون می آرد بساحل صدر پس ندا میکند بران دستان
ترجمان زبان پس خریدہ میشود اثمان حسن طاعت در بیوتی کہ اذن اللہ ان ترفع راویان مذکورین میگویند
کہ این اول کلام شیخ بود بر خلق رضی اللہ عنہ السابع قال العالم الفاضل قدوۃ المحققین مولانا
محمد غوث المخاطب بشرف الملک علیہ الرحمہ فی کتابہ اظہار المفاخر وہی بالفارسیۃ وہذا عبارتہ مروی است
از شیخ عمر کیمانی وشیخ عمر بزار وشیخ ابی عبد اللہ عبد الوہاب وشیخ ابی بکر عبد الرزاق بروایت قاضی القضاۃ
ابی صالح نصر بن ابی بکر بن عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہم کہ شنیدیم از شیخ محی الدین سید عبد القادر
رضی اللہ عنہ کہ بر کرسی میفرمود در سنہ پانصد وپنجاہ وسہ ہجریہ دیدم پیغمبر خدا را صلی اللہ علیہ وسلم
پیش از نماز ظہر روز سہ شنبہ شانزدہم ماہ شوال سنہ پانصد وبیست ویک از ہجرت وی صلی اللہ
علیہ وسلم مرا فرمود ای پسر چرا سخن نمیگوئی عرض کردم ای پدر من مرد عجمی ام چسان سخن کنم بر فصحای
بغداد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمود دہن تو بکشای دہن من کشادم لعاب مبارک در دہن

من هفت بار انداخت و فرمود که سخن موعظت بگوی مردم را و بخواه آنها را بسوی راه پروردگار تو بحکمت و پند نیک پس نماز ظهر گذاردم و نشستم و جمعی کثیر بر من هجوم آوردند پس سخن بر زبانم بند شد پس دیدم علی بن ابی طالب را کرم الله وجهه که در مجلس در مقابل من ایستاده است و میفرماید ای پسر چرا سخن نمیگوئی گفتم ای پدر هر آئینه سخن بر من بند شده است فرمود دهان بگشای دهن کشادم پس لعاب شریف شش بار در آن انداخت عرض کردم چرا هفت بار نکردی فرمود برای ادب رسول خدا صلی الله علیه وسلم پس از نگاه من مستور شد پس این سخن گفتم غواص الفکر یغوص فی بحر القلب علی درر المعارف فیستخرجها الی ساحل الصدر فینادی علیها سمسار ترجمان اللسان فتشتری بنفائس اثمان حسن الطاعة فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسم الله یعنے غواص فکر فرو میرود و بدریائی دل برای دُر های معارف پس بر می آرد آنرا بسوی ساحل سینه پس ندا میکند بر آن دلال ترجمان زبان و توصیف آن می سازد پس خریده میشود آنرا به بهترین بهاهای حسن طاعت در خانهای که اذن داده است خدا تعالی که ذکر کرده شود باواز بلند و در آنجا نها نام خدا تعالی راویان میگویند که این سخن اول کلامی است که وی رضی الله عنه بر کرسی فرمود انتهی الثامن قال العالم المحدث المحقق الشیخ عبد الحق الدهلوی رحمه الله فی کتابه زبدة الآثار وهی بالفارسیة وهذا عبارته آب دهن انداختن رسول خدا صلی الله علیه وسلم و علی مرتضی کرم الله وجهه در دهن مبارک غوث رضی الله عنه و خبر داده اند شیخ عبد الوهاب و شیخ عبد الرزاق و غیر ایشان از مشایخ گفتند شنیدیم شیخ محی الدین سید عبد القادر را رضی الله عنه که میگفت بر کرسی دیدم رسول خدا را صلی الله علیه وسلم پس گفت مرا ای پسر چرا تکلم نمیکنی پس گفتم ای پدر من مرد عجمی ام چگونه تکلم کنم بر فصحای بغداد پس گفت آنحضرت صلی الله علیه وسلم بگشای دهن خود را پس کشادم دهن را پس انداخت آب دهن مبارک خود را در دهن من هفت بار و گفت مرا تکلم کن بر مردمان و بخوان مردم را براه خدا بحکمت و موعظت حسنه پس گذاردم من ظهر را و نشستم و حاضر شد مرا خلق کثیر پس بسته شد کلام بر من پس دیدم علی را رضی الله عنه که ایستاده است مقابل من پس گفت مرا بگشا دهن خود را پس بکشادم دهن را پس انداخت آب دهن خود را

شش بار پس گفتم چرا کامل نمیگردانی هفت بار گفت از جهت ادب با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پستر
پوشیده شد از من پس گفتم من این کلام را غواص الفکر علی درر المعارف فیستخرجہا الی ساحل الصدر
فینادی علیہا سمسار ترجمان اللسان فتشتری بنفائس اثمان حسن الطاعۃ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع قالوا
ہذا گفتند مشایخ کہ این اول کلامی ہست کہ تکلم کرد شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ بر کرسی انتہی التاسع قال
سلطان دارا شکوہ فی کتابہ سفینۃ الاولیاء وہی بالفارسیۃ ودر سال پانصد وبیست ویک بفرمودۂ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ آب دہن مبارک در دہن آنحضرت رضی اللہ عنہ انداختند
بر منبر برآمده مجلس وعظ نہاد و ندا انتہی ترجمہ عبارت عربی وفارسی ان کتابوں کا یہہ ہے اول کہا شیخ محدث
محقق عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زبدۃ الاسرار مین دوم کہا عالم علامہ شیخ محمد بن یحیی
التادفی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب قلائد الجواہر مین سیوم کہا شیخ ظہیر الدین الحسنی القادری نے اپنی کتاب
فتح المبین مین چہارم کہا شیخ نور الدین ابی الحسن علی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب بہجۃ الاسرار مین پنجم کہا عالم
علامہ شیخ عبد القادر بن محی الدین اربلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر مین ششم کہا امام عبد اللہ
یافعی شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خلاصۃ المفاخر مین ہفتم کہا قدوۃ المحققین محمد غوث المخاطب بشرف
الملک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انہار المفاخر مین ہشتم کہا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے
اپنی کتاب زبدۃ الآثار مین نہم کہا سلطان دارا شکوہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء مین بروایت اخبار مشایخ
کرام شیخ عبد الوہاب و شیخ عبد الرزاق و عمران الکیمانی نے ویزار نے کہا کہ سنا ہمنے سال پانچ سو نو مین روز
سہ شنبہ ۱۶ تاریخ ماہ شوال کی ۵۲۱ھ پانچسو تئیس مین پہلے ظہر سے شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ نے
فرمایا کرسی پر یعنے منبر پر دیکہا مینے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ای میرے
بیٹے کیا واسطے وعظ نہین کرتا ہے پس عرض کیا مینے یا بابا مین مرد ہون عجمی کسطرح سے وعظ کرون فصحای
عرب و بغداد کے سامنے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دہن یعنے منہ اپنا کہول پیچہے
دہن باز کیا مینے کہولا پیچہے دہن میرے موئنہ کو سات دفعہ لعاب شریف یعنے لب مبارک اپنے میرے
دہن میں ڈالے اور فرمایا وعظ بیان کر دبیل حسنہ حکمت سے پیچہے پڑہی مینے صلوۃ ظہر جب فارغ ہوا

نسخہ صحیح ای بیٹی میری

نماز ظہر سے بیٹھا مین اپنی جگہہ پر خلق کثیر جمع ہوگی میرے پاس اور زبان میری بند ہوگئی پس دیکھا مین نے جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو میرے سامنے کھڑا ہے اور کہا میرے کو کیا واسطے وعظ نہین کرتا ہو پس عرض کی مینے یا باپ میرے زبان میری بند ہوگئی ہو فرمایا دہن باز کن دہن کو کھولا چھہ دفعہ لعاب شریف اپنی دہن مبارک کی میرے دہن مین ڈالے مینے عرض کی کیا واسطے سات دفعہ پورا نہین کیا فرمایا کہ یہ ادب ہو ساتھہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس غائب ہوگیا پھر من غواص دریای فکرا و غوطہ مارتا ہو دریای دل مین واسطے درمعارف کے اوپر کنارۂ زبان کے پس ندا کرتا ہے اوپر اوس واستان کے ترجمان زبانسی ہر پس خریدہ جاتا ہو جواہر حسن طاعت کے گھرون مین ساتھہ اذن پروردگار کے کہ اونچا کرتا ہو مرتبہ کو انتہی وقال العالم الکامل العلامۃ والحبر الفہامۃ مولینا علی القاری فی کتابہ شرح الشفاء القاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فی جلد الآخر وقال عمرو بن دینار ھو ابو محمد موسی بن قیس مکی یروی عن ابن عباس وابن عمرو جابر وعنہ شعبۃ وسفیانان وحمادان ھو عالم حجۃ اخرج لہ الائمۃ الستۃ فی قولہ ای اللہ سبحانہ فاذا دخلتم بیوتا بضم الباء وکسرھا فسلموا علی انفسکم ای علی اھلیکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ قال ابن دینار وھو من کبار التابعین المکیین وفقہائہم ان و فی نسخۃ فان لم یکن فی البیت احد فقل السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ای لان روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اھل الاسلام السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ای من الانبیاء والمرسلین والملئکۃ المقربین السلام علی اھل البیت لعل المراد بہم مومنی الجن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وظاھر القرآن عموم البیوت لاسیما وسابقہ بیوتکم وبیوت آبائکم الآیتہ ویؤیدہ حدیث انس متی لقیت احدا من امتی فسلم علیہ یطل عمرک واذا دخلت بیتک فسلم علیہم یکثر خیر بیتک وصل صلوۃ الضحیٰ فانہا صلوۃ الابرار الاوابین انتہی الخ وجناب شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ در مدارج النبوت جلد ثانی آوردہ است پوشیدہ نماند کہ بعد از اثبات حیات حقیقی حسی دنیاوی اگر بعد ازان گویند کہ حق تعالیٰ جسد شریف را حالتی و قدرتی بخشیدہ است کہ در ہر مکانی کہ خواہد تشریف بخشد خواہ بعینہ یا بامثال خواہ بر آسمان یا بر زمین خواہ در قبر شریف یا غیر وی

شفاء ۱۱ المطبوعہ مصر

صورتی دارد یا وجود ثبوت نسبت خاص بقبر شریف پیغمبر در ہمہ حال مرویت انتہی **الفصل السادس فی مصافحۃ ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین زارتہ** وھذا ایضا استبشار علی اثبات نسب الشریف رضی اللہ عنہ کما ورد فی کتب متعددۃ الاول قال العالم الفاضل الشیخ عبد القادر القادری ابن محی الدین الاربلی رحمۃ اللہ تعالی فی کتابہ تفریح الخاطر المنقبۃ الثانیۃ والعشرون فی مصافحۃ ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین زیارتہ ذکروا ان الغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ جاء مرۃ الی المدینۃ المنورۃ واستقبل مرقد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین صباحًا یوما قائما واضعا یدیہ علی صدرہ مناجیا بھذین البیتین

ذنوبی کموج البحر ھی اکثر ✤ کمثل الجبال الشم ھی اکبر ✤ ولکنھا عند الکریم اذا عفا ✤ جناح من البعوض بل ھی اصغر

وجاء مرۃ اخری وقرأ بقرب الحجرۃ الشریفۃ ھذین البیتین

فی حالۃ البعد روحی کنت ارسلھا ✤ تقبل الارض عنی وھی نائبتی ✤ وھذہ نوبۃ الاشباح قد حضرت ✤ فامدد یمینک کی تحظی بھا شفتی

فظھرت یدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحھا وقبلھا ووضعھا علی راسہ رضی اللہ تعالی عنہ انتھی۔ الثانی قال العالم الشیخ محمد صادق الشہابی السعدی القادری رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ المسمی بمناقب الغوثیۃ المنقبۃ الثامنۃ والاربعون فی مصافحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین زارہ یک نوبت حضرت خداوندم غوث الاعظم قدس اللہ سرہ الاکرم چون در مدینہ منورہ تشریف فرمودند تا چہل روز دست بستہ ایستادہ سوئی مرقد مبارک نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم روی آوردہ این مناجات میخواندند

مناجات

ذنوبی کموج البحر ھی اکثر ✤ کلھا مثال الجبال ھو اکبر ✤ ولکن عند الکریم اذا عفا ✤ کجناح البعوضۃ بل ھی اصغر

و نوبت دویم قریب حجرہ شریفہ مصطفویہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم این شعر خواندند

وروحی کنت ارسلھا ✤ تقبل الارض عنی وھی نائبتی ✤ وھذہ نوبۃ الاشباح قد حضرت ✤ فامدد یدیک لکی تحظی شفتی

پس ہر دو دست مبارک حضرت مقدسہ مصطفویہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر شدند و خداوندم حضرت

غوثیہ محبوبیہ مصافحہ نمودند و بوسیدند و بر سر نہادند و ہمین مضمون شعر مبارک در نظم فارسی آوردہ

روزیکہ غوث اعظم ما در مدینہ شد	گفتہ است نزد مرقد سلطان انبیا	یا سید البشر چو بادم من ہلاک خویش	روحم فرستم کہ بود نائبی زما
او میرسید و بوسہ بدی زجان ہم	بارض مرقدت کہ بود بہتر از سما	این نوبت است آنکہ رسیدم باین جسد	در حضرت شریف تو ای شاہ اصفیا
خود ہم بدی دو دست مبارک کہ بوسش	کرم نصیب خویش ز الطاف مصطفیٰ	از گفتمش سر لحد ابرو دو خویش	کردہ دراز سوی شہ قطب اولیا
بوسید یافت گوہر نعمت از آن دو کف	زین بیش گمان چیست مرحج بدای	این گفتہ است بندہ محتاج فیض او	گو عاشق است شائق درویش از ابتدا

انتہی الثالث قال العالم الفاضل المفتی غلام سرور اللاہوری فی کتابہ گلدستہ کرامت شائقان دیدار محبوب سبحانی و زائران مزار قطب روایت کرتے ہین کہ ایک سال جناب سلطان الاولیا غوث الارض والسما مقتدای اتقیا سید کونین نور العین حسنین وطن مالوف سے واسطے ادای حج بیت اللہ شریف رونق افزای حرمین الشریفین ہوئے اور مکہ معظمہ سے فورا فورا مدینہ منورہ ہوئے اور روضہ مطہرہ جناب رسالت مآب شہنشاہ انبیا علیہ الصلوٰۃ الملک الاعلیٰ پر حاضر ہوکر چالیس روز تک قیام مین رہے اور دست بستہ ہوکر روبروے مزار اکرم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہہ اشعار زبان گوہر افشان سے فرماتے تھے

شعر

ذنوبی کموج البحر بل ہی اکثر	کلہا مثل الجبال بل ہی اکبر	ولکن عند الکریم اذا عفی	کجناح البعوضۃ بل ہی اصغر

غرض چالیس روز تک آپکو یہہ ہی حالت عاید رہی کہ بے خور و خواب نہایت بیقرار روبروے مزار نور بار آن رسول کردگار قیام پذیر ہوکر یہ اشعار پڑھتے تھے بعد چالیس روز کے آپ نے یہہ شعر من دفعہ در زبان حق ترجمان کیا

شعر

فی حالۃ البعد روحی کنت ارسلہا	تقبل الارض عنی فہی نائبتی	وہذہ نوبۃ الاشباح قد حضرت	فامدد یدیک لکی تحظی بہا شفتی

یہ دو نو شعر جب زبان درفشان غوث جہان سے تین مرتبہ سرزد ہوئے تو دو نو دست مبارک جناب رسالت پناہ نبوت دستگاہ محمد رسول اللہ مزار شریف سے نمودار ہوئے جب غوث الثقلین نے یدین سید کونین دیکھے تو دوڑ کر بوسہ دیا اور مصافحہ یدین عالیین سے سعادت اندوز سعادت دارین ہوئے فقط اور یہ چند اشعار اوس حال واقعہ مین شیخ عبد الجلیل قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے

ولیہ

طبع او تصنیف فرمائے کہ بطور غنچہ تازہ درج گلدستہ ہذا ہوئے۔ اشعار تصنیف خواجہ عبد الجلیل قادری رحمۃ اللہ علیہ

یا سید الشفیع جو بدہ من بکلک خویش	روحی نثار مت کہ بود نائبی بما
این نوبت است آنکہ رسیدم با جیب	در حضرت شریف تو ای شاہ اصفیا
از عرض او رسول خدا سر ورد خوش	کردہ درد از سوی شہ قطب اولیا
عبد الجلیل بندہ محتاج فیض اوست	گو عاشقیست لیکن ز جاہلش ابتدا

روزیکہ غوث اعظم ما در مدینہ شد	بگرفت نزد مرقد سلطان انبیا
او میرسید بوسہ بدوی بجانم	بر انس مر قدرت کہ بود بہتر از سما
خواہم وی دو دست مبارک بہوش	گیرم نصیب خویش ز الطاف و عطا
بوسید یافت گوہر نعمت ازان دو کف	زین پس کمال جیست کہ شد مرجع ہمہ

غزل

صورت مہتاب جب وہ نور دین روشن ہوا	جابجا اوس نور سے نور یقین روشن ہوا
جلوہ اوس نور الہی کا جو پھیلا جابجا	آسمان اوجلا ہوا روئے زمین روشن ہوا
ظلمت دنیا کا مارا مجرم نامہ سیاہ	کون آیا اوسکے در پر جو نہیں روشن ہوا
مہر سے جس رخ پہ ہو تیری نظر اے مہرباں	صورت خورشید بس اوسکا جبین روشن ہوا
نام پایا سرور عاجز نے تیرے نام سے	تیرا خادم ہوکے یہہ گوشہ نشین روشن ہوا

الفصل السابع فی بیان ثبوت النسب رضی اللہ عنہ

قال العلماء الثقات رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسہ الشریف رضی اللہ عنہ غیر متعدد کما ورد فی کتب المعتبرۃ من الثقات الکاملین الاول قال العالم العلامۃ والحبر الفہامۃ الشیخ نور الدین ابی الحسن بن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوفی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ بہجۃ الاسرار ومعدن الانوار اخبرنا ابو سعید عبد الغالب بن احمد بن الہاشمی قال اخبرنا الشیخ ابو الحسن علی بن سلیمان الخباز قال اخبرنا الشیخان العمران الکیمانی والبزار قالا سمعنا الشیخ القدوۃ ابا سعید القیلوی رضی اللہ عنہ یقول رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من الانبیاء صلوات اللہ علیہم فی مجلس الشیخ السید عبد القادر غیر مرۃ وان السید لیشرف عبدہ وان ارواح الانبیاء لتجول فی السموات والارض جولان الریاح فی الآفاق ورایت الملائکۃ علیہم السلام یحضرونہ طوایف بعد طوائف ورایت رجال الغیب

والجان یتسابقون الی مجلسہ انتہی الثانی قال العالم الامام عبد اللہ الیافعی الشافعی الیمنی رحمہما اللہ تعالیٰ فی کتابہ تکملۃ خلاصۃ المفاخر وھی بالفارسیۃ وھذا عبارتہ نقل ست از شیخ ابو سعید قیلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ گفت در مجلس شیخ محی الدین سید عبد القادر بارہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وپیغامبران دیگر را صلوات اللہ علیہم مشاہدہ کردہ ام وارواح انبیا علیہم السلام میان آسمان وزمین ہمراہ جولان میکردند مثل جولان ریح در آفاق وملائکہ را علیہم السلام دیدم کہ طوائف بعد طوائف در مجلس شیخ حاضر میشدند ومردان غیب را رضوان اللہ علیہم وجنیان را میدیدم کہ در مجلس شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مبادرت میکردند وخواجہ خضر علیہ السلام در مجلس شیخ بسیار حاضر میشدی وگفتی کہ ہر کہ فلاح میخواہد پس ملازمت این مجلس بکند انتہی الثالث قال العالم المحقق المدقق الشیخ محمد بن یحیی التادفی الحنبلی فی کتابہ قلائد الجواہر قال الشیخ ابو سعید القیلوی وقیل ابو سعد رحمہ اللہ تعالی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من الانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین فی مجلس الشیخ السید عبد القادر غیر مرۃ وان السید لیشرف عبدہ وان ارواح الانبیاء علیہم السلام لتجول فی السموٰت والارض جولان الریاح فی الافق ورایت الملائکۃ علیہم السلام یحضرون طوائف بعد طوائف ورایت رجال الغیب یتسابقون الی مجلسہ ورایت ابا العباس الخضر علیہ السلام یکثر حضورہ فسألتہ فقال من اراد الفلاح فعلیہ بملازمۃ ھذا المجلس انتہی الرابع قال العالم الشیخ المحدث المحقق عبد الحق الدھلوی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ زبدۃ الاسرار واخبر المشائخ عن الشیخ القدوۃ ابی سعید القیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ یقول رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من الانبیاء فی مجلس السید الشیخ عبد القادر غیر مرۃ وان السید لیشرف عبدہ وان ارواح الانبیاء علیہم السلام لتجول فی السموٰت والارض جولان الریاح فی الآفاق ورایت ملائکۃ علیہم السلام یحضرون طوائف بعد طوائف ورایت رجال الغیب والجان یتسابقون فی مجلسہ ورایت ابا العباس الخضر علیہ السلام یکثر بحضورہ فقال من اراد الفلاح

فعلیہ بملازمتہ ھذا المجلس انتہی الخامس قال العالم الشیخ السید محمد المعروف بشاہ
فی کتابہ مشکوٰۃ ولایۃ الکبری وروی عن الشیخ ابی سعید القیلوی رضی اللہ عنہ یقول
رائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من الانبیاء صلوات اللہ علیہم فی مجلس سیدی
الشیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ غیر مرۃ وان السید لیشرف عبدہ وان ارواح الانبیاء علیہم
السلام تسبحون بین السموات والارض جولان الریاح فی الآفاق ورائت الملائکۃ علیہم
السلام یحضرونہ طوائف بعد طوائف ورائت رجال الغیب والجان یتسابقون الی مجلسہ
ورائیت ابی العباس الخضر علیہ السلام یکثر من حضورہ فسألتہ فقال من اراد الفلاح
فعلیہ بملازمتہ ھذا المجلس انتہی السادس قال سلطان دارا شکوہ فی کتابہ سفینۃ الاولیاء
وشیخ ابو سعید قیلوی رحمۃ اللہ علیہ گفتہ اند کہ در مجلس شیخ سید عبد القادر بارہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
وپیغمبران دیگر را صلوات اللہ علیہم وملائکہ واجنہ را صف بصف مشاہدہ میکردم انتہی السابع
قال العالم العلامۃ قدوۃ المحققین زبدۃ المدققین مولانا محمد غوث المخاطب بشرف الملک علیہ الرحمہ
فی کتابہ اظہار المفاخر مرویست از شیخ ابی سعید القیلوی بروایت شیخ عمر کیمانی وشیخ عمر بزار رحمۃ اللہ علیہم
کہ دیدہ ام رسول خدا را ودیگر انبیا را صلی اللہ علیہم وسلم بارہا در مجلس شیخ عبد القادر رضی اللہ
عنہ وبتحقیق سید شرف میدہد بندۂ خود را وارواح انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام جولان میکردند در میان
آسمان وزمین مانند جولان بادہا در آفاق انتہی الثامن کہا عالم فاضل مفتی غلام سرور علیہ الرحمہ نے
اپنی کتاب گلدستۂ کرامت میں کہ روایت ہے شیخ ابو سعید قیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس
جناب فلک رکاب غوث اعظم قدس اللہ سرہ العزیز ہنے صدہا دفعہ زیارت پر برکت حضرت عالی درجت
نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کری ہے بلکہ جسقدر ارواح مطہر مرسلان والاشان وپیغمبران بلند مکان
ہیں سب کے سب مجلس عالی محبوب الٰہی رونق افزور ہتے تھے اور کئی دفعہ ہمنے فرشتگان آسمانی
وملائکان کروبیانی فوج در فوج روبروئے آنحضرت قدس اللہ سرہ العزیز کے حاضر دیکھا ہے کہ
کو آپ کے سخنان دلاویز وتقریر محبت آمیز سنکر مستفید ومستفیض ہوتے تھے انتہی الفصل

الثامن فی بیان مص ثدی ام المؤمنین عائشۃ رضی اللہ عنہا فی المنام وقال صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ولدنا حقا وھذہ البشارۃ یدل علی ثبوت النسب الشریف رضی اللہ عنہ کما ورد فی کتب متعددۃ فانظر یا اخی الاول قال العالم العلامۃ الشیخ محمد بن یحیی التادفی الحنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ قلائد الجواھر وقال رضی اللہ عنہ رایت فی المنام کانی فی حجر عائشۃ ام المومنین رضی اللہ عنہا وانا ارضع ثدیہا الایمن ثم اخرجت ثدیہا الایسر فرضعتہ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا عائشۃ ھذا ولدنا حقا انتہی ۔ الثانی قال العالم الشیخ محمد صادق الطیفی القادری رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ خوارق الصادقیہ وہی بالفارسیۃ وسلسلہ معنوی کہ بواسطہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرزند سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اند آنست کہ فرمودہ اند کہ دیدم رؤیای کہ در دامن مادر مومنان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہستم وآن ام المومنین از پستان مبارک خود مرا شیر می نوشانند ودر انحال حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بر سر من حاضر اند بزبان مبارک میفرمایند کہ ای عائشہ عبد القادر فرزند من ہست مصرع ۔ نہی خوابی مراتب بو زیدار یست ند در کتاب قلائد الجواہر مذکور ہست واین فقیر صادق را درین معنیٰ شعر یست رباعی

آفتاب نبوت ہست نبی ٭ ماہتاب ولایت ہست علی ٭ صادق ہست بدر عالیقدر ٭ غوث اعظم شہنشہ جیلی

الثالث قال العالم الشیخ محمد صادق شہابی سعدی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ مناقب غوثیہ المنقبۃ السابعہ والخمسون فی مصہ ثدی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فی المنام وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذا ولدنا حقا در تلخیص جواہر القلائد آوردہ ہست کہ فرمودہ اند حضرت سلطان الاولیا والاقطاب غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کہ دیدم من خود را در کنار ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا کہ من مکیدم پستان راست او وبعدہ پستان چپ ورا می مکیدم ناگاہ در آمدند حضرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبحضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا خطاب کردند وفرمودند یا عائشہ ہذا ولدنا حقا انتہی الرابع قال العالم مفتی غلام سرور فی کتابہ گلدستۂ کرامت مناقب پنجاہ وہشتم

دربیان جانے جناب غوثیہ کے بعالم طفلی بحالت خواب بحضور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اور مستفید ہونا شیرخواری مادر مہربان سے کتاب جواہر القلائد مین لکھا ہو کہ فرمایا جناب محبوب سبحانی قطب ربانی قدس اللہ سرہ السامی کہ ایک روز بعالم طفولیت خواب راحت مین تھے کیا دیکھا کہ فرشتگان آسمانی بحکم ربانی آئے اور ہمکو اوٹھاکر بخدمت بابرکت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیگئے اونھون نے ہمکو اپنی گود مبارک مین اوٹھا یا اور براہ وفور محبت ہمکو سینہ بے کینہ سے لگایا تو فرط پیار سے چھاتی مین شیر باہر آیا اور سرپستان ہمارے منھ مین رکھکر شیر پلایا اور ہمنے وہ شیر پی کر وہ حظ اوٹھا کہ مرتبہ اعلیٰ پایا اتنے مین جناب خاتم النبیین رسول رب العالمین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم الی یوم الدین بھی وہان رونق افزا ہوئے اور ام المومنین کیطرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا عائشہ ہذا ولدنا حقا قرۃ اعیننا وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین **بیت**

ذات محی الدین کز ونور محمد روشن ست
گشت نورش درجہان از ماہ تا ماہی عیان
در شبستان عمل روشن شداین روشن چراغ
چشمۂ فیضی کہ دائم چشم ہر ذرہ ور باد
ہر گہرابری کہ بارد برسر ہر خاص وعام
مردہ گردد زندہ از انفاس آن عیسیٰ نفس
سرور مسکین گدای مہرسپہر دین حق

از چنین فرزند نام جد امجد روشن ست
این مہ تابان چہ خوش از نور ایزد روشن است
اختری برآسمان دین احمد روشن است
مشعلی روشن کہ از مہتاب حیدر روشن است
طرفہ خورشیدیکہ بر ہر نیک وہر بد روشن است
ہر شیاکاریکہ دیدار تو بیند روشن است
ذرہ زانوار پر نور تو یا مہ روشن ست

اور صحیح بخاری شریف مین ہے حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبداللہ عن یونس عن الزھری قال حدثنی ابوسلمۃ ان اباھریرۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ لایتمثل الشیطان بی حدثنا معلی بن اسد قال حدثنا عبدالعزیز بن مختار قال حدثنا ثابت البنانی عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأنی فی المنام فقد رانی فان الشیطان لایتخیل بی ورؤیا المومن

جزء من ستة واربعين جزأ من النبوة انتهى **الفصل التاسع فی بيان ليلة المعراج** قال الشيخ السيد عبد القادر جيلانی رضی الله عنه لما شرف الله تعالى روحی فی ليلة المعراج برؤية جدی رسول الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم هذا ايضا مشعر باثبات نسبه الشريف رضی الله عنه كما ورد فی كتب متعددة بروات الثقات العلماء الكاملين الاول قال العالم الفاضل الشيخ عبد القادر بن محی الدين الاربلی رحمه الله تعالى فی كتابه تفريح الخاطر المنقبة الاولى فی وضع قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم على رقبة رضی الله عنه ذكر صاحب جواهر القلائد آخذا من مجمع الفضائل قال سمعت عن المشائخ الصوفية رضی الله عنهم اجمعين ان سيدنا الشيخ عبد القادر الگيلانی هو الغوث الاعظم لانه كلما ذكر الغوث فالمراد به رضی الله عنه لانه مخاطب من الحق به كذا ذكر فی الغوثية رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وشرف بتشريف الولاية المطلقة المحمدية وخلعة الوارثة المحبوبية فی تلك الليلة المباركة كما نقل عنه رضی الله تعالى عنه انه قال لما عرج بجدی صلى الله عليه وسلم فی ليلة المرصاد وبلغ سدرة المنتهى بقی جبريل الامين عليه السلام متخلفا وقال يا نبی محمد لو دنوت انملة لاحترقت فارسل الله تعالى روحی اليه فی ذلك المقام لاستفاد من سيد الانام ؞ عليه وعلى آله الصلوة والسلام ؞ فتشرفت به استحصلت على النعمة العظمى والوراثة والخلافة الكبرى وحضرت واوجدت بمنزلة البراق حتى ركب علیّ جدی رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنانی بيده حتى وصل فكان قاب قوسين او ادنى وقال لی يا ولدی وصدقة عينی قدمی هذه على رقبتك وقدماك على رقاب كل اولياء الله تعالى وقال رضی الله تعالى عنه فی بعض اشعاره

وصلت الى العرش المجيد بحضرتی	فلاحت لی الانوار والحق اعطانی
نظرت الى عرش الله قبل تخلقی	فلاحت لی الاملاك والله سمانی

شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ گفتہ
اگر یک سر موی برتر پرم
فروغ تجلی بسوزد پرم

وتوجنی تاج الوصال بنظرۃ	ومن خلعۃ التشریف والقرب اکسانی

الانتہی الثانی قال العالم الفاضل الشیخ محمد صادق شہابی سعدی قادری فی کتابہ مناقب الغوثیہ المنقبۃ الاولی وضع المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قدمہ علی رقبتہ رضی اللہ عنہ فی لیلۃ المعراج ذکر صاحب جواہر القلائد کہ اخذ ہست انہ جمع الفضائل سمعت عن مشایخ الصوفیۃ رضی اللہ عنہم ان سیدنا الغوث الاعظم رای نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج وتشرف بتشریف الولایۃ المطلقۃ المحمدیۃ وخلقہ فی لوراثۃ المحبوبیۃ فی تلک اللیلۃ المبارکۃ کما نقل عنہ رضی اللہ عنہ انہ قال لما عرج جدی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج وبلغ سدرۃ المنتہی لقی جبریل علیہ السلام متخلفا وقال یا محمد لودنوت انملۃ لاحترقت فارسل اللہ تعالیٰ روحی فی ذلک المقام لاستفادتہ عن سید الانام علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام فتشرفت بہ واستحصلت النعمۃ العظمی والوراثۃ الاولی والخلافۃ الکبری من حضرتہ وصرت بمنزلۃ البراق حتی رکب علی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنانی بیدہ حتی وصل مقام قاب قوسین او ادنی وقال لی یا ولدی وصدقۃ عینی قدمی ہذہ علی رقبتک وقدماک علی رقبتہ کل ولی اللہ اشکر اللہ الشکور حضرت سلطان الاولیاء غوث الاعظم در بعض اشعار خود فرمودہ اند **اشعار**

وصلت العرش المجید بحضرۃ	فلاحت لی الانوار والحق اعطانی
نظرت لعرش اللہ واللوح نظرۃ	فلاحت لی الاملاک واللہ اسمانی
وتوجنی تاج الوصال بنظرۃ	ومن خلعۃ التشریف والقرب اکسانی

شیخ اجل عارف باللہ سید نعمت اللہ قادری بنگالی در سفینہ خود ہمین نہج نوشتہ اند قد سمعت عن بعض المشایخ السادات الصوفیۃ لما بلغ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج الی مقام دنی فتدلی سمع عن جناب اللہ تعالیٰ یا محمد قف ان ربک یصلی ویشرف خاصیۃ علیک فہذا ہو المقام الذی قال عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل فنظر الی جوہر العشق الذاتی حاضر الحضورہ فکلمہ علیہ الصلوۃ والسلام وقال لیس فی ہذا المقام احد من الاملاک الکرام والانبیاء والرسل العظام من ہذا قیل لہ علیہ الصلاۃ والسلام ہذ من ولدک وارث ولایتک ومحبی دینک من

بعدک اسمہ عبد القادر وخاطبتہ بخطاب الغوث الاعظم فحصل لہ صلی اللہ علیہ وسلم البہجۃ والسرور و
شکر اللہ الشکور وایضا نقل الشیخ قاسم السلیمانی قدس اللہ سرہ وہو عن سیدی الغوث الاعظم
رضی اللہ عنہ انہ قال لما عرج جدی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج استقبل الیہ ارواح الانبیاء
والاولیاء علیہم السلام من مقاماتہم لاجل زیارتہ کاذ اقرب نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من العرش راہ رفیعاً
لابد للصعود الیہ من سلم ومرقاۃ فارسل اللہ تعالی الیہ روحی فوضعت کتفی موضع مرقاتہ فاذا اراد ان یضع قدمہ
علی رقبتی سال اللہ تعالی عنی فالہمہ ان یا محمد ہذا ولدک اسمہ عبد القادر لولا ختمت النبوۃ علیک لکان
ہو اہلا لہا بعدک فشکر اللہ علیہ وقال لی جدی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی طوبی لک رأیتنی ووجدت نعمتی
ثم طوبی لمن راک ورای من راک اورای من رای من راک الی سبعۃ وعشرین جیلا وجیلتک وذریۃ
فی الدنیا والآخرۃ ووضعت قدمی ہذہ علی رقبتک وقدماک علی رقاب جمیع الاولیاء بلا تفاخر ومباہاۃ
ولوکانت بعدی نبوۃ لولیتہا الا انہ لا نبی بعدی الثالث قال العالم الفاضل الشیخ محمد صادق الطیفی
القادری فی کتابہ خوارق صادقیہ وہی بالفارسیۃ مکاشفہ بیست وہشتم در مشاہدۂ مدارج معارج
سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واثبات قدم مبارک آنحضرت برکتف حضرت غوث الاعظم وشرح
دوکانہ حضرت سرور عالم با دوکانہ حضرت محبوب سبحانی

غزل

زندگی دین احمد نام عبد القادر است

کام ہر کام محمد کام عبد القادر است پای عنقای قضا در دام عبد القادر است	عرش سقف آستانش فرش لامکانش بی تکلف اما چون اوج کن ...	در مکان لامکان آرام عبد القادر است لوح محفوظش نگر اقام عبد القادر است	قاف قدرت قدر او اصلیگاہ دام ... فارغ از سوز گداز خشم باشد صادقی

ہر کہ زیر سایہ اقدام عبد القادر است

بدانکہ شیخ محمد ابن یحیی طایفی در کتاب قلائد الجواہر از شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہما
آوردہ کہ در تذکرہ نوشتہ دیدم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ است کہ در شب معراج بخانہ امہانی خفتہ
بودم ناگاہ جبرئیل امین از حضرت رب العالمین در رسید واشتیاق ملاقات حضرت واہب العطیات
عیان نمودہ وبراق برق رفتار ہمراہ خود آوردہ وگفت السلام علیک یا رسول اللہ گفتم علیکم السلام
یا اخی جبرئیل بچہ کار درین وقت آمدن شما شد بچہ حکم ابلاغ نماید جبرئیل گفت یا رسول اللہ خدا تعالی
ترا سلام میرساند وتحفۂ درود فرستاد وترا بمعراج طلب کردہ تا بدیدار خود معزز ومشرف گرداند

واین براق از بہر تو فرستادہ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میفرماید کہ وضو ساختم و دوگانہ شکرانہ گذاردم و از خانۂ امہانی سوار شدہ بہ بیت المقدس رسیدہ فرود آمدم و بارواح انبیا مشاہدہ نمودم کہ باستقبال من آمدہ بودند و بایشان دوگانہ یگانہ ادا نمودہ نزد براق آمدم تا سوار شوم براق پشت اطاعت یک سو کرد و بگفتار آمد والتماس نمود کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در بہشت بسیار براق اندازمن خوب و خوشتر کہ من کمینہ ایشانم و چون امروز مرا بسواری خویش معزز و مشرف میفرمائی و این منزلت بدیگران روا نداری سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ چون در دار دنیا بر پشت تو سوارم در دار آخرت نیز سواری بر غیر تو روا ندارم چون براق استماع این کلام نمود از خوشوقتی و سرور چنان فربہ بلند بالا گشت کہ تا دست مبارک آنسرور بر عیال او نرسید و تا قدم مبارک در رکاب می کشید اندران زمان سرور عالم فرمود دیدم کہ روح پاک و تراک روشن و مبین پیدا شد و ہویدا گشت و تحت قدم من در آمد من ہر دو قدم خود یکی بر سنگ معراج و دویم بر کتف او نہادم و بر براق سوار شدم پس پرسیدم کہ تو روح کیستی آن روح مبارک گفت بتحقیق من روح حضرت سید محی الدین عبد القادرم و بتحقیق اللہ سبحانہ قدرت و قوتی دہد پس زندہ گردانم دین ترا بعد از وصال تو پس قدم مبارک شیم بر کتف نہاد و فرمودند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ چون قدم من بر گردن تو نہادہ شد این بتحقیق بدان کہ قدم تو بر گردن جمیع اولیاء اللہ باشد روایتہ دیگر آنست کہ چون براق از خوشی بلند و بالا شد و خرم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول قدم خود را بر سنگ مبارک معراج نہاد و قدم دویم بر پشت سید عبد القادر نہادہ بر کاب رفتہ بر زین مبارک براق نشست و در حین کردن نہادن تحت اقدام حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پنجہ سید عبد القادر کہ دیوار سنگ منقش بہ زور دادہ استادہ بودن بعینہ نقش آن پنجہ مبارک و نقش قدم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بر آن سنگ معراج قدم نہادہ بودند ہر دو نقش ظاہر اند کہ مردمان زیارت کردہ می آیند ایضاً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میفرمایند کہ در ترقی مدارج معارج چون از آسمان ہفتم برگذشتم دیدم کہ بر عرش خیمہ بزرگ سبز فام برپا استادہ

وبقبہای سبز زمردی آراستہ و پیراستہ کردہ اند پس متحیر شدم وگفتم یا بارخدایا مگر بعداز من پیغمبری دیگر مبعوث خواہی کرد ناگاہ ندا از حضرت کبریا آمد کہ ای حبیب من پیغامبر خاتم الرسل توئی باز عرض نمودم الٰہی تو دانائی پس این خیمہ سبز پر تکلف رفیع الشان از کیست کہ بر عرش اعظم برپا کردہ اند جواب از حضرت وہاب در رسید کہ ای حبیب من این خیمہ سید محی الدین عبدالقادر جیلانی ہست پس عرض نمودم کہ الٰہی سید عبدالقادر کیست کہ در جناب کبریائی تو قدر و قدرت یافتہ فرمان شد کہ خاصہ اولاد عالی نژاد تواست و آن کسی ہست کہ قدم خود را بر پشت او نہادہ بر براق سوار شدہ بودی وگفتہ کہ بر وقدم تو بر گردن تمام اولیاء خدا تعالی باد و ہر کہ فرو نکند گردن خود پس دگرگون شود حال او در دنیا و در آخرت وای حبیب من این فرزند تو تحقیقا در آخرت خیمہ خود بر در دوزخ خواہد زد تا نگذرد ہیچکس از امت تو در دوزخ مگر آنکہ بقدرت خود صورت آنرا بگردانم بدین مژدہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثناء آفریدگار خود بجا آوردہ و دو رکعت نماز تحیت ادا نمودہ و بخوشنودی تمام بمنزل مقصود رسید پس بر مریدان و محبان و معتقدان حضرت قادریہ علیہ لازم و واجب ہست کہ این دوگانہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ در عین خوشحالی استماع منزلت فرزند ارجمند خود ادا نمودہ اند میخواندہ باشند و ثواب دوگانہ بروح پر فتوح آن یگانہ ہدیہ نمایند و آن دوگانہ این ہست در ہر رکعت بعد از فاتحہ سورہ اخلاص سہ بار و باید کہ این دوگانہ را بدوگانہ اول بتواصل خوانند کہ تا ہموارہ آن عزیز مظہر فیض المحبوب سبحانی بودہ باشد انتہی الرابع قال العالم الفاضل مفتی غلام سرور لاہوری فی کتابہ گلدستہ کرامت روایت ہے کہ جب پیغمبر برحق بشب معراج رونق افزائے زیر عرش برین ہوئے تو عرش کو نہایت اونچا اور بلند دیکھکر منتظر امداد الٰہی ہوئے کہ اس اثنا میں روح پر فتوح حضرت غوث الاعظم نے حاضر ہوکر گردن جھکائی اور عرض کی کہ سوار ہوجئے جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ من انت عرض کی کہ انا ولدک عبدالقادر چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ محبت قدم شریف دوش مبارک آنحضرت پر رکھا اور فرمایا قدمی ھذہ علی رقبتک

دوزک

وقد ملك علیٰ رقاب جمیع الاولیاء الله تعالیٰ اور نیز بعضے سادات صوفیہ سے روایت ہے کہ فرمایا جناب غوث الاعظم نے لما شرف الله تعالیٰ روحی فی لیلة المعراج برویة جدي رسول الله وحبیب الله صلی الله علیه وسلم واطلعنی علی ما الهمه الله تعالیٰ قال یا محمدا علمت من هذا الرجل فقال یارب انت اعلم منی بذلك فقال سبحانه وتعالیٰ شانه هذا ولدك من نسل الحسن واسمه عبدالقادر جعله محبوبی بعدك وسیكون شانه بین الاولیاء كشانك بین الانبیاء فقال لی یا ولدی وقرة عینی قد طاب قلبی برویتك وطاب خاطرك برویتی انت محبوب الله ومحبوبی ووارثی من بعدي فی مقام ولایتی ووضعت قدمی هذا علی رقبتك وقدمك علی رقاب جمیع اولیاء امتی اور کتاب لطائف لطیفیہ مین جو من تصنیف عمدۂ خلفای خاندان غوثیہ خواجہ کمال الدین بن شیخ المشایخ خواجہ عبداللطیف بغدادی ہے لکھا ہے کہ معراج کی رات مین روح پرفتوح حضرت سلطان محبوبان شاہ مجذوبان غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بغلبۂ شوق ومشاہدۂ جمال باکمال خاتم المرسلین اپنے مقام سے کہ منتہائے مقام اولیاء اللہ تھا انتقال فرماکر اور متحد بجسد لطیف ہوکر بمراد حصول ملازمت کیمیا خاصیت آنحضرت معدن برکت کی بمقام معراج حاضر ہوئے اور قدم مبارک آنحضرت کے دوش شریف پر اوٹھاکر بمقام عرش پہنچایا اوسوقت ہاتف غیب سے ندا ہوئی کہ یا محمد آپ کے قدم کے نیچے یہ روح کسکی ہے جواب دیا کہ نام نامی اسکا عالم الغیب جانتے ہین مگر اتنا معلوم ہے کہ دل ہمارا براہ فرط محبت اس شخص کے ایسا راغب ہے کہ دل سے پیار کرتے ہین اور اس شخص کے سینہ بے کینہ سے ہمکو بوے بومحبت کی آتی ہے ارشاد ہوا کہ یہ شخص فرزند دلبند آپ کا ہے نسل امام حسن بن علی بن ابی طالب سے اور نام نامی ہے اسکا عبدالقادر رکھا اور کہا ہم نے اسکو ولی دنیا اور آخرت مین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب الہی سنکر سجدہ شکر ادا کیا اور آنجناب رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا یا ولدی قد طاب خاطري برویتك

وطاب خاطرك برويتي وانت محبوب الله ومحبوبي وخليفتي فقدمي هذه على رقبتك و قدماك على رقاب جميع اولياء الله تعالى لا اعلم اي کہ از نور تو روشن شدہ انوار قدم ٭ نام نامی تو شد ورد زبانم ہردم ٭ مصطفےٰ پای مبارک بنہد بر دوشت ٭ پس چرا تو نہی بر سر ارباب قدم ٭ اور کتاب حرز العاشقین مین شیخ الانام فرید العصر وحید الدہر شیخ رشید بن محمد جنیدی رحمۃ اللہ علیہما نے تحریر فرمایا ہے کہ شب معراج واسطے سواری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے براق برق رفتار حاضر ہوا تو وقت سواری براق نے قدرے تندی کی تو جبرئیل علیہ السلام نے باواز بلند براق پر خفگی کی اور فرمایا کہ تو نہین جانتا کہ محمد رسول اللہ خاتم المرسلین امام النبیین شفیع المذنبین تجھپر سوار ہوتے ہین پس یہ وقت موقع شکر ہے نہ تندی کا باستماع اس بات کے براق زار زار رونے لگا اور عرض کی کہ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ناکارہ براق پر سواری فرماتے ہین اور بروز قیامت مجھ سے زیادہ حسن کے براق دروازہ جنت پر موجود ہونگے ایسا نہو کہ اوسوقت آنحضرت سواے میرے اور کسی براق خوبصورت کی طرف میل فرماوین تو اوسوقت مجھ مہجور مغموم کا کیا حال ہوگا آج کے روز مجھ سے عہد واثق ہو کہ اوسکا ایفا بروز قیامت عمل مین آوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ فرط عنایت ایک ضرب دست مبارک کی اوسکی گردن پر ماری اور فرمایا کہ یہہ نشان ہمارے ہاتھ کا تیری گردن پر بروز قیامت بصورت آفتاب روشن ہوگا اور سواری ہماری تجھہی پر ہوگی براق پر اشتیاق یہ دلجوئی آنحضرت کی سنکر ایسا پھولا کہ چالیس گز زیادہ قد سابق سی ہوگیا اوسوقت شہسوار میدان نبوت نے بسبب بڑھ جانے براق کے سواری مین قدرے توقف فرمائی تو فوراً روح پرفتوح غوث الاعظم حاضر ہوا اور گردن جھکا کر عرض کی کہ یا سیدی ضع قدمك على رقبتي وارکب شعر سر بزیر قدمت می نہم و می نازم ٭ چشم بد دور کہ امشب شب معراج من است ٭ شعر گر بر سر و چشم من نشینی ٭ نازت بکشم کہ نازنینی شعر من مؤلف آئے کیجے کرم کیجے قدم سر پر میرے ٭ آپ کی خاک قدم سرمہ ہے میری آنکھ کا ٭ چنانچہ حسب التجاے جناب محبوب الٰہی

حضرت رسالت پناہی دوش پر آپکے سوار ہوئے اور فرمایا یا ولدی قدمی علی رقبتک وقدماک علی رقاب جمیع الاولیاء اللہ تعالیٰ تنبیہ پس واضح ضمیر محبت تخمیر مریدان جناب غوثیہ ہو کہ احوال سواری انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدوش مبارک جناب غوثیہ بشب معراج سنکر تعجب نکرنا چاہیے کیونکہ ایسے واقعات اور بھی بشب معراج بہت وقوع مین آئے ہین کہ جناب پیغمبر علیہ الصلوۃ الملک الاکبر نے بشب معراج بہشت مین حضرت بلال کو سیر کرتے ہوئے دیکھا اور حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو بمقام مقعد صدق عند ملیك مقتدر بنجوات راحت پایا اور رسماۃ عمیصا بنت ملحان اور منکوحہ ابیطلحہ کو بہشت مین موجود پایا اور نیز روایت ہو کہ بشب معراج جناب سید المرسلین نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور موسیٰ علیہ السلام نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اوسوقت فرمایا کہ کوئی شخص علمایان امت اپنی سو طلب کیجیے کہ اوسوقت وہ ہمسے ایک دو سخن کرے انحضرت نے روح امام محمد غزالی کو کہ حاضر تھا حضرت موسیٰ کے سامنے حاضر کیا اول فیما بین السلام علیک ہوئی من بعد جناب موسیٰ نے امام صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ما اسمک امام صاحب نے جواب دیا کہ محمد بن محمد الغزالی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمنے فقط تمھارا نام پوچھا ہے تمھارے باپ کا نام استفسار نہین کیا باپ کا نام کہنے سے کیا فائدہ تھا امام صاحب نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا تھا کہ ماتلك بيمينك یا موسیٰ اوسوقت آپ نے جواب دیا کہ هي عصاي اتوكؤ عليها واهش بها علی غنمي ولي فيها مارب اخریٰ اگر آپ فقط لفظ ہی عصای ہی فرما دیتے تو جواب سوال کافی تھا اتنی تقریر زائد بلا دریافت الٰہی آپ نے کسواسطے فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمسے ازجانب الٰہی سوال ہوا تھا کہ ماتلك بيمينك یا موسیٰ ہمنے یہہ جانا کہ یہہ سوال بجناب عالم الغیب والشہادۃ نہین ہو بلکہ بجہت استیناس دل ہمارے کے ہو پس باقتضای حال و مقام یہہ کلمات ہمنے زیادہ بیان کئے امام صاحب بولے کہ جب آپ نے مجکو واسطے کلام کے طلب فرمایا تو مین نے بھی باظہار حال اپنے یہہ کلام کہے موسیٰ علیہ السلام نے یہہ جواب امام صاحب کا سنکر سکوت فرمائے اور لاجواب ہوگئے جناب رسالتمآب صلعم نے بمشاہدہ اس دلیری اور جسارت امام صاحب کی اپنے عصائے مبارک سے

اشارت خاموشی کی کی کہتے ہین کہ جب امام غزالی قدس اللہ سرہ العالی نے دنیا مین ظہور کیا وہ نشان عصائی آنحضرت کا جسم شریف امام صاحب پر نمایان تھا اور فرمایا قدوۂ اولیائے دین رہبر دین متین شیخ نظام الدین گنجوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بشب معراج جب جناب پیغمبر خدا براق برق رفتار پہ سوار تھے اوسوقت غاشیہ مبارک جناب کا میرے دوش پر تھا اور مین بجانب راست آنحضرت کی اردلی مین تھا **غزل من مؤلف عفی عنہ**

اید لاکن در دنام غوث اعظم دمبدم ٭ محی الدین گو محی دین ہر آن ہر دم دمبدم
تا ہان زجام عشق معشوق الہی مست شو ٭ تا شود دور از دولت در دو الم غم دمبدم
گر تو میخواہی گردی سرور رہبر دو سرا ٭ گردن خود پیش آن سرور کن خم دمبدم
سرمہ کن در چشم خاک آستان محی دین ٭ یاد کن از شوق دل با چشم پر نم دمبدم
سرور از کمتر مریدان جناب پاک تست ٭ کن نظر بر حال او یا غوث اعظم دمبدم

الفصل العاشر فی بیان لقائہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر

وھذا ایضا علی ثبوت النسب الشریف رضی اللہ عنہ ادعی سیدنا الغوث رضی اللہ عنہ قال رأیت جدی صلی اللہ علیہ وسلم کما ورد فی کتب متعددۃ الاول قال العالم الشیخ عبد القادر بن محی الدین الاربلی رحمہ اللہ فی کتابہ تفریح الخاطر المنقبۃ الخامسۃ و الاربعون فی لقائہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر قال فی جامع العلوم کان الغوث یوما جالسا علی المنبر للوعظ فنزل بسرعۃ الی المرقاۃ الاخیرۃ فوقف قائما متواضعا واضعا یدا علی ید ثم بعد ساعۃ رقی المنبر وجلس فی مکانہ واشتغل بالوعظ فسألہ بعض الحضار عن ھذہ الکیفیۃ فقال رأیت جدی صلی اللہ علیہ وسلم جاء وجلس علی المنبر فنزلت تادبا فی حضرتہ الی المرقاۃ الاخیرۃ فلما قام وراح امرنی صلی اللہ علیہ وسلم بجلوسی فی مکانی بوعظ رضی اللہ تعالی عنہ انتھی

الثانی قال العالم الشیخ محمد صادق شہابی سعدی قادری رحمہ اللہ فی کتابہ المناقب الغوثیہ المنقبۃ الثامنۃ والسبعون فی لقائہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر الماثور در جامع العلوم وغیرہ کتب آوردہ اند کہ روزی حضرت غوثیہ محبوبیہ بر منبر نشستہ بودند کہ بسرعت واضطراب از

درجات آن فرود آمدند و زیر زینہ پایہ آخرین منبر با دست بستہ با ادب ایستادہ شدند بعد ساعتی باز بر منبر نشستند و بوعظ و تذکیر فرمودن مشغول شدند بعضی از حضار مجلس التماس کردند کہ این چہ سبب بود فرمودند کہ جناب عالی جدی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بیامدند و بر منبر نشستند ہر چند کہ مرا بہ نشستن امر فرمودند لیکن بجہت آداب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیر زینہ آخر ایستادہ شدم چون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روان شدند مرا رخصت فرمودند کہ بر منبر بنشین و وعظ نما آنگاہ نشستم انتہی۔ ترجمہ عبارت تفریح الخاطر و مناقب غوثیہ کا یہ ہے نا قل ہین کتاب جامع العلوم سے کہ ایک روز بیٹھے تھے حضرت غوث شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ منبر پر واسطے وعظ فرمانے کے جلد ہی اُترے زینہ منبر سے نیچے کے زینہ تک اور کھڑے ہوئے ہاتھ باندھکر آداب اور عاجزی سے ایک ساعت بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے اور وعظ اور ذکر مین مشغول ہوئے پیچھے بعض حاضرین مجلس نے سوال کیا کہ کیا سبب تھا کہ آپ منبر سے نیچے اُترے اور کھڑے رہے ادب سے اور پھر منبر پر بیٹھے فرمایا حضرت غوث رضی اللہ عنہ نے کہ جناب عالی جد میرے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے آداب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیواسطے اوترا نیچے کے زینہ پر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند امر کیا کہ منبر پر بیٹھیں لیکن ادب کے سبب نہ بیٹھا مین اتنے مین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیگئے میرے کو رخصت کیا اور فرمایا منبر پر بیٹھو اور وعظ بیان فرماؤ تب مین منبر پر بیٹھا انتہی

الفصل الحادی عشر فی بیان الشیخ علی بن ھیتی قدس اللہ سرہ

رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام و رایت الغوث رضی اللہ عنہ فی الیقظۃ کما ورد فی کتب متعددۃ بروایۃ الثقات الاول قال العالم الشیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوفی الشافعی رحمہما اللہ تعالی فی کتابہ بھجۃ الاسرار و معدن الانوار اخبرنا الشیخ الشریف الجلیل ابو العباس احمد بن الشیخ ابی عبد اللہ محمد بن ابی الغنائم محمد الازھری بن ابی المفاخر محمد المختاری الحسینی البغدادی بالقاھرۃ سنۃ

ثلاث وسبعين وستمأية قال اخبرنا ابی بدمشق سنة تسع وعشرين ستمائة قال حضرت مجلس شيخنا الشيخ السيد محی الدين عبد القادر الجيلی رضی الله عنه فی سنة خمس و ستمائة وكان فی المجلس يومئذ نحو عشرة آلاف رجل وكان الشيخ علی ابن الهيتی رضی الله عنه جالسا تجاه الشيخ تحت دكة المقری فاخذته سنة فقال الشيخ للناس اسكتوا فسكتوا حتی يقول القائل انه لايسمع منهم الا انفاسهم ثم نزل اعلی الكرسی و وقف بين يدی الشيخ متأدبا وجعل يحدق اليه ثم استيقظ الشيخ علی بن الهيتی فقال له الشيخ ارائت النبی صلی الله عليه وسلم فی المنام فقال نعم قال من اجله تادبت قال فما وصاك قال بملازمتك قال فسئل الشيخ علی عن معنی قول الشيخ من اجله تادبت قال الذی رايته فی المنام رآه هو فی اليقظة انتهی والثانی قال العالم المحدث الشيخ عبد الحق الدهلوی رحمة الله عليه فی كتابه زبدة الاسرار واخبر الشيخ الجليل الشريف ابو العباس احمد بن الشيخ عبد الله الازهری الحسينی قال حضرت مجلس شيخنا الشيخ السيد محی الدين عبد القادر الجيلی رضی الله عنه وكان فی المجلس نحو من عشرة آلاف رجل وكان الشيخ علی بن الهيتی رضی الله عنهما جالسا تجاه الشيخ تحت دكة المقری فاخذته سنة فقال الشيخ للناس اسكتوا فسكتوا حتی يقول القائل انه لا يسمع الا انفاسهم ثم نزل من الكرسی و وقف بين يدی الشيخ علی متأدبا وجعل يحدق اليه ثم استيقظ الشيخ علی فقال له ارايت النبی صلی الله عليه وسلم فی المنام قال نعم قال من اجله تادبت فيما اوصاك قال بملازمتك قال الشيخ علی للناس الذی رأيته فی المنام رآه الشيخ فی اليقظة رضی الله عنه انتهی الثالث قال العالم العلامة مولينا علی القاری رحمه الله الباری فی كتابه نزهة الخاطر الفاتر ومنها ما رواه الشريف ابو عبد الله الحسينی البغدادی رحمه الله تعالی قال حضرت مجلس شيخنا السيد الشيخ عبد القادر رضی الله عنه وكان فی المجلس يومئذ نحو من عشرة آلاف رجل وكان الشيخ علی بن الهيتی جالسا تجاه الشيخ بجنب دكة المقری

فاخذته

فاخذته سنة من النوم فقال سيدنا الشيخ رضي الله عنه للناس اسكتوا فسكتوا حتى يقول القائل انهم لا يسمع منهم الا انفاسهم ثم نزل من اعلى الكرسي و وقف بين يديه متأدبا وجعل يحدق اليه ثم استيقظ الشيخ علي بن الهيتي فقال له ارايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قال نعم من اجله تادبت فيما اوصاك قال بملازمتك قال فسئل الشيخ علي بن الهيتي عن معنى قول سيدنا الشيخ تادبت قال الذي رأيته في المنام راه في اليقظة رضي الله عنه انتهى الرابع قال الامام اليافعي عبدالله الشافعي رحمهما الله تعالى في كتابه خلاصة المفاخر حکایت صد و ہفتاد و چہارم نقلست از شیخ شریف ابو عبداللہ محمد بن ابو الغنائم ازہر بن ابو المفاخر حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ گفت وقتی حاضر شدم در مجلس شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ در تاریخ سنہ خمس وخمسمائۃ و موازنہ دہ ہزار مرد آن روز در مجلس شیخ حاضر بودند و شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ عنہ مقابل شیخ نشستہ بود وکہ مقربان ناگاہ نیابین بر وغلبہ کرد شیخ فرمود خاموش باشید ہمہ خاموش شدند چنانکہ ہمین نفس از ایشان برمی آید و جنبیدن اصلا درمیان نبود پس شیخ از بالای منبر فرود آمد و پیش شیخ علی بن ہیتی باادب تمام بایستاد و بسوی او میدید تا آنکہ او بیدار شد شیخ اورا گفت تو پیغامبر را صلی اللہ علیہ وسلم در خواب دیدی گفت آری بچہ وصیت کرد گفت بملازمت تو پس فرمود من اجلہ تادبت از معنی این سخن شیخ علی بن ہیتی را پرسیدند گفت آنچہ من در خواب دیدم او در بیداری مشاہدہ کرد راوی میگوید از ہفت نفران حاضر از مجلس وفات یافتند بعضی در مجلس و بعضی در خانہ رفتہ و بعضی ہمدران روز انتہی الخامس قال العالم العلامۃ محمد غوث المخاطب بشرف الملک رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ انہار المفاخر الشعبۃ الثالثۃ فی مجری النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسہ رضی اللہ عنہ مروی است از شیخ ابی العباس احمد بن شیخ ابی عبداللہ محمد بن ابی القاسم محمد ازہر بن ابی المفاخر محمد خباز حسینی بغدادی کہ خبر داد مرا پدر من کہ روزی در مجلس شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ

حاضر شدم و آنروز در آنجا قریب بیست ہزار مرد حاضر بودند و شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ
مقابل وی رضی اللہ عنہ زیر درجہ مقری نشستہ بود پس بر شیخ علی بن ہیتی غنودن غالب آمد
وی رضی اللہ عنہ مردم را فرمود کہ سکوت کنید ہمہ خاموش شدند تا کہ شنیدہ نمی شد از آنہا
جز انفاس وی رضی اللہ عنہ از کرسی فرود آمدہ روبروی شیخ علی بن ہیتی با ادب ایستادہ و
تیز تیز در روی میدید پس شیخ علی بن ہیتی بیدار شد پس وی رضی اللہ عنہ او را فرمود کہ پیغامبر
خدا صلی اللہ علیہ وسلم را دیدی گفت آری فرمود برای ہمین ادب کردم پس گفت ترا چہ وصیت فرمود
شیخ علی بن ہیتی گفت کہ وصیت کرد بہ التزام صحبت تو مردم از شیخ علی بن ہیتی پرسیدند کہ مراد
از قول وی رضی اللہ عنہ کہ برای ہمین ادب کردم چیست گفت آنچہ کہ من در خواب دیدم او رضی اللہ
عنہ در بیداری دید میگویند کہ آنروز ہفت کس از حاضران مجلس مردند بعضی ہمانجا و بعضی را بیہوش
بخانہ او برداشتہ بردند ہمان روز جان دادند انتہی السادس قال العالم الشیخ محمد صادق الطیفی
فی کتابہ خوارق صادقیہ **باید دانست** کہ حضرت شیخ علی بن ہیتی بر قلب جبرئیل بود کہ ہم بدان
سبب در حضرت محبوب سبحانی ہموارہ مصاحب بتقبیل بود چنانچہ منقول ہست در تکملہ شریف کہ روزی
شیخ علی بن ہیتی کہ مقابل محبوب حضرت رب العزت نشستہ بود حضرت محبوب سبحانی بالای منبر
وعظ میفرمودند گاہ شیخ علی مذکور را نعاس غلبہ کرد حضرت شیخ سید محی الدین محبوب رب العالمین
حضار مجلس را بسکوت امر فرمودہ و خود از بالای منبر فرود آمد پس شیخ رضی اللہ عنہ با ادب تمام ایستاد و
و میدید تا کہ او بیدار شد پس او را گفت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را در خواب دیدی شیخ علی گفت
آری باز فرمود کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترا چہ وصیت کرد گفت بملازمت تو ای محبوب سبحانی چون
بعضی مردم از شیخ علی پرسیدند گفت آنچہ کہ من در خواب دیدم او در بیداری می بیند انتہی السابع
قال سلطان دارا شکوہ فی کتابہ سفینۃ الاولیاء میگویند روزی غوث اعظم رضی اللہ عنہ وعظ میفرمودند
و شیخ علی بن ہیتی رحمہ اللہ در برابر آنحضرت قدس سرہ نشستہ بودند شیخ علی را خواب گرفت غوث
اعظم رضی اللہ عنہ اہل مجلس را گفتند خاموش باشید از منبر فرود آمدہ در پیش شیخ با ادب ایستادند

و بجانب وی نگریستند چون شیخ علی بیدار شد آنحضرت رضی اللہ عنہ گفتند کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم را در خواب دیدی گفت آری غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمودند من برای او باادب ایستادہ بودم آنچہ وصیت کرد ترا گفت بملازمت تو بعد ازان از شیخ علی پرسیدند از معنی آنچہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمودند کہ من از برای آن باادب ایستادہ بودم شیخ علی گفت آنچہ من بخواب میدیدم آنحضرت رضی اللہ عنہ بہ بیداری میدید انتہی **ترجمہ** عبارات کتابہائے عربی و فارسی کا یہ ہے کہ اول کہا شیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہجۃ الاسرار مین دوسرا کہا عالم علامہ حبر فہامہ مولینا علی القاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی کتاب نزہۃ الخاطر الفاتر مین تیسرا کہا عالم محقق مدقق محدث شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زبدۃ الاسرار مین چوتھا کہا عالم فاضل امام عبداللہ یافعی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تکملہ خلاصۃ المفاخر مین پانچوان کہا عالم علامہ محمد غوث المخاطب بشرف الملک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اظہار المفاخر مین چھٹا کہا عالم فاضل شیخ محمد صادق لطیفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خوارق صادقیہ مین ساتوان کہا سلطان داراشکوہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیا مین سات صاحب کتابون کے مصنف باتفاق روایت بیان کرتے ہین کہ کہا شیخ علی بن ہیتی قدس سرہ نے کہ ایک روز مجلس حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ منبر پہ وعظ فرماتے تھے نقل کرتا ہو شیخ شریف ابوعبداللہ محمد بن ابو الغنائم ازہر بن ابوالمفاخر حسینی بغدادی بیان کرتا ہے کہ ۵۵۹ھ پانسو پانچ مین کہ تعداد دس ہزار آدمی کی اوس روز مجلس وعظ شیخ سید عبدالقادر جیلانی مین رضی اللہ عنہ کے بیٹھے تھے شیخ علی بن ہیتی روبروئے حضرت باکرامت کے بیٹھے تھے کہ ناگاہ شیخ علی قدس سرہ کو نیند آگئی خواب مین تھا حضرت شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب خاموش ہوجاؤ سب خاموش ہوگئے حضرت غوث رضی اللہ عنہ منبر سے نیچے اوترے اور شیخ علی بن ہیتی کے پاس ادب سے کھڑے ہوئے اوسکے طرف دیکھتے تھے تا کہ شیخ علی بن ہیتی قدس سرہ خواب سے بیدار ہوئے حضرت شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شیخ علی کو کہ تنے خواب مین

دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا فرمایا تمکو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیخ علی نے بملازمت خدمت آپکی شیخ علی قدس سرہ سے استفسار کیا حاضرین سے شیخ علی نے کہا کہ مینے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب مین دیکھا و جناب حضرت شیخ سید رضی اللہ عنہ مشرف ہوئے بیداری مین اور وصیت فرمائی میرے کو بملازمت خدمت حضرت شیخ رضی اللہ عنہ کے انتہی الفصل

الثانی عشر فی بیان الشیخ بقا بن بطو رحمۃ اللہ علیہ

قال حضرت فی مجلس الشیخ سیدنا الشیخ السید عبد القادر رضی اللہ عنہ ورایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحابہ الکبار الاربعۃ رضی اللہ عنہم فی الیقظۃ فی مجلس الشیخ السید عبد القادر رضی اللہ عنہ کما ورد فی کتب المعتبرات الثقات فانظر یا اخی والصنف الاول قال العالم العلامۃ المحقق المدقق المولینا الملا علی القاری رحمہ اللہ الباری فی کتابہ نزہۃ الخاطر عن السید الکبیر الرفیع المرتقی العارف المعروف بالشیخ بقا قدس سرہ قال حضرت مجلس سیدنا السید الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ فبینما ہو یتکلم علی المرقاۃ الاولی من الکرسی اذ قطع کلامہ ساعۃ ونزل الی الارض ثم صعد الکرسی وجلس علی المرقاۃ الثانیۃ فاشہدت ان المرقاۃ الاولی قد التسعت حتی صارت مد البصر و فرشت من السندس الاخضر وجلس علیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وتجلی الحق سبحانہ وتعالی علی قلب سیدنا السید الشیخ عبد القادر فمال حتی کاد یسقط فامسکہ علیہ السلام لئلا یقع ثم تضأل الی ان تصاغر حتی صار کالعصفور ثم نما حتی صلی علی صورۃ ہائلۃ ثم تواری عنہ قال الراوی فسئل الشیخ بقا عن رؤیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الکرام رضی اللہ عنہم قال ارواحہم تشکلت وان اللہ تعالی ایدہم بقوۃ یظہرون بہا فیراہم من قوۃ اللہ تعالی لرؤیتہم فی صورۃ الاجساد وصفات الاعیان

نزہۃ الخاطر

قلائد الجواہر

بہجۃ الاسرار

زبدۃ الاسرار

اتحاف الاکابر

خوارق عادیہ

تفریح الخاطر

بدلیل حدیث المعراج وسئل عن تضأل سیدنا الشیخ عبد القادر و نموہ فقال
کان التجلی الاول بصفۃ لایثبت لبدوھا بشر الابتائید نبوی فلذا کاد الشیخ ان یسقط
لولا تدارکہ علیہ السلام وکان التجلی الثانی بصفۃ الجلال من حیث موصوفہ فلذا
تضأل الشیخ وکان التجلی الثالث بصفۃ الجمال من حیث مشاھدۃ فلذا انتعش
ونما وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء انتھی الثانی قال العالم الشیخ المحدث عبد الحق
الدھلوی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ زبدۃ الاسرار واخبر الشیخ القدوۃ بقا بن بطو
رضی اللہ عنہ یقول حضرت مجلس الشیخ السید عبد القادر رضی اللہ عنہ مرۃ
فبینا ھو یتکلم علی المرقاۃ الاولی من الکرسی اذ قطع کلامہ وسہی ساعۃ ونزل الی الارض
ثم صعد الکرسی وجلس علی المرقاۃ الثانیۃ فاشھدت ان مرقاۃ الاولی قد اتسعت
حتی صارت مد البصر وفرشت من السندس الاخضر وجلس علیھا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ رضی اللہ عنھم لئلا یقع ثم تضأل حتی صار کا
لعصفور ثم نما حتے صار علی صورۃ ھائلۃ ثم تواری عنی ھذا کلہ فسئل الشیخ
بقاء عن رویتہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ قال ارواحھم تشکلت وان اللہ تعالی
ایدیھم یظھرون بھا انتھی الثالث قال العالم العلامۃ الشیخ نور الدین ابی الحسن
علی بن جریر اللخمی الشطنوفی الشافعی رحمھما اللہ تعالی فی کتابہ بھجۃ الاسرار ومعدن الانوار
قال اخبرنا الشیخ الصالح بقیۃ السلف ابو العباس احمد بن یوسف بن علی اللخمی النخم ملکی
قال سمعت الشیخ بقا بن بطو رضی اللہ عنہ یقول حضرت مجلس السید الشیخ عبد القادر
رضی اللہ عنہ مرۃ فبینا ھو یتکلم علی المرقاۃ الثانیۃ فاشھدت ان المرقاۃ الاولی قد اتسعت
حتی صارت مد البصر وفرشت من السندس الاخضر وجلس علیھا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وابوبکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنھم وتجلی الحق سبحانہ علی قلب
الشیخ السید عبد القادر فمال حتی کاد یسقط فامسکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لئلا یقع ثم تضاءل حتی صار کالعصفور واصحابہ رضی اللہ عنہم فقال ارواحہم
تشکلت وان اللہ تعالیٰ ایدہم بقوۃ یظہرون بما فیراہم اللہ تعالی لرؤیتہم فی رؤیۃ
الاجساد وصفات الاعیان بدلیل حدیث المعراج وسئل عن تضاءل الشیخ السید
عبدالقادر ونحوہ فکان التجلی الاول بصفۃ لایثبت لبد وھا بشر الابتائید نبوی
صلی اللہ علیہ وسلم فلذلک کاد الشیخ یسقط لولا تدارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم وکان التجلی الثانی بصفۃ الجلال من حیث موصوفہ فلذلک تضاءل وکان
تجلی الثالث بصفۃ الجمال من حیث المشاھدۃ فلذلک انتعش ونما ذلک فضل اللہ
یؤتیہ من یشاء واللہ ذوالفضل العظیم انتہی الرابع قال العالم المتبحر الشیخ محمد
بن یحی التادفی الحنبلی رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ قلائد الجواھر وقال الشیخ بقا بن
بطو رحمہم اللہ تعالیٰ حضرت مجلس سیدنا الشیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ سرہ
فبینا ھو یتکلم علی المرقاۃ الاولی من الکرسی اذ قطع کلامہ وسہا ساعۃ ونزل الی
الارض ثم صعد الکرسی وجلس علی المرقاۃ الثانیۃ فاشہدت المرقات الاولیٰ
قد اتسعت حتی صارت مد البصر وفرشت من السندس الاخضر وجلس علیہا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابوبکر وعمر وعثمان وعلی رضوان اللہ علیہم اجمعین
وتجلی الحق سبحانہ علی قلب الشیخ السید عبدالقادر فمال حتی کاد ان یسقط فامسکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئلا یقع ثم تصاغر حتی صار کالعصفور ثم نما حتی
صار علی صورۃ ھائلۃ ثم تواری عنی فسئل الشیخ بقا عن رؤیۃ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم واصحابہ رضی اللہ عنہم فقال ارواحہم تشکلت وان اللہ تعالی ایدہم
بقوۃ ینظرون بما فیراھم من قواد اللہ تعالی لرؤیتہم فی صورۃ الاجساد وصفات
الاعیان بدلیل حدیث المعراج وسئل عن تصاغر الشیخ السید عبدالقادر رضی اللہ
عنہ ونحوہ فقال کان التجلی الاول بصفۃ لایثبت لبد وھا بشر الابتائید نبوی صلی اللہ

علیہ وسلم فلذلک کاد الشیخ یسقط لولا تدارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و
کان التجلی الثانی لصفۃ الجلال من حیث موصوفہ فلذلک تصاغر وکان التجلی
الثالث بصفۃ الجمال حیث شاھدہ فلذلک انتعش ونما ذلک فضل اللہ یؤتیہ
من یشآء واللہ ذو الفضل العظیم انتہی الخامس قال العالم المحقق المدقق محمد
غوث المخاطب بشرف الملک رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ انفار المفاخر مروی ہست از
شیخ ابی الحسن علی از و مرد کہ خبر داد مرا شیخ ابو العباس احمد بن یوسف بن علی لخمی نہر ملکی کہ
شنیدم شیخ بقا بن بطو نہر ملکی را رحمۃ اللہ علیہ میگفت کہ روزی حاضر شدم در مجلس شیخ محی الدین
سید عبد القادر رضی اللہ عنہ و وی رضی اللہ عنہ بر اول درجہ کرسی سخن می فرمود ناگاہ سخن را موقوف
کردہ ساعتی خاموش ماندند و از کرسی فرود آمدند و باز بر کرسی برآمدہ بر درجہ دویم نشستہ پس مشاہدہ
کردم کہ درجہ اول کرسی تا مد نگاہ فراخ شدہ و سندس سبز برآن گستردہ و برآن رسول خدا صلی اللہ
علیہ وسلم و ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و علی مرتضی رضی اللہ عنہم نشستہ اند و
حق سبحانہ و تعالی تجلی کرد بر دل شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ پس او رضی اللہ عنہ
مائل شد و قریب گردید کہ بافتد پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم او را بگرفت تا نیفتد پس جسم وے
رضی اللہ عنہ کاہیدن گرفت تا کہ مثل گنجشکی شد پستر بالیدن گرفت بر صورت مہیب پستر این حال
در نظر من متواری یعنی غائب گردید او وی میگوید کہ از شیخ بقا بن بطو از کیفیت رویت رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب کرام رضی اللہ عنہم پرسیدند گفت کہ ارواح آنہا متشکل گشتند و
حق تعالی آنہا را تائید کرد بقوتیکہ ظاہر شوند باجساد تا ببینند آنہا را کسیکہ او را خدا تعالی قوت دادہ
ہست بر رویت آنہا در صورت اجساد و صفات اعیان بدلیل حدیث معراج و پرسیدہ شد از سبب
کاہیدن جثہ وی رضی اللہ عنہ و بالیدن آن پس گفت کہ بود تجلی اول بصفتیکہ بشر طاقت آن ندارد
و بی تائید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و ازینجاست کہ وی رضی اللہ عنہ قریب شد کہ بیفتد و بود تجلی دویم
بصفت جلال و لہذا جثہ وی رضی اللہ عنہ کاہیدن گرفت و بود تجلی سیوم بصفت جمال و ازین

سبب جسد وی رضی اللہ عنہ بالیدن گرفت ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشآء واللہ ذو الفضل العظیم انتھی ۔ السادس قال الامام عبداللہ الیافعی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ خلاصۃ المفاخر وہی بالفارسیۃ وہذا عبارتہ حکایت صد وچہل ودوم نقل ہست از شیخ بقا رحمۃ اللہ علیہ کہ گفت وقتیکہ من در مجلس شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ حاضر بودہ ام ناگاہ دیدم شیخ قطع کلام کرد واز منبر بزمین فرود آمد وباز بر منبر رفت وبر دوم نردبان نشست دیدم کہ بالای منبر بغایت متسع وفراخ گشت تا آنجاکہ نظر کار کند وبران سندس اخضر گستردند وبر آن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیدم نشستہ وابوبکر وعمر وعثمان وعلی را رضوان اللہ علیہم دیدم کہ حق سبحانہ وتعالیٰ بر دل شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ تجلی کرد وشیخ طاقت نیاورد وخواست بیفتد فامسکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ازان دیدم کہ شیخ خورد میگشت تا آنکہ ہمچو عصفور بعد ازان دیدم کہ بیالود حتی صار علی صورۃ ہائلۃ بعد ازان این ہمہ از من متواری شد راوی میگوید از رویت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب شیخ بقا پرسیدند فرمود ارواح ایشان متشکل شدہ بود حق تعالیٰ مؤید گردانیدہ ہست ایشان را بقوتی کہ بدان ظاہر شوند ونمودار کنند مثل نمودار صور اجساد وصفات اعیان بدلیل حدیث معراج وشیخ بقا را از سقود وتضاءل شیخ وانمود باز پرسیدند فرمود تجلی اول بصفتیکہ مشر ظہور ازا طاقت نیارد مگر بتائید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ازبہر آن شیخ خواست کہ بیفتد نتدارکہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجلی ثانی بصفت جلال بود وآن گدازندہ ہست ہم ازبہر این شیخ خورد وعصفور گشت وتجلی ثالث بصفت جمال بود وآن پرورندہ ہست ہم ازبہر این صار کصورۃ ہائلۃ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم انتھی

السابع قال العالم مفتی غلام سرور رحمہ اللہ لاہوری فی کتابہ گلدستہ کرامت وہی بالہندیۃ مناقب ہفتاد وہفتم دربیان تشریف فرما ہونے روح پاک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہر چہار اصحاب کبار کا بمحفل آنحضرت معدن برکت رضی اللہ عنہ کے مقبول جناب کبریا پیر شیخ بقا قدس سرہ الاعلیٰ کہ ہم عصر سید الاولیاء وپیشوای اتقیا غوث الارض والسماء محبوب خدا تھے فرماتے

ہیں کہ ایک روز ہم بہ محفل بلند منزل محبوب سبحانی قطب ربانی حاضر تھے وآنحضرت منبر مبارک پر اجلاس فرما کر وعظ کر رہے تھے کہ یکایک آنجناب وعظ فرماتے ہوئے خاموش ہوگئے اور اس صورت سے اوٹھے کہ جیسے کوئی کسی کی تعظیم کے واسطے اوٹھتا ہے اور دو پایہ منبر بلند پایہ کے نیچے آکر پایہ سیوم پر بیٹھ گئے پس دیکھا میں نے پایہ منبر کو کہ بہت بڑا ہوگیا ہے اور اوسپر فرش سبز بچھایا گیا ہے اور جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مع ہر چہار اصحاب کبار وہاں رونق افروز ہوئے اور اسوقت انوار تجلیات الٰہی دل محبوب سبحانی پر اسقدر روشن تھے کہ قریب تھا کہ آنحضرت پایہ منبر سے نیچے گر پڑیں مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وحضرات اصحاب عالیجناب نے دستہای شفقت سے آپ کو تھامے ہوئے تھا جب ارواح پاک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب معلی القاب تشریف فرما ہوئے تو احباب فلک رکاب نے حضرت غوثیہ سے استفسار حال ماوقع کیا تو آپنے زبان حق ترجمان سے کل حقیقت بیان فرمائی اور میری طرف مخاطب ہوئے کہ یا شیخ بقا جو کچھ حال تمنے بچشم حال دیکھا ہے ہمارے احباب کو اوس سے مطلع کرو چنانچہ میں نے کل کیفیت اپنی زبان عجز بیان سے بیان کی۔ غزل از مؤلف

غنی ہست در دو جہان بینوای محی الدین
رقم کجا شود از وی ثنائے محی الدین
ہر آنکہ در دلش آمد ہوائے محی الدین
ولایت دل و جان شد بجای محی الدین
شہ زمین و زمان شد گدای محی الدین
زبان خامہ قلم میشود زاوصافش
سوای حب خدا پاک شد ز حرص و ہوا
حکومت دو جہان شاہی زمین و زمان
بکشور دل و دین سرور اشوی سرور
اگر ہی تو سر خود بپائے محی الدین۔ انتہی

الفصل الثالث عشر
فی بیان اعطاء النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام

وقال لی یا عبدالقادر وھو فی المواقعات وانتی الخلعۃ القطبیۃ بروایۃ الاول قال العالم العلامۃ المحقق المدقق الشیخ محمد بن یحیی التادفی الحنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ قلائد الجواھر قال سیدنا الشیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ رأیت

رسول الله صلی الله علیه وسلم ببغداد وانا علی الکرسی وهو صلی الله علیه وسلم
راکب وموسی علیه السلام الی جانبه فقال یا موسیٰ أفی امتك رجل هکذا قال لا
فقال لی یا عبد القادر وهو فی الهوا فعانقنی والبسنی خلعة کانت علیه وقال
هذه خلعة القطبية علی الرجال والابدال ثم تفل فی فمی ثلاثا ورد نی الی المنبر
فترنمت هذه الابیات - **ابیات** - ساشربها فی کل دیر وبیعة ❊ واظهر
للعشاق دینی ومذهبی ❊ واضرب فوق السطح بالدف جلوة ❊ لکاساتها لافی
الزوایات محبتی ❊ انتهی - الثانی قال العالم الشیخ محمد صادق شهابی سعدی قادری
فی کتابه المناقب الغوثیه المنقبت الثامنة والخمسون فی اعطاء النبی علیه الصلوٰة والسلام ایاه
خلعة الغوثیة درکتاب تلخیص جواهر القلائد آورده که فرمودند حضرت غوثیه محبوبیه رضی الله بودم
من در بغداد برکرسی که دیدم حضرت سید المرسلین صلی الله علیه وسلم را پس جدی فرمودند که یا
موسی درامت تو مثل سید عبد القادر هست گفت لا یعنی نیست مانند ایشان پس فرمودند
بیا یا ولدی سوی من من رفتم آنحضرت صلی الله علیه وسلم مرا در کنار گرفتند وخلعت متبرک که بر
بدن مبارک خود داشتند مرا پوشانیدند و فرمودند هذا خلعة الغوثیة علی الاقطاب والابدال والاوتاد
وسه نوبت آب دهن مبارک خود در دهن من انداختند وباز گذاشتند بر منبر صلی الله علیه وسلم
بعد ازان حضرت رضی الله عنه باین ابیات ترنم نمودند - ساشربها فی کل دیر وبیعة ❊
واظهر للعشاق دینی ومذهبی ❊ واضرب فوق السطح بالدف جلوة ❊ لکاساتها
لافی الزوایات محبتی - یعنی می نوشم آن شراب محبت را در میخانه وبتخانه که هر یک عبارت از
مقامات سلوک هست وظاهر میکنم مر عاشقان را دین خود ومذهب خود ومیزنم بالای بام دف را
برای ظهور پیالهای آن شراب نیست مراد رکوشهای عالم محبتی انتهی - والثالث قال فی
سلطان الاذکار فی مناقب غوث الابرار رضی الله عنه بلسان الهندیة وهذا عبارته روایت تلخیص القلائد
میں شیخ ابو زکریا قدس سره سے مذکور ہے کہ فرمایا غوث رضی الله عنه نے شب کو دیکھا میں حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر سوار میرے مکان پر تشریف لائے اور متبسم ہو کر مجھسے فرمایا کہ ای نور العین ادہر آ جب مین آپ کے پاس گیا نہایت محبت سے ہاتھ میرا پکڑ کر تخت پر بٹھلایا اور روفرط شفقت سے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور پیراہن مبارک جو پہنے تھے اوسے اوتار کر مجھے پہنایا اور فرمایا ہذا خلعۃ الغوثیۃ علی الاقطاب والابدال والاوتاد اور بعد عطائے خلعت غوثیت مجکو رخصت فرمایا اور تشریف لیگئے الرابع قال العالم مفتی غلام سرور رحمۃ اللہ فی کتابہ گلدستہ کرامت دربیان تشریف لانے روح پاک جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ الملک الوہاب وموسی علیہ السلام کے اور عنایت کرنا جبہ مبارک اپنا بطور خلعت حضرت محبوب سبحانی قدس سرہ السامی کو کتاب تلخیص القلائد مین لکہا ہے کہ فرمایا جناب غوث الثقلین سے یکو مین نور العین حسنین محبوب سبحانی قدس اللہ سرہ السامی نے کہ ایک روز ہم بمقام مدرسہ معلی پر اجلاس منبر وعظ فرمارہے تھے کہ ناگاہ ایک تخت ملائک کے کندھون پر زیر آسمان اوترتا ہوا نظر آیا اور اوس تخت پر جناب پیغمبر علیہ الصلوۃ الملک الاکبر اور پہلوئے مبارک آنحضرت مین جناب موسی علیہ السلام رونق افروز تھے جب وہ تخت مقابل ہمارے آپہونچا تو نظر فیض اثر جناب پیغمبر کے متوجہ بجانب اصحاب ہوئے تو موسی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا اخی آپ کے امت مین کوئی ایسا ولی ہے جیسے کہ ہماری امت عالی درجت مین محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی ہین موسی علیہ السلام بولے کہ نہین س بعد ہم سے متکلم ہو کر فرمایا کہ اے نور العین غوث الثقلین اوپر آ چنانچہ ہم حسب الامر جناب پیغمبر بعالم باطن حاضر خدمت سراپا عظمت ہوئے تو آنحضرت نے ہمکو بھی اپنے تخت پر جگہہ دی اور فرط مہربانی سے ہماری پیشانی پر بوسہ دیا اور پیراہن مبارک اور جبہ شریف جو بذات بابرکات خود اوسوقت پہنے ہوئے تھے اوتار کر ہمکو پہنایا اور فرمایا کہ ہذہ خلعۃ الغوثیۃ علی الاقطاب والابدال والاوتاد اور بعد عطائے خلعت رخصت کیا کہتے ہین کہ جناب غوث الاعظم خلعت غوثیت سے سر ممتاز ہوئے تو نہایت خورسندی سے یہ شعر زبان حق ترجمان سے فرمایا۔ شعر ساتی بہا فی دیر ربیعۃ ٭ واظہر للعشاق دینی ومذہبی ٭ واضرب فوق السطح بالدف جلوۃ ٭ لکاساتہا لا فی الزوایات محبتی یعنے مین پیتا ہون ایسی شراب

محبت کی میخانہ اور بتخانہ ہین کہ یہ میخانہ اور بتخانہ عبارت مقامات سلوک سے ہے اور ظاہر کرتا ہون مین عاشقون کے واسطے دین اور مذہب اپنا بیچتا ہون اوپر بام شوق کے نہایت خورسندی سے دف واسطے ظہور اوس شوق کے اور پیالے اوس شراب کے اور نہین ہکو ہیچ گوشہ ہائے جہان کے محبت

غزل ازمؤلف

مانگتے ہین قرض خوبی سارے گل رو آپ سے
مل گئی خیرات گل کو رنگ و خوشبو آپ سے

ہے در دولت تیرا دار الشفا یا محی دین
درد بیدرمان کو مل جاتا ہو دارو آپ سے

لال ہون لب بند ہے ہین مرے بس اسلئے
حال دل کہدینگے یکسر میرے آنسو آپ سے

دل ہے جیون قبلہ نما ساجد تیرے در پہ ہمیش
اور ارادت ہے مجھے ہر جا و ہر سو آپ سے

تابع فرمان ہے تیرا تابع حکم الٰہ
پھر گیا حق سے اگر پھیرے کوئی رو آپ سے

آپ جسپر مہربان ہو جاینگے یا دستگیر
رام ہو جائے گا اوسکا نفس بدخو آپ سے

کیا لکھون حال دل زار اپنا ای سرور دین
لب نہان ہے حالت سرور سرمو آپ سے

الفصل الرابع عشر فی بیان رویای عبد اللہ بن احمد البلخی رحمہما اللہ تعالی

رأی في المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویجلسون الناس عندہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من اقرب الصحابۃ الی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ وکان من اقرب من الاولیاء الیہ الشیخ السید عبد القادر رضی اللہ عنہ کما ورد فی کتب متعددۃ بروایۃ الثقات الاول قال العالم العلامۃ الشیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوفی الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ بہجۃ الأسرار ومعدن الانوار اخبرنا ابو محمد الحسن قال سمعت ابی یحدث عن ابیہ قال خدمت الشیخ الجلیل العارف ابا عبد اللہ محمد بن احمد البلخی رضی اللہ عنہ ببغداد سنۃ وسألتہ عن بدایتہ فکتمنی ایاہا فخدمتہ سنۃ ثانیۃ وسألتہ عن بدایتہ فکتمنی ایاہا فخدمتہ سنۃ ثالثۃ فسألتہ

فقال ولابد فقلت ان رايت قال ولا تخبر احدا بما اخبرك به واناحي قلت نعم فلما وثق مني بالكتمان قال هاجرت من بلخ الى بغداد وانا شاب لا ارى الشيخ السيد عبد القادر رضي الله عنه فوافيته يصلي العصر بمدرسة وما كنت رأيته ولا رأني قبل ذلك فلما سلم واهرع الناس للسلام عليه تقدمت اليه وصافحته فامسك بيدي ونظر اليّ متبسما وقال مرحبا بك يا بلخي يا محمد قد رأى الله مكانك وعلم نيتك قال فكان كلامه دواء الجريح وشفاء العليل فذرفت عيناي خشية وارتعدت فرائصي هيبة وتقطعت احشائي شوقا ومحبة او حشت نفسي من الخلق ووجدت في قلبي امرا لا احسن ان اعبر عنه ثم لازال ذلك ينمو ويتقوى وانا غالبه وقمت الى وردي في ليلة مظلمة فبرز لي من قلبي شخصان وبيد احدهما كاس وبيد الآخر خلعة فقال لي صاحب الخلعة انا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهذا احد الملائكة المقربين وهذا كاس من شراب المحبة وهذه خلعة من حلل الرضى ثم البسني تلك الخلعة وناولني صاحبه الكاس فاضاء بنوره المشرق والمغرب فلما شربته كشف لي عن اسرار الغيوب ومقامات اولياء الله تعالى وغير ذلك من العجائب فكان مما رأيت مقاما تزل اقدام العقول في سره وتضل افهام الافكار في جلاله وتخضع رقاب الالباب لهيبته وتذهل اسرار السرائر في بهائه وتدهش ابصار البصائر لاشعة انواره ولا تسامته من الملائكة الكروبيين والروحانيين والمقربين الاحنت ظهورها على هيئة الراكع تعظيما لقدر ذلك المقام وسمعت لله عز وجل بانواع التقديس والتنزيه وسلمت على اهل ذلك المقام ويقول القائل انه ليس فوقه الا عرش الرحمن ويتحقق الناظر اليه ان كل مقام لواصل وحال لمجذوب وسر لمحبوب وعلم لعارف وانار تصريف لولي او تمكين لمقرب فمبدأه وماله وجملته وتفصيله وكله وبعضه واوله وآخره فيه استقر ومنه نشأ وعنه صدر وبه كمل فمكثت مدة لا استطيع النظر اليه ثم طوقت النظر اليه ومكثت مدة لا استطيع ان اسامته ثم طوقت مسامتة ومكثت مدة

لا استطیع اعلم من فیه ثم بعد مدة علمت من فیه فاذا فیه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وعن یمینه آدم وابراهیم وجبرئیل علیهم السلام وعن شماله نوح وموسی وعیسی صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین وبین یدیه اکابر اصحابه واولیاء قیاما علی هیئة الخدمة کان علی راوسهم الطیر ومن هیبة صلی الله علیه وسلم وکان من عرفت به من الصحابة رضی الله عنهم ابوبکر وعمر وعثمان وعلی وحمزة والعباس رضی الله عنهم وکان من عرفت به من الاولیاء معروف الکرخی وسری السقطی والجنید وسهل التستری و وتاج العارفین ابوالوفا والشیخ السید عبدالقادر والشیخ ابوسعد والشیخ احمد الرفاعی والشیخ عدی رضی الله عنهم وکان من اقرب الصحابة الی المصطفی صلی الله علیه وسلم ابوبکر الصدیق رضی الله عنه وکان من اقرب الاولیاء الیه الشیخ السید عبدالقادر فسمعت قائلا یقول انا اشتاقت الملائکة المقربون والانبیاء والمرسلون والاولیاء المحبون الی رؤیة محمد صلی الله علیه وینزل من مقامه الاعلی عند ربه تعالی الی هذا المقام فتضاعف انوارهم برؤیة وترکوا احوالهم مشاهدته وتعلوا مکانتهم ومقاماتهم ببرکته ثم یعود الی الرفیق الاعلی فسمعت الکل یقولون سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ثم بدت لی بارقة من نور القدس الاعظم فغیبتنی عن کل مشهود واختطفتنی من کل موجود وسقطت منی التمیز بین کل مختلفین واقمت علی هذا الحال ثلاث سنین فلم اشعر بنفسی الا وانا فی سامرة والشیخ السید عبدالقادر رضی الله عنه قابض علی صدری واحدی رجلیه عندی والاخری ببغداد وقد عاد الی تمیزی وملکت امری فقال الی الشیخ السید عبدالقادر یا بلخی قد امرت ان ادرک الی وجودک واملکک حالک واسلب منک ما قمرک ثم اخبرنی بجمیع مشاهداتی واحوالی من اول امری الی ذلک الوقت اخبارا یدل علی اطلاعه علی فی کل نفس وقال لی لقد سألت فیک رسول الله صلی الله علیه وسلم سبع مرات حتی طوقت النظر الی ذلک المقام سبع مرات حتی طوقت مسامتة وسبع مرات حتی اطلعت علی ما فیه وسبع مرات

حتی سمعت المنادی ولقد سألت الله فیك سبع مرات وسبع مرات وسبع مرات حتی الاح
لك تلك البارقة وکنت من قبل سألته فیك سبعین مرة حتی سقاك کاسا من محبته و
البسك خلعة رضوانه یا بنی تضیع ما فاتك من الفرائض او قال رضی الله عنه فی الاولیاء
رضی الله عنهم الولایة ظل النبوة والنبوة ظل الالهیة والنبوة مستفادة من وحی الملك
وغیب الازل والولایة مطالعة روح الکشف ملاحظة مطالع البیان بصفاء یذهب
کدورة البشریة وطهارة تنقی ودنس الاسرار فالانبیاء مصادر الحق والاولیاء مظاهر الصدق
ومعجزة النبی علی مجری الوحی والتحدی باسرار معانی الحکمة واعجاز کمال القدرة مبرهنا
علی صدق قوله ومنهاج امره یقطع به حجج المنکرین وکرامة الولی استقامة فعل علی
قانون قول النبی صلی الله علیه وسلم فالتحدث بسر الولایة نقص والتقصد لنسیمها
کرامة والکرامة اثر انعکاس نور الحق علی قلب الولی من منبع ضوء نور الکلی بواسطة
الفیض الالهی ولا یظهر ذلك علی الولی الامع عدم اختیاره والاولیاء خصوا باشارات
نبویة واطلاعات حقیة وارواح نوریة واسرار قدسیة وانفاس روحانیة وشواهد
زکیة وهم خلفاء الانبیاء انتهی الثانی قال العالم المحدث الشیخ عبد الحق الدهلوی رحمة الله علیه فی کتاب
زبدة الاسرار ومنها ما نقل عن الشیخ الجلیل العارف ابی عبد الله محمد بن احمد البلخی
رحمهما الله تعالی انه قال بعد ما اخفی من السائل الی ثلث سنین واخذ موثقا منه
بالکتمان مدة حیاته کشف لی عن اسرار الغیوب مقامات اولیاء الله تعالی فکان مما
رأیت مقام تزل اقدام العقول فی سره وتضل الافکار فی جلاله ویتحقق الناظر الیه
ان کل مقام لواصل او حال لمجذوب او سر لمحبوب او علم لعارف او تصریف لولی او تمکین
لمقرب مبدأه وماله وجملته وتفصیله وکله وبعضه واوله واخره فیه استقر ومنه
نشأ وعنه صدر وفیه کمل ثم ساق الشیخ الجلیل فی تعریفه ذلك المقام عالما لا یسع
البیان تقریره فقال فکنت لا استطیع النظر الیه ومکثت مدة لا اعلم من فیه ثم بعد مدة

علمت من فیه ای انه مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم وعن یمینه آدم وابراهیم و
جبریل وعن یساره نوح وموسی وعیسی صلوات الله علیهم اجمعین وبین یدیه اکابر الصحابة
والاولیآء علی هیئة الخدم وکان علی رؤسهم الطیر من هیبة صلی الله علیه وسلم وکان من عزة
من الصحابة ابوبکر وعمر وعثمان وعلی وحمزة والعباس رضوان الله علیهم اجمعین ومن الاولیاء
معروف الکرخی وسری السقطی والجنید البغدادی وسهل التستری وتاج العارفین ابوالوفا
والشیخ السید عبدالقادر والشیخ عدی بن مسافر والشیخ احمد الرفاعی قدس الله اسرارهم
وکان من اقرب الصحابة الی النبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر الصدیق رضی الله عنه وکان من
اقرب الاولیاء الیه الشیخ السید عبدالقادر رضی الله عنه ولهذه القصة ذیل یدل علی کمال
تفضله فی العوام رضی الله عنه مذکور فی بهجة الاسرار انتهی الثالث قال الامام عبدالله
الیافعی الشافعی رضی الله عنهما فی کتابه خلاصة المفاخر وهی بالفارسیة حکایت صد وهشتاد وسیوم
نقلست از شیخ ابوعبدالله محمد احمد البلخی رحمهما الله تعالی که گفت که از بلخ در بغداد رفتم ومن آرزو خواستم تا شیخ
محی الدین سید عبدالقادر رضی الله عنه را دریابم بوقت عصر در مدرسهٔ او در نماز بود که من درآمدم وپیش ازان
نه او مرا دیده بود ونه من او را چون سلام نماز داد دیدم که خلق بروی هجوم کرد ومن هم پیشتر شدم ومصافحه
کردم دست من بگرفت وسوی من دید وتبسم کرد وگفت ای محمد بلخی قدر ای الله مکانک وعلم نیتک گویا که
کلام او دوا بود مر جریح را وشفا مر علیل را پس هر دو چشم من از شیب روان شد واستخوان سینهٔ من لرزیدن
گرفت واز شوق واز محبت اندرون من پاره پاره میشد ونفس من از خلق متوحش شد ودر دل خود امری
یافتم که ازان تعبیر ممکن نبود وهیجان می افزود وقوی میشد ومن آنرا بتکلف میداشتم تا آنکه شبی تاریک ومن
برای ورد برخاستم ودیدم که از دل من دو شخص ظاهر شدند در دست یکی قدحی وبدست دیگری خلعتی
صاحب خلعت گفت من علی ابن ابوطالبم کرم الله وجهه وآن یکی از ملائک مقرب است واین کاس شراب محبت
است واین خلعت از حلل رضا وآن خلعت مرا پوشانید وآن صاحب قدح مرا او بیس بنور آن تمام مشرق
ومغرب منور شد چون من آنرا بیاشامیدم مکشوف شد بر من از اسرار غیب مقامات اولیآء وغیر آن از عجائب

ومقامی را دیدم که اقدام عقول از سرآن از پا درآید وافهام وافکار در عظمت آن راه گم کند ورقاب الباب از ہیبت آن در خضوع آید واسرار سرائر از بہار آن از غایت تعجب با خود شود وابصار بصائر از اشعۂ انوار آن دہشت متحیر گردد وطائفه کروبیان وروحانیان ومقربان برآن اطلاع نیابند مگر آنکه در رکوع شوند از بہر تعظیم من قدر آن مقام وتسبیح گویند مر خدا را عز وجل بانواع تقدیس وتنزیه مر اہل آن مقام را سلام کنند وقائل بیقین گوید که نیست فوق این مگر عرش رحمٰن وناظر بتحقیق داند که ہر مقامیکه مر واصل را ست یا حالی مر مجذوب را یا سری مر محبوب را یا علمی مر عارف را یا تصریفی مر ولی را یا تمکین مر مقرب را مبداد ومآل وجمله تفصیل وکل وبعض واول وآخر آن در آن مقام است واز انجا نشو یافته دست ربدان کمال گرفته مدتی این بود که نظر دران مقام نمی توانستم کردن بعد مدتی قوت آن شد ودیدی طاقت سام تت آن نداشتم بعد مدتی آن ہم شد وبعد مدتی نمیدانستم که اندران مقام کیست بعد مدتی اطلاع یافتم که دران مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته ست راست او آدم وابراہیم وجبریل وچپ او نوح وموسیٰ وعیسیٰ صلوات الله علیہم اجمعین وپیش او اکابر صحابه رضوان الله علیہم اجمعین واولیاء رحمة الله علیہم بر شکل خدم ایستاده وکان علی راسہم الطیر من ہیبته صلی الله علیه وسلم واز صحابه رضوان الله علیہم اجمعین از انہا که من می شناختم ابوبکر بود وعمر وعثمان وعلی وحمزه وعباس رضی الله عنہم واز اولیاء خواجه معروف کرخی وسری سقطی و وجنید بغدادی وسہل تستری وتاج العارفین ابو الوفا وشیخ محی الدین سید عبد القادر وشیخ عدی و شیخ احمد رفاعی قدس الله اسرارہم واز اقرب صحابه مصطفی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق بود واز اقرب اولیاء شیخ محی الدین سید عبد القادر پس شنیدم قائلی که میگفت چون ملائک مقرب وانبیاء مرسل واولیاء محب مشتاق رویت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شوند از مقام علی عنده به تعالی بدان مقام آید پس از دیدن جمال او انوار ایشان مضاعف شود واحوال ایشان مصفا گردد ومقام مرتبۂ ایشان بلند شود از برکت او ثم یعود الی الرفیق الاعلی پس شنیدم که ہمه گفتند سمعنا واطعنا غفرانك ربنا و الیك المصیر بعد از ان از نور قدس اعظم بارقه ظاہر شد که غائب کرد مرا از جمیع مشہود وہر بود مرا انہ چه بود موجود ومن عقل وتمیز نماند سه سال بدین حال بوده ام ناگاه می بینم که دست مبارک شیخ

بر سینہ من ہست یکبارہ او در بغداد و یکی نزدیک من درحال بجود آمدم و مالک حال خود شدم پس شیخ فرمود
ای علی مرا امر کردہ اند تا ترا دو سیاہیم و مالک حال گردانم آنچہ ترا مقہور میگردانداز تو دور کنم بعد ازان از جمیع
احوال و مشاہدات من از اول تا آخر مرا خبر کرد و بیقین دانستم کہ او بہر نفس مطلع بود بر حال من و فرمود
از برای تو درخواست کردم از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہفت بار طاقت آن شد ترا کہ بدان مقام نظر کنی و ہفت
بار دیگر تا ترا مسامت آن مقام شد و ہفت بار دیگر تا ترا اطلاع شد بر کسانیکہ اندران مقام بودہ اند و ہفت
بار دیگر تا آن ندا شنیدی و از حق تعالی درخواست کردم و ہفت بار ہفت بار ہفت بار تا آن بار قہ بر تو لایح
شد و پیش ازین از حق تعالی ہفتاد بار درخواست کردہ بودم تا ترا کاس محبت بچشانید و خلعت رضا بپوشانید
ای فرزند برو و جمیع فرائض کہ از تو فوت شدہ ہست قضا کن انتہی و ہچنان ہست در انہار المفاخر در صفحہ
۲۲ مطبوعہ مدراس " و فی تفسیر عرائس البیان قولہ تعالی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی
من رسول ستر اللہ انوار غیبہ من جمیع الخلق الا من ارواح الانبیاء والمرسلین وعقول الصدیقین
وقلوب العارفین واسرار الموحدین ہم مستشرفون باللہ علی غیب اللہ وہم اہل مکاشفات
صحیحہ وفراسات صادقۃ ومشاہدات واضحۃ قال بعضہم احتجب الغیب عن الخلق فلم یطلع
علیہ احد من عبادہ الا الاولیاء علی طرف منہ باخبار صدق او تلقفہ من الحق والاولیاء
الامناء اصحاب الفراسات الصادقۃ فانہم ینظرون بنور الغیب فیحکمون علی الغیب انتہی وفی
کنوز الحقایق للامام عبد الرؤف المناوی رحمہ اللہ تعالی قولہ علیہ السلام اتقوا فراسۃ
المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ رواہ عبد الرزاق فی مسندہ انتہی الرابع قال العالم امام العلماء قاضی
الاسلام قاضی الملک بدر الدولہ محمد صبغۃ اللہ رحمہ اللہ فی کتابہ نثر الجواہر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ بالہندیۃ روایت ہے
شیخ ابی الحسن قرقاسی کہے میرے دادا بغداد میں شیخ ابا عبد اللہ محمد بن احمد دمیاطی کی ایکسال خدمت کیا اور اونکا ابتداے حال
سوال کئے انھون اسکو ظاہر نہ کئے پھر دوسرا ایک سال خدمت کئے اور پھر وہی سوال کئے شیخ فرمائے
ایا تجھکو میں اوس سے خبر دینا ضرور ہے سو وہ کہے اگر آپ کی رائے مقتضی ہووے تو کہو شیخ فرمائے کہنا ضرور
ہے لیکن بشرطیکہ میری حیاتی میں تو کسی سے نہ کہنا انھون نے اسکو قبول کئے شیخ کہے میرے دادا سے یہہ

عہد جب مضبوط لئے قوکہ میرے جوانی مین بلوغ سے نکل سکے شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے واسطے بغداد کو آیا نماز کے وقت حضرت کے نزدیک پہنچا اسوقت حضرت عصر کی نماز مین مشغول تھے مین کبھی حضرت کو نہین دیکھا تھا حضرت بھی مجھے نہین دیکھے تھے جب نماز سے سلام کئے لوگ حضرت کو سلام کرنے واسطے جلدی گئے مین بھی حضرت کے نزدیک جاکے مصافحہ کیا حضرت میرا ہاتھ پکڑکے تبسم کئے اور فرمائے مرحبا بک یا بلخی ای محمد خدای تعالی تیرا مکان دیکھا اور اوسکو تیرا پیغمبر جانا شیخ ابو عبد اللہ کہتے ہین سخن حضرت کا چونکہ زخم کی دوا اور مریض کی شفا تھا خوف سے میرے دونون آنکھ اشک بھرلائے اور ہیبت سے میرے اعضا لرزے اور میرا باطن محبت الٰہی سے کانپنے لگا گیا اور میرا نفس خلق سے وحشت پکڑا اور میرے باطن مین ایک ایسا امر پایا جو اسکا بیان نہین کرسکتا ہون اور وہ حال ہر روز زیادتی مین تھا اور قوی ہوتا تھا اور مجھے عاجز کرتا تھا ایک شب مین اپنے ورد واسطے اٹھا وہ شب بہت تاریک تھی سو میرے دل سے دو شخص ظاہر ہوئے ایک کے ہاتھ مین پیالہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ مین خلعت تھی خلعت جسکے ہاتھ مین تھی ان نے مجھے کہا مین علی بن ابی طالب ہون اور یہ پیالہ لیا ہے سو وہ ملائکہ مقربین سے ہے اور یہ پیالہ محبت کی شراب کا ہے اور یہ خلعت رضا کی ہے پھر وہ خلعت مجھے پہنائے اور وہ پیالہ دئے اسکے نور سے مشرق سے مغرب تک روشن ہوا مین جب اوسکو پیا تو مکشوف ہوئے میرے پر غیب کے اسرار اور اولیا کے مقامات اسکے سوائے بہت سے عجائب اور ایک مقام دیکھا اسکے پہچاننے مین عقول کے اقدام لغزش کرتے ہین اور اسکے افکار کے فہم متحیر ہوتے ہین اور اوسکی ہیبت سے اولی الالباب کے گردنان خضوع کرتے ہین اور اوسکی روشنی سے سرائر کے اسرار ذہول پاتے ہین اور اوسکے نور کی شعاع بصائر کے ابصار کو مدہوش کرتی ہے ملائکہ کروبین یا روحانیین مقربین جب اسکے مقابل ہوتے ہین تو اونکے پشتان بطور رکوع کے جھکتے ہین اس مقام کی تعظیم کے واسطے پھر مین خدا تعالی کو اقسام کی تقدیس اور تنزیہ سے تسبیح کیا اور اس مقام کے مردون پر سلام کیا اور مین ایک قایل کو سنا کہتا ہے اوسکے اوپر نہین ہے مگر عرش حق تعالی کا اور اس مقام کے دیکھنے ولے پر متحقق ہوا جو مقام واصل کا یا حال مجذوب کا یا سر محبوب کا یا علم عارف کا یا تصریف ولی کی یا تمکین مقرب کی ہے تو مبدا اوسکا وہی مقام ہے اور مرجع

اسکا وہی ہی کمال اور اجمال اور تفصیل اور کل اور بعض اور اول اور آخر اسکا اس ہی مقام مین ہی اور وہ اُس ہی سے ناشی و صادر ہوا ہی اور اس ہی سے کامل ہوا ہی پھر ایک مدت تک اس مقام کو نگاہ کرنے کی مجھے طاقت نہ ہوئی من بعد مین اسکو دیکھنے پر قادر ہوا پھر اکمدت تک اُسکی مسامتت دیکھنے کی مجھے طاقت نہوئی بعد اسپر قادر ہوا پھر ایک مدت تک اُس مقام کے صاحبون کو پہچاننے کی طاقت مجھے نتھی پھر بعد پہچانا تو دیکھا اسمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہین اور حضرت کے سیدھے بازو پر آدم اور ابراہیم اور جبریل علیہم السلام بیٹھے ہین اور بائین طرف نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام مین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بڑے بڑے صحابہ اور اولیا خادمون کے مانند کھڑے ہوتے ہین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت سے بہت ادب اور فروتنی سے ہین اور حضرت کے اصحاب مین ابوبکر صدیق اور عمر اور عثمان اور علی اور حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہم کو پہچانتا تھا سو مین اور اولیا مین شیخ معروف کرخی اور سری سقطی اور جنید بغدادی اور سہل تستری اور تاج العارفین ابوالوفا اور شیخ سید عبدالقادر جیلانی اور شیخ عدی بن مسافر اور شیخ احمد رفاعی قدس اللہ اسرارہم اور صحابہ مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور اولیا مین شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ ہے اور مین ایک قائل کو سنا کہتا ہو جب مقرب فرشتے اور انبیا مرسلین اور اولیا محبین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رویت کے مشتاق ہوتے ہین تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بلند مقام سے جو نزدیک خدا تعالیٰ کے ہی اس مقام طرف آتے ہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رویت سے انکے انوار دوچند ہوتے ہین اور وہ لوگ حضرت کے مشاہدے سے اپنے احوال کو پاک کرتے ہین اور برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکانات اور مقامات انکے بلند ہوتے ہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکے بعد افق اعلیٰ پر جاتے ہین پھر تمام لوگون سے مین سنا کہتے ہین سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر پھر قدس اعظم سے نور کا ایک چمکا تھا ظاہر ہوا اور مجھے ہر مشہود سے غائب کیا اور ہر موجود سے لے گیا اور میرے تمیز دور کیا اور میرے حواس کو گم کیا اسی حالت پر تین سال رہا میرے نفس سے مجھے آگاہی نتھی مگر اپنے کو سامرا مین پاتا تھا اور دیکھتا تھا شیخ سید عبدالقادر میرا سینہ پکڑے ہین اور حضرت کا ایک پاؤن

میرے نزدیک ہے اور ایک پانون بغداد مین ہے بعد پھر مجھے تمیز آئی اور میرے حال کا مین مالک ہوا حضرت نے مجھے فرمائے لے بلخی مین مامور ہوا تجھے تیرے وجود طرف پھر لاؤن اور تجھے تیرے حال کا مالک کرون اور جو چیز تجھے عاجز کئی ہے اُسے دور کرون پھر حضرت میرے تمام احوال کی خبر اول سے آخر تک ایسا دے اس سے معلوم ہوا حضرت کو میرے ہر نفس پر آگہی تھی اور فرمائے مین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سات بار سوال کیا تا تجھے اس مقام کو دیکھنے کی طاقت ہوئی پھر سات بار سوال کیا تا تجھے اسکی مسامتت کی طاقت ہوئی پھر سات بار سوال کیا تا تو مطلع ہوا حاجیو تیرا اس مقام کے پھر سات بار سوال کیا تا تو آواز ان کا سنا اور چاہا مین حق تعالی سے سات بار پھر سات بار پھر سات بار تا کہ تیرے پر اوس نور کو چمکایا اور اول بھی سات بار چاہا تا تجھے پیالہ محبت کا پلاوے اور تجھے رضا کی خلعت پہناوے لے اڑکے تیرے نماز ان فوت ہووے سو اسکو قضا کر انتہی **الفصل الخامس** عشر فی بیان مدح خضر علیہ السلام حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ قال فی حقہ ماکان ولی فی مقام معشوقیۃ تحت السماء مثل الغوث الاعظم ھو امام الصدیقین وحجۃ العارفین وروح المعرفۃ وشانہ عظیم بین الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کما ورد فی کتب متعددۃ الاول قال العلام الشیخ عبد القادر بن محی الدین الاربلی رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ تفریح الخاطر المنقبۃ العشرون فی مدح خضر علیہ السلام حضرت الغوث رضی اللہ عنہ قال فی حقہ ماکان ولی فی مقام معشوقیۃ تحت السماء مثل الغوث الاعظم ولا یکون وقال الشیخ ابو مدین المغربی رضی اللہ تعالی عنہ لقیت الخضر علیہ السلام فسألتہ عن مشایخ المشرق والمغرب فی عصرنا وسألتہ عن الفرد الافخم والغوث الاعظم فقال ھو امام الصدیقین وحجۃ العارفین وروح المعرفۃ وشانہ عظیم بین الاولیاء رضی اللہ عنہم انتہی الثانی قال العالم الشیخ محمد بن یحیی التادفی الحنبلی رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ قلائد الجواھر وقال الشیخ ابو مدین بن شیب المغربی رضی اللہ عنہ لقیت الخضر علیہ السلام فسألتہ عن مشایخ المشرق والمغرب الآن وسألتہ عن الشیخ سید عبد القادر الجیلی رضی اللہ عنہ فقال ھو امام الصدیقین وحجۃ العارفین وھو روح فی

المعرفة وشانه الغربة بين الاولیآء كلها رضی الله عنہم انتہیٰ الثالث قال العالم الشیخ نورالدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوفی الشافعی رحمهما الله تعالیٰ فی كتاب بہجۃ الاسرار و معدن الانوار اخبرنا ابو محمد بن مسعود البجلاسی قال اخبرنا الشیخ القدوة ابو زكریا یحیی بن محمد المغربی قال سمعت الشیخ القدوة ابا محمد صالح الدوكالی یقول سمعت شیخنا الشیخ ابامدین رضی الله عنه فی سنة ستین وخمسمائة یقول لقیت ابا العباس الخضر علیه السلام منذ ثلاثة اعوام فسألته عن مشائخ المشرق والمغرب فی عصرنا وسألته عن الشیخ السید عبد القادر الجیلی فقال هو امام الصدیقین وحجة العارفین وهو روح فی المعرفة وشانه الغربة بین الاولیاء ولم یبق بینه وبین الخلق الا نفس واحد ومراتب الاولیاء كلها من وراء ذلك وانا اصرف مراتب الاولیآء من وراء اشارته قال وما سمعته قال مثل هذا فی حق غیره رضی الله عنہم اجمعین انتہیٰ الرابع قال العالم العلامة المحدث الشیخ عبد الحق دهلوی رحمة الله علیه فی كتابه زبدة الاسرار ومنها ما نقل عن الشیخ ابی مدین رضی الله عنه انه قال لقیت ابا العباس الخضر علیه السلام منذ ثلاثة اعوام فسألته عن مشائخ المشرق والمغرب وسألته عن الشیخ السید عبد القادر فقال هو امام الصدیقین وحجة العارفین وهو روح فی المعرفة وشانه الغربة بین الاولیآء ولم یبق وبین الخلق الا نفس واحد ومراتب الاولیاء كلهم من وراء ذلك النفس وانا اصرف مراتب الاولیآء من وراء اشارة قال وما سمعته قال مثل هذا فی حق غیره رضی الله عنه انتہیٰ الخامس قال العالم المحقق المدقق محمد غوث المخاطب بشرف الملک رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ انہار المفاخر شیخ ابو محمد میگوید کہ پس از خضر علیہ السلام پرسیدم کہ درین گروہ احباب آیا فردی باشد در ہر وقت کہ رجوع ایشان بدو بود گفت آری گفتم در زمان ما کیست گفت شیخ محی الدین سید عبد القادر ست گفتم خبر دہ مرا از احوال او گفت او فرد احباب و قطب اولیا است درین زمان و خدای تعالیٰ ہیچ ولی را بمقامی نرسانید مگر آنکہ شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ برتر از ان است و پیالہ محبت نچشانید خدای تعالیٰ ہیچ حبیب را مگر آنکہ شیخ سید عبد القادر را گوارا تر از ان چشانید و

بخشد ہیچ مقرب را حالی مگر کہ شیخ عبد القادر ریزہ گستر آن است وتحقیق ودیعت نہادہ است خدای تعالیٰ در وی سری از اسرار خود کہ پیشی گرفتہ است بدان بر جمہور اولیا رو نگرفتہ است خدا تعالیٰ ہیچکس را ولی نخواہد گرفت مگر او ادب کنندہ است با آن سر تا روز قیامت بدانکہ ابو محمد بن عبد ربہ البصری از اعیان مشائخ عراق وعظمای عارفان مشہورین واجلا مقربین است صاحب احوال فاخرہ وکرامات ظاہرہ وافعال خارقہ وانفاس صادقہ ومقامات سینہ وحقایق زاہرہ ومعارف باہرہ بودہ ومراتب عالیہ از منازل قرب ومعارج رفیعہ بسوی محاضر قدس وکشوف واضحہ از عوالم غیب ولسان طویل در اخبار بعجائب فتح وباع رحیب در تصریف نافذ وقدم راسخ در تمکین داشت ویکی ست از علما شریعت ومفتیان مذہب امام مالک رضی اللہ عنہ انتہی السادس قال الامام عفیف الدین عبد اللہ الیافعی الشافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فی کتابہ خلاصۃ المفاخر شیخ ابو محمد بن عبد میگوید از خواجہ خضر علیہ السلام پرسیدم مثل این طایفہ اجباب را سر قوم ہم باشد کہ رجوع ایشان بر وبود گفت آری در عہد ما کیست گفت شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ گفتم مرا خبر دہ از احوال شیخ گفت او فرد احباب است وقطب الاولیا در زمان خویش حق تعالیٰ ہیچ ولی را بمقامی نرسانیدہ ہیچ حبیبی را الا آنکہ شیخ را بہتر وگوارا تر از آن عطا کرد واین بعض کلام از خواجہ خضر است در فضائل شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ است انتہی السابع قال العالم الشیخ محمد صادق شہابی سعدی قادری فی کتابہ مناقب غوثیہ المنقبۃ السادسۃ والاربعون فی مدح الخضر علیہ السلام آوردہ اند کہ خواجہ خضر علیہ السلام فرمودہ واللہ تا حال مثل غوث رضی اللہ عنہ در مقام معشوقیت زیر کبود آسمان ہیچ کس نیامدہ ور اولیا رو تا قیامت نخواہد آمد وایضا عن الشیخ ابی مدین المغربی لقیت الخضر علیہ السلام فسألتہ عن المشائخ فی المغرب والمشرق فی عصرنا وسألتہ عن الفرد الافخم الغوث الاعظم رضی اللہ عنہ فقال ہو امام الصدیقین وحجۃ العارفین ہو روح فی المعرفۃ شانہ عظیم بین الاولیاء کشان سید الرسل محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بین الانبیاء وانا اصوف مراتب الاولیاء من وراء اشارتہ انتہی الثامن قال العالم مفتی غلام سرور رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ گلدستہ کرامات وہی بلسان الہندیۃ وہذا عبارتہ مناقب چہل وششم در تعریف محبوب سبحانی غوث الاعظم بزبانی خضر علیہ السلام

رہبر گمرہان زبدۂ انبیای عالیشان خضر علیہ السلام متبسم ہو کر فرماتے ہین کہ بخدای لایزال و برسول اہل کمال کہ اس دار دنیا مین کوئی اولیا رصاحب ولایت کہ بجناب یزدانی درجہ محبوبیت رکھتا ہو بجز محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا اور حضرت شیخ الشیوخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہین کہ لقینا الخضر علی نبینا علیہ السلام وسألت عن المشائخ المشرق والمغرب وسألت عن الفرد الافخم الغوث الاعظم رضی اللہ عنہ فقال ھو امام الصدیقین وھو روح فی المعرفۃ وشانہ عظیم بین الاولیاء وانا اصرف مراتب الاولیاء من وراء شانہ **غزل از مؤلف**

شہ جیلان عالی ہمم ہین	وہی عز عرب فخر عجم ہین	سمندر ہین وہ ایک جود و سخا کے	خزینہ فیض کے بحر کرم ہین
بے زیب جنکے سر پہ تاج شاہی	زمین و آسمان پر قدم ہین	وہ شہنشاہ ہین شاہ گیلان	کہ جنکی شیت گردون پر علم ہین
جہان خلق جہان کرتی ہو تعظیم	ہین جنکو سست رویان ساکم ہین	وہین ہین نونگل گلزار عالم	وہی بس سرو بستان ارم ہین
وہی ہین فخر اہل بیت نبوی	وہی عزت وہ اہل حرم ہین	گدا ہین جو کہ اونکی آستان کے	سکندر ہین وہی دارا ہین جم ہین
عظیم الرتبہ محبوب الٰہی	ولی سب جسکے پابوس قسم ہین	جلالت پہ اگر آجائین حضرت	بلا خنجر سر دشمن قلم ہین
	مسیحادم کرم سرور پہ کیجے	کہ باقی اومین ایک دو دم ہین	انتہی

الفصل السادس عشر وفیہ فصول الاول فی بیان مدح السید احمد الکبیر الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت الغوث رضی اللہ عنہ قال الشیخ السید عبد القادر بحر الشریعۃ عن یمینہ وبحر الحقیقۃ عن یسارہ من ایہما شاء اغترف والفصل الثانی فی بیان وصیۃ السید احمد الکبیر رحمۃ اللہ علیہ یوصی اولادہ اخیہ واحبابہ قال اذا دخلتم بغداد فلا تقدموا علی زیارۃ الشیخ السید عبد القادر ان کان حیا ولا علی قبرہ ان کان میتا فقد اخذ لہ العہد ایما رجل من اصحاب الاحوال دخل بغداد و لم یزرہ سلب حالہ ولو قبل الموت الفصل الثالث فی بیان الشریف ابو عبد اللہ الفصل الرابع فی بیان الشیخ عبد الرحمن الفصل الخامس نسب الشریف السید احمد الکبیر الرفاعی **الفصل الاول** فی بیان مدح السید احمد الکبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت الغوث الشیخ السید عبد القادر رضی اللہ عنہ وقال الشیخ السید عبد القادر بحر شریعۃ عن یمینہ وبحر الحقیقۃ عن یسارہ من ایہما شاء

اغترف

اغترف السید عبد القادر لا ثانی له فی عصرنا کما ورد فی کتب متعددة الاول قال العالم العلامة والحبر الفهامة المولینا علی القاری رحمة الله الباری فی کتابه نزهة الخاطر الفاتر منها ما روی عن السید الکبیر القطب الشهیر سیدی احمد الرفاعی رضی الله عنه انه قال الشیخ السید عبد القادر بحر الشریعة عن یمینه وبحر الحقیقة عن یساره ومن ایهما شاء اغترف السید عبد القادر لا ثانی له فی عصرنا رضی الله عنه انتهی الثانی قال العالم الشیخ محمد یحیی التادفی الحنبلی رحمة الله علیه فی کتابه قلائد الجواهر قال الشیخ عبد الله البطائحی انحدرت الی ام عبیدة فی حیاته سیدی الشیخ محی الدین عبد القادر رضی الله عنه واقمت برواق الشیخ احمد رضی الله عنه ایاما فقال لی الشیخ احمد اذکر لی شیئا من مناقب الشیخ السید عبد القادر وصفاته فذکرت منها شیئا فجاء رجل فی اثناء حدیثی وقال لی مه لا تذکر عندنا مناقب غیر هذا واشار الی الشیخ احمد رضی الله عنه فنظر الیه الشیخ احمد مغضبا فوقع الرجل میتا ثم قال ومن یبلغ مبلغ الشیخ السید عبد القادر ذلک رجل بحر الشریعة عن یمینه وبحر الحقیقة عن یساره من ایهما شاء اغترف السید الشیخ عبد القادر لا ثانی له فی وقتنا هذا انتهی الثالث قال العالم الشیخ احمد بن محمد الوتری الرفاعی الشافعی البغدادی رحمة الله علیه فی کتابه روضة الناظرین وقد سئل السید احمد الرفاعی رضی الله عنه مرة عن الشیخ عبد القادر رضی الله عنه فقال هو رجل بحر شریعة عن یمینه وبحر الحقیقة عن یساره ومن ایهما شاء اغترف هو فی حاله وادلاله لا ثانی له فی عصرنا انتهی الرابع قال العالم الشیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف اللخمی الشطنوفی الشافعی رحمهما الله تعالی فی کتابه بهجة الاسرار ومعدن الانوار اخبرنا ابو القاسم محمد بن عبادة الانصاری الحلبی قال سمعت الشیخ العارف ابا اسحق ابراهیم بن محمود البعلبکی المقری قال سمعت شیخنا الامام ابا عبد الله محمد البطائحی قال انحدرت فی حیاة سیدی الشیخ محی الدین السید عبد القادر رضی الله عنه الی ام عبیدة واقمت برواق الشیخ احمد رضی الله عنه ایاما فقال لی الشیخ احمد یوما اذکر لی شیئا من مناقب الشیخ السید عبد القادر وصفاته فذکرت له شیئا منها فجاء رجل فی اثناء حدیثی فقال لی مه لا تذکر

عندنا مناقب غیر مناقب ھذا واشار الی الشیخ احمد فنظر الیہ الشیخ احمد مغضبا فوقع الرجل
من بین یدیہ میتا ثم قال ومن یستطع وصف مناقب الشیخ السید عبد القادر ومن یبلغ مبلغ
الشیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ ذلک رجل بحر شریعۃ عن یمینہ وبحر الحقیقۃ عن یسارہ
من ایھما شاء اغترف الشیخ السید عبد القادر لا ثانی لہ عصرنا انتہیٰ الخامس قال الامام
عفیف الدین عبد اللہ الیافعی الشافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فی کتابہ خلاصۃ المفاخر وھی بالفارسیۃ
حکایت صد ونود وہشتم نقل است از شیخ سیدی احمد بن ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہما کہ گفت شیخ محی الدین
سید عبد القادر بحر شریعت در یمین اوست وبحر حقیقت در یسار او از ہر کدام کہ میخواہد اغتراف میکند انتہیٰ
السادس قال العالم العلامۃ المولینا محمد غوث فی کتابہ انہار المفاخر مروی است از شیخ ابی اسحاق ابراہیم
بن محمود بعلبکی رحمۃ اللہ علیہ کہ شنیدم شیخ ابا محمد عبد اللہ بطایحی را رحمۃ اللہ علیہ میگفت کہ فرود آمدم در ہنگام
حیات شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ دوام عبیدہ واقامت کردم چند روز در رواق شیخ احمد
رفاعی قدس سرہ روزی بمن گفت چیزی از مناقب شیخ سید عبد القادر وصفات او اندکی ازان بیان کردم
در اثنای سخن مردی آمد وگفت خاموش باش ومگو نزد ما مناقب غیر این واشارت بہ شیخ احمد نمود شیخ
احمد بسوی آواز نگاہ غضب ید فی الحال آن مرد مردہ افتاد پس شیخ احمد رحمہ اللہ علیہ گفت کدام کس
طاقت دارد کہ وصف مناقب شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ نماید وکدام کس خواہد رسید مرتبہ او را او
مردی است کہ دریای شریعت از جانب راست ودریای حقیقت از جانب چپ اوست از ہر دریا
کہ میخواہد غرفہ میگیرد نخواہد آمد مثل او درین وقت انتہیٰ السابع قال سلطان دارا شکوہ فی کتابہ سفینۃ
الاولیا روزی در مجلس شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مناقب حضرت شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ مذکور
می شد شخصی بطریق انکار گفت بس کن سیدی بجانب او بہ غضب نگاہ کردند فی الحال آن شخص بمرد
سیدی رحمۃ اللہ علیہ فرمودند کہ کیرا قدرت است کہ مناقب شیخ سید عبد القادر تواند بیان کرد بمرتبہ او
تواند رسید او شخصی است کہ دریک جانب او دریای شریعت ودریک جانب او دریای حقیقت است
ہر جا کہ میخواہد غوطہ میزند انتہیٰ ترجمہ کتب عربی وفارسی کا یہ ہے کہ روایت ہے شیخ ابی اسحٰق ابراہیم بن محمود

بعلبکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ سُنا مین نے شیخ ابا محمد عبد اللہ بطائحی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کہتا تھا کہ مین آگے
اُترا بیچ حیات ہونے شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہ اُم عبیدہ مین و اقامت کیا
مین نے کتنے روز شیخ احمد رفاعی قدس اللہ سرہ العزیز نے مجھ کو کہا کچھ کہو مناقب شیخ سید عبد القادر
کے کچھ وصف سے بیان کرتا تھا ایک مرد آیا درمیان بیان کرنے کے کہا مجھکو خاموش رہو یعنی
کلام بند کرنا اور مت کہنا ہمارے نزدیک سوا شیخ احمد رفاعی کے جناب شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ
نے اوس مرد کی طرف بنظر غضب سے دیکھا فی الحال وہ مرد مرکر گر پڑا اشایان یہ ہے کہ حضرت شیخ سید
احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کون آدمی ہے کہ وصف مناقب شیخ سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے بتلاوے
اور پہنچ سکیگا اوسکے مرتبہ کو اور سید عبد القادرؓ وہ مرد ہے کہ دریا شریعت کا جانب راست ہے اور
دریا حقیقت کا جانب چپ ہے اور جس دریا سے چاہے چلے بھرے اور شیخ سید عبد القادر لا ثانی ہو ہماری
عصر میں یعنے زمانہ مین **الفصل الثانی** فی بیان وصیۃ السید الکبیر السید احمد الرفاعی رضی
اللہ عنہ بزیارۃ الغوث لمن دخل بغداد رضی اللہ عنہ کما ورد فی کتب متعددۃ الاول قال العالم
الشیخ محمد بن الشیخ یحیی التادفی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ قلائد الجواھر قال وسمعتہ یوصی
اولاد اختہ وھم الشیخ ابراھیم الاعزب واخوتہ ابو الفرج عبد الرحمن ونجم الدین احمد واولاد الشیخ علی الرفاعی
واکابر اصحابہ وقد جاء رجل یودعہ مسافرا الی بغداد وقال اذا دخلتم بغداد فلا تقدموا
علی زیارۃ الشیخ السید عبد القادر شیئا انکان حیا ولا علی قبرہ انکان میتا فقد اخذ لہ العھد
یما رجل من اصحاب الاحوال ودخل بغداد ولم یزرہ سلب حالہ ولو قبل الموت والشیخ السید
عبد القادر حسرۃ علی من لم یرہ نفع اللہ بھما ونقل جامع کتاب الروض الابرار ومحاسن الاخیار
ان الناقل لھذا الحکایۃ الشیخ عبد اللہ یونینی انتھی الثانی قال العالم الشیخ ابی الحسن علی بن یوسف بن
جریر اللخمی الشطنوفی الشافعی رحمۃ اللہ علیہما فی کتابہ بھجۃ الاسرار ومعدن الانوار قال و
سمعتہ یوما یوصی اولاد اخیہ واکابر اصحابہ وقد جاء رجل یودعہ مسافرا الی بغداد قال لہ
اذا دخلت الی بغداد فلا تقدم علی زیارۃ الشیخ السید عبد القادر شیئا انکان حیا ولا علی زیارۃ

قبرہ ان کان میتا فقد اخذ له العهد ایما رجل من اصحاب الاحوال دخل بغداد ولم یزرہ سلب حاله ولو قبیل الموت ثم قال والشیخ محی الدین السید عبد القادر حسرة علی من لم یرہ رضی الله عنه وارضاه رحمة الله علیه انتهی الثالث قال العالم الشیخ عبد القادر بن محی الدین الاربلی رحمهما الله تعالی فی کتابه تفریح الخاطر المنقبة الرابعة والستون فی وصیة السید الکبیر السید احمد الرفاعی بزیارة الغوث رضی الله عنهما کان یوصی اولاد اخیه واکابر اصحابه بزیارته وقد جاء رجل یودعه مسافرا الی بغداد فقال اذا دخلتم بغداد فلا تقدموا علی زیارة الشیخ السید عبد القادر رضی الله عنه شیئا ان کان حیا ولا علی زیارة قبرہ ان کان میتا فقد اخذ له العهد ایما رجل من اصحاب الاحوال دخل بغداد فلم یزرہ سلب حاله ولو قبل الموت قال والشیخ السید عبد القادر رضی الله عنه حسرة علی من لم یرہ رضی الله عنهما انتهی الرابع قال العالم المحدث الشیخ عبد الحق الدهلوی رحمة الله علیه فی کتابه زبدة الاسرار ولقد کان الشیخ احمد یوصی اولاد اخته واکابر اصحابه وجاء رجل یودعه مسافرا الی بغداد فقال اذا دخلتم بغداد فلا تقدموا علی زیارة الشیخ السید عبد القادر شیئا ان کان حیا ولا علی قبرہ ان کان میتا والشیخ احمد رحمة الله علیه من کبار الاولیاء رضی الله عنهم انتهی الخامس قال الامام عبد الله الیافعی فی کتابه تکملة خلاصة المفاخر وفرمود چون شما در بغداد درآئید پس مقدم مدارید بر زیارت او زیارت هیچکس از زنده وفرمود که با او عهد شده است بر صاحب حالی را که در بغداد درآید و زیارت او نکند سلب حاله انتهی السادس قال العالم المحقق المدقق محمد غوث المخاطب بشرف الملک رحمة الله تعالی و نیز راوی مذکور میگوید که شیخ احمد رحمة الله علیه وصیت میکرد به خواهرزادگان واکابر اصحاب خود و مردیکه برای سفر بغداد رخصت چون به بغداد درآئید پس مقدم نکنید بر زیارت شیخ سید عبد القادر رضی الله عنه هیچ چیزی را اگر وی زنده باشد و نه بر زیارت قبر او که مرده باشد بتحقیق برای او عهد گرفته شده است که هرکه از اصحاب احوال داخل بغداد شود و زیارت او نکند سلب کرده شود حال او واگرچه پیش از موت او باشد و شیخ سید عبد القادر رضی الله عنه حسرت است در حق کسی که زیارت او نکند بدانکه شیخ سید احمد بن ابی الحسن رفاعی بکسر را و کسر عین مهمله رحمة الله علیه از اعیان

مشایخ عراق و اجلاء عارفان و عظماء محققان و صدور مقربان است صاحب مقامات علیہ و جلالات عظیمہ و کرامات جلیہ و احوال سنیہ و افعال خارقہ و انفاس صادقہ و فتح مونق و کشف مشرق و قلب انور و سر اطہر و قدر اکبر و معارف باہرہ و حقایق زاہرہ و لطایف شریفہ و ہمم منیفہ و اشارات سامیہ بود و مکان مکین در قرب و مجلس مصدر از حضرت قدس و طور رفیع در تمکین و قدم راسخ در تصریف نافذ و باع طویل در احکام ولایت داشت انتہیٰ السابع قال العالم بدر الدولۃ قاضی محمد صبغۃ اللہ فی کتابہ نتائج الجواھر وھی بالمعنویۃ روایت ہے شیخ ابی محمد بطایحی سے کہی کہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہمشیر زادوں کو اور اپنے بڑے مریدا و رجو شخص بغداد کے سفر کی رخصت چاہتے تو وصیت کرتے جب تم بغداد کو پہونچینگے اگر شیخ سید عبد القادر زندہ ہو تو حضرت کی ملاقات پر کسی کو مقدم مت کرو اگر حضرت کی وفات ہوئی ہے تو اونھوں کی قبر کی زیارت پر کسی کے قبر کی زیارت نہ کریں اور اصحاب احوال سے عہد لیا گیا ہے کہ جب بغداد کو جاویں اور حضرت کی زیارت نہ کریں اگرچہ حضرت کی وفات ہوئی ہووے تو اوسکا حال سلب کیا جاویگا اور شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ کی جسنے زیارت نہ کی تو اوسکو حسرت ہے انتہیٰ

الفصل الثانی

قال العالم الشیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوفی الشافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فی کتابہ بھجۃ الاسرار اخبرنا الشریف ابو عبد اللہ ابن شیخ ابی العباس الخضر بن عبد اللہ الحسینی الموصلی رحمۃ اللہ علیہ قال سمعت ابی یقول کنت یوما جالسا بین یدی سیدی الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ فخطر فی قلبی زیارۃ الشیخ احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ فقال لی اتحب زیارۃ الشیخ احمد قلت نعم فاطرق یسیرا ثم قال لی یا خضر ھا الشیخ احمد فاذا انا بجانبہ فرأیت شیخا مہابا فقمت الیہ وسلمت علیہ فقال لی یا خضر و من یری مثل الشیخ عبد القادر سید الاولیاء یتمنی رؤیۃ مثلی وھل انا الا من رعیتہ ثم غاب وبعد وفات الشیخ انحدرت من بغداد الی ام عبیدہ لازورہ فلما قدمت علیہ اذا ھو الشیخ الذی رأیتہ فی جانب الشیخ سیدی عبد القادر رضی اللہ عنہ فی ذالک الوقت لم تجد دوریتہ عندی زیادۃ معرفۃ بہ فقال لی یا خضر الم تکفک الاولی انتھی الثانی قال العالم الشیخ عبد الحق الدھلوی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ زبدۃ الاسرار

ومنہا ما نقل عن الشریف ابی عبد اللہ بن الشیخ ابی العباس الخضر الحسینی الموصلی قال سمعت ابی یقول کنت جالسا بین یدی سیدی الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ فخطر فی نفسی زیارۃ الشیخ احمد بن الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ فقال الشیخ اتحب زیارۃ الشیخ احمد قلت نعم فاطرق یسیرا ثم قال لی یا خضر ما تری الشیخ احمد فاذا الی جانبہ شیخ مہاب فقمت الیہ و سلمت علیہ فقال لی یا خضر ومن یری مثل الشیخ عبد القادر سید الاولیاء تیمنی رویۃ مثلی وھل انا من رعیتہ ثم غاب انتہی الثالث قال الشیخ محمد بن یحیی التاذفی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ قلائد الجواہر قال الشیخ محمد بن الخضر سمعت ابی یقول کنت یوما جالسا بین یدی سیدنا الشیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ فخطر فی نفسی زیارۃ الشیخ احمد الرفاعی فقال یا خضر تری الشیخ احمد فنظرت الی جانبہ شیخ مہیب وسلمت علیہ فقال لی یا خضر من یری الشیخ عبد القادر سید اولیاء اللہ تعالی یتمنی رویۃ مثلی وھل انا الا من رعیتہ ثم غاب فبعد وفاۃ الشیخ رحمۃ اللہ علیہ انحدرت الی ام عبیدۃ لازورہ فلما قدمت علیہ اذ ھو الشیخ الذی رأیتہ الی جانب الشیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ فی بغداد فقال لی یا خضر الم تکفک الاولی انتہی الرابع قال العالم فی کتابہ بہار الفاخرہ محمد غوث المخاطب بشرف الملک رحمۃ اللہ علیہ مرویست از شریف ابی عبد اللہ محمد بن شیخ ابی العباس الخضر بن عبد اللہ الحسینی الموصلی رحمۃ اللہ علیہ کہ شنیدم از پدر خود گفت نشستہ بودم روزی پیش شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ پس در دل من ارادہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ فرمود آیا میخواہی زیارت شیخ احمد گفتم آری پس اندکی سر فرو کرد و گفت ای خضر ببین شیخ شیخ احمد را ناگاہ بہ بازوی وی رضی اللہ عنہ پیری باہیبت و وقار ایستادہ است برای تعظیم او برخاستم و بروی سلام کردم و گفت ای خضر کسیکہ بیند مثل شیخ عبد القادر کہ سید الاولیا رست باز تمنا کند دیدن مثل من و نیستم من مگر رعیت او پس غائب شد بعد از وفات شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ برای زیارت شیخ احمد رفتم بہ ام عبیدہ در آمدم چون نزد او رفتم ہمان پیر است کہ بہ بازوی شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ دیدہ بودم پس از رویت بغداد و معرفتش نزد من زیادہ شد وی گفت ای خضر آیا کفایت

تاروبیت اولی انتہی ترجمہ کتاب بہجۃ الاسرار دوم زبدۃ الاسرار سیوم قلائد الجواہر چہارم انہار المفاخر یہ چہار کتابون کا ترجمہ یہ ہے روایت کرتا ہے شریف ابوعبد اللہ ابن شیخ ابی العباس الخضر بن عبد اللہ حسینی موصلی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ مین ایک روز در مجلس حضرت شیخ سید عبد القادر کی روبرو بیٹھا تھا اور خطرہ ہمارے دل مین گذرا کہ زیارت شیخ احمد رفاعی کی کرون حضرت شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ کہا کہ توچاہتا ہے زیارت شیخ احمد ہم نے کہا ہان پس حضرت سر جھکائے اندک ساعت کے بعد فرمایا یا خضر یہ ہے شیخ احمد پس دیکھا مین نے شیخ احمد کو شیخ ہیبا بوڑھا ہیبت والا مین نے سلام کیا کہا مجھکو شیخ احمد نے یا خضر تو دیکھا ہے سید عبد القادر سردار اولیا کو پھر آرزو کرتا ہے دیکھنا میرا مگر مین رعیت ہون انکی پھر غائب ہوگئے پھر بعد وفات حضرت شیخ سید عبد القادر قدس سرہ ام عبیدہ کو مین گیا واسطے زیارت شیخ احمد کے پس زیارت کیا وہ شخص ہے جو دیکھا تھا حضرت شیخ سید عبد القادر کے پاس کہتا ہے مجھکو کہ تم کو زیارت اول کفایت نہ کیا مین نے کہا کہ نہی زیارت کرون انتہی

الفصل الرابع

قال العالم الشیخ محمد بن یحیی التادفی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ قلائد الجواہر وقال الشیخ عبد الرحمن بن ابی الحسن علی البطائحی الرفاعی قدمت بغداد وحضرت الشیخ محی الدین سید عبد القادر سلام اللہ علیہ فرأیت من حالہ وفراغ قلبہ وخلو سرہ ما اذھلنی فلما رجعت الی ام عبیدۃ اخبرت خالی الشیخ احمد عنہ بذلک فقال یا ولدی من یطیق مثل قوۃ الشیخ سید عبد القادر وما وصل الیہ انتھی الثانی قال العالم الشیخ احمد بن الشیخ محمد الوتری الشافعی الرفاعی رحمہ اللہ فی کتابہ روضۃ الناظرین قال الواسطی قال شیخنا الامام عز الدین احمد الفاروقی کان السید ابراھیم الاعزب الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ یقول الشیخ السید عبد القادر الجیلی احد الصدیقین المقربین الی اللہ الیوم وروی لنا ایضا ان السید مہد الدولۃ عبد الرحیم ابن السید الجلیل سیف الدین عثمان الرفاعی رحمہما اللہ تعالیٰ کان یقول دخلت بغداد ورأیت الشیخ سید عبد القادر الجیلانی من خلو سرہ وطہارۃ قلبہ وسلامۃ خاطرہ ما طربت لہ فلما رجعت من سفری ذکرت لہ لخالی السید الکبیر احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ فقال الشیخ السید عبد القادر عبد صادق فی حالہ

ومبارك فی شانه عامل بعلمه وله نصیب من التوفیق انتهی الثالث قال العالم الشیخ عبد الحق
الدهلوی رحمة الله علیه فی کتابه زبدة الاسرار ونقل عن الشیخ ابی الفرج عبد الرحیم
یقول قدمت بغداد وحضرت سیدی الشیخ عبد القادر رضی الله عنه فرأیت من حاله
وفراغ قلبه وخلو سره ما اذهلنی فلما رجعت الی ام عبیدة اخبرت خال الشیخ احمد بذلك
فقال یا ولدی ومن یطیق مثل قوة الشیخ السید عبد القادر وما هو علیه وما وصل الیه
انتهی الرابع قال العالم الشیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشافعی
رحمة الله علیه فی کتابه بهجة الاسرار قال اخبرنا الشیخ العارف نجم الدین ابو العباس احمد
ابن الشیخ القدوة ابی الحسن علی البطائحی الرفاعی قال سمعت عمی الشیخ ابا الفرج عبد الرحیم
یقول قدمت بغداد وحضرت الشیخ محی الدین سید عبد القادر رضی الله عنه فرأیت من
حاله وفراغ قلبه وخلو سره ما اذهلنی فلما رجعت الی ام عبیدة اخبرت خالی الشیخ احمد
رضی الله عنه بذلك فقال یا ولدی ومن یطیق مثل قوة الشیخ سید عبد القادر وما هو علیه
وما وصل الیه انتهی الخامس قال العالم محمد غوث رحمه الله فی کتابه انهار المفاخر مروی از شیخ
نجم الدین ابی العباس احمد بن شیخ ابی الحسن علی بطایحی رفاعی رحمة الله علیهم که شنیدم از عم خود شیخ ابا الفرج
عبد الرحیم را میگفت که آمدم ببغداد وحاضر شدم نزد شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی الله عنه پس
دیدم از حال او وفراغ قلب او وخلو سر او وآنچه مرا حیران کرد پس باز آمدم بسوی ام عبیده و
خبر دادم از آن حال شیخ احمد رفاعی رحمة الله علیه را وی گفت ای پسر کدام کس قوت دارد مثل قوت
شیخ سید عبد القادر رضی الله عنه وراهی که وی بر آنست وبدان رسیده است انتهی ترجمه قلائد الجواہر
دوم روضۃ الناظرین سیوم زبدۃ الاسرار چہارم بہجۃ الاسرار پنجم انہار المفاخر کا ترجمہ یہ ہے روایت
ہے شیخ عارف نجم الدین ابو العباس احمد بن ابی الحسن بطایحی قدس سرہ سے کہ جب میں خدمت حضرت
شیخ محی الدین سید عبد القادر کے خدمت میں حاضر ہوا پس دیکھا میں حال انکا و فراغ دل انکا و صفوت انکا
پھر میں نے مراجعت کی ام عبیدہ کو آیا خبر دی شیخ احمد قدس سرہ کو پس کہا خالو شیخ احمد رحمہ اللہ نے اے

بیٹی میری کون طاقت رکھتا ہے مانند طاقت شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ کے

الفصل الخامس فی بیان نسبہ الشریف الشیخ السید احمد الکبیر الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ مع اختلاف عبارات الکتب التی منہا الاول قال العلامۃ شمس الدین بن ناصر الدین الدمشقی فی تاریخہ سیدی الشیخ الکبیر محی الدین ابو العباس احمد بن الرفاعی لم یبلغنا انہ اعقب کما جزم بہ غیر واحد من الائمۃ المرضیۃ ولم اعلم لہ نسبا صحیحا الی علی ابن ابی طالب ولا الی احد من ذریتہ الاطیاب وانما الذی وصل الینا وساقہ الحفاظ وصح لدینا انہ ابو العباس محمد بن ابی الحسن علی بن احمد بن یحیی بن حازم بن علی بن رفاعۃ المغربی الاصل العراقی البطائحی الرفاعی نسبۃ الی جدہ الاعلی رفاعۃ قدم والدہ ابو الحسن من بلاد المغرب فسکن البطائح من العراق فی قریۃ یقال لہا ام عبیدۃ ثم تزوج باخت منصور الزاہد فعلقت منہ بالشیخ احمد ومات ابوہ وامہ حامل بہ فولدتہ فی المحرم سنۃ خمسمائۃ فکفلہ خالہ واخذ عنہ وعن ابی الحسن علی القاری الزاہد وغیرہما وصار قدوۃ العارفین واحد الاولیاء المشہورین توفی بعد وفات الشیخ عبد القادر نحو سبع عشرۃ سنۃ فی یوم الخمیس من جمادی الاولیٰ سنۃ ۵۷۸ھ بالبطائح انتہی الثانی قال العلامۃ المشہور امام العینی فی الجزو السابع من تاریخہ عقد الجمان فی تاریخ اہل الزمان عند ذکر حوادث سنۃ (۵۷۸ھ) ابو العباس بن ابی الحسن علی بن ابی العباس احمد المعروف بابن الرفاعی کان رجلا صالحا شافعی المذہب وکان متواضعا سلیم الصدر مجردا من الدنیا وما ادخر شیئا قط و ذکر عبارۃ ابن خلکان انہ اصلہ من العرب وانہ لم یعقب وانما العقب لاخیہ وذکر لاصحابہ احوال الی ان قال ویقیمون فی محلہم سماعا ورقصا بانواع الشہیق والزفیر والبعبعۃ من تزبید افواہہم ونحو ذلک من الاشیاء المنکرۃ المبتدعۃ والرفاعی بکسر الراء نسبۃ الی رفاعۃ اما احمد واما رفاعۃ اسم قبیلۃ فانہم ملخصا انتہی الثالث قال العلامۃ القاضی احمد الشہیر بابن خلکان علیہ رحمۃ اللہ تعالی المنان فی تاریخہ وفیات الاعیان وابناء الزمان فی الجزء الاول صفحۃ ابو العباس احمد بن ابی الحسن علی بن ابی العباس احمد المعروف بابن الرفاعی

كان رجلا صالحا فقيها شافعي المذهب اصله من العرب وسكن فى البطايح بقرية يقال لها ام عبيدة وانضم اليه خلق عظيم من الفقراء واحسنوا الاعتقاد فيه وتبعوه والطائفة المعروفة بالرفاعية والبطائحية من الفقراء منسوبة اليه ولاتباعه احوال عجيبة انتهى الرابع قال العالم العارف القطب الرباني سيدى عبدالوهاب الشعرانى رحمة الله عليه فى الطبقات الكبرى المسماه بلواقح الانوار فى طبقات الاخيار فى الجزء الاول صفحه ۱۳۰ ومنهم الشيخ احمد بن ابى الحسين الرفاعى رضى الله عنه منسوب الى بنى رفاعة قبيلة من العرب وسكن بام عبيدة بارض البطائح الى ان مات رحمه الله تعالى الخ انتهى الخامس قال العالم الشيخ السيد الشبلنجى الشافعى المدعو بمومن من اصحاب عينى رحمه الله تعالى فى كتابه نور الابصار فى مناقب ال بيت النبى المختار قال الاول من السادة الاشراف الاربعة سيدي احمد بن الرفاعى قال المناوى فى الطبقة السادسة من طبقاته سيدى احمد بن يحي بن حازم بن رفاعة احد الاولياء المشايخ المشاهير ابو العباس الرفاعى المغربى شريف نبى روض شرفه وهمى على العالم غيث سلفه سيدا جليلا صوفيا عظيما نبيلا قدم ابوه العراق وسكن بام عبيدة بارض البطائح وولد له صاحب الترجمه سنة خمسمأية ونشأ بها وتفقه على مذهب الامام الشافعى رحمة الله عليه الخ انتهى السادس قال العالم الشيخ محمد بن يحي التادفى الحنبلى رحمه الله تعالى فى كتاب قلائد الجواهر قال الشيخ شمس الدين سبط ابن الجوزى فى تاريخه هو احمد بن على بن احمد ابو العباس الرفاعى شيخ البطائحيين كان يسكن ام عبيدة وكان له كرامات ومقامات اصحابه يركبون السباع ويلعبون بالحيات و يتسلق احدهم فى اطول النخل ثم يلقى نفسه الى الارض ولا يتألم ويجتمع عنده فى كل سنة فى الموسم خلق عظيم وقال قاضى القضاة مجير الدين عبدالرحمن العمرى العليمى الحنبلى المقدسى فى تاريخه المعتبر فى ابناء من عبر ابو العباس احمد بن ابى الحسن على بن ابى العباس احمد المعروف بابن الرفاعى كان شافعى المذهب واصله من العرب وسكن بالبطائح بقرية يقال لها ام عبيده قوله شعر منه ؂ اذا جن ليلى قلبي لذكركم ؂ انوح كما ناح الحمام المطوق - الى اخره وهو

مشهور توفی یوم الخمیس ثانی عشر جمادی الاولی سنة ثمانین وخمسمأته بام عبیدة و هو فی عوش تسعین والرفاعی بکسر الراء نسبة الی رجل بالمغرب یقال له رفاعة وام عبیدة والبطایح قری مشهورة بین واسطة والبصرة ولها شهرة بالعراق وقال العلامة شمس الدین بن ناصر الدین الدمشقی سیدی الشیخ الکبیر محی الدین سلطان العارفین ابو العباس احمد بن الرفاعی لم یبلغنا انه اعقب کما جزم به غیر واحد من الائمة المرضیه ولم اعلم له نسبا صحیحا الی علی بن ابی طالب ولا الی احد من ذریته الاطایب وانما الذی وصل الینا وساقه الحفاظ وصح لدینا انه ابو العباس احمد ابن الشیخ ابی الحسن علی بن احمد بن یحیی بن حازم بن علی بن رفاعة المغربی الاصل العراقی البطایحی الرفاعی نسبة الی جده الاعلی رفاعة قدم والده ابو الحسن رحمة الله علیه من بلاد المغرب فسکن البطایح من العراق فی قریة یقال لها ام عبیده ثم تزوج باخت الشیخ منصور الزاهد فعلقت منه بالشیخ احمد ومات ابوه وامه حامل به فولدته فی المحرم سنة خمسمائة فکفله خاله واخذ عنه وعن ابی الحسن علی القاری الزاهد وغیرهما وصار قدوة العارفین واحد الاولیاء المشهورین توفی بعد وفات الشیخ السید عبد القادر بنحو سبع عشرة سنة فی یوم الخمیس من جمادی الاولی سنة ثمان وسبعین وخمسمأته بالبطایح انتهی کلامه ملخصا رحمة الله علیه وقال جدی لابی قاضی القضاة جمال الدین ابو المحاسن یوسف التادفی الربعی الانصادی الحنبلی تغمدالله برحمته فی مؤلف له ومن خطه نقلت هو احمد بن علی بن احمد یحیی بن حازم بن علی بن ثابت بن علی بن الحسین الاصغر بن المهدی بن محمد بن القاسم بن موسی بن عبد الرحیم بن صالح بن یحیی بن محمد بن ابراهیم بن موسی الکاظم بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام علی زین العابدین بن الامام حسین بن الامام علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم انتهی السابع قال لنا الشیخ احمد بن محمد الوتری قدس سره فی کتابه روضة الناظرین هو سیدنا سید احمد ابن السید علی ابی الحسن دفین راس القریة ببغداد ابن السید یحیی نقیب البصرة المهاجر من المغرب ابن السید ثابت ابن

السید الحازم وهو علی ابو الفوارس ابن السید احمد ابن السید علی ابن السید الحسن رفاعة الهاشمی المکی نزیل بادیة اشبیلیة بالمغرب ابن السید مهدی ابن السید ابی القاسم محمد ابن السید الحسن ابی موسی رئیس بغداد نزیل مکة ابن السید الحسن الرضی بن احمد الاکبر الصالح ابن السید موسی الثانی ویقال له ابو سبحة وابو یحیی ابن السید ابراهیم المرتضی ابن الامام موسی الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین علی الاصغر ابن الامام الحسین الشهید کربلا ابن الامام امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه وعنهم اجمعین انتهی الثامن قال العالم المولینا عبد الرحمن الجامی قدس سره السامی فی کتابه نفحات الانس وهی بالفارسیة سیدی احمد بن ابی الحسن الرفاعی قدس الله روحه ذو المقامات العلیة والاحوال السنیة خرق الله سبحانه علی یدیه العوائد قلب له الاعیان واظهر العجائب ولکن اصحابه بهم فیهم الجید والردی یدخل بعضهم النیران ویلعب بالحیات وهذا ما عرفه الشیخ ولا صلحاء اصحابه نعوذ بالله من الشیطان وی از اولاد بزرگوار امام موسی کاظم است رضی الله عنه ونسبت خرقه وی به پنج واسطه بشبلی میرسد ساکن ام عبیده بود از بطایح انتهی التاسع قال فی الوقایع خلفاء العباسیة سیدی احمد بن ابی الحسن الرفاعی کر از اولاد امام عالیمقام موسی الکاظم رضی الله عنه بود بریاض جنان انتقال نمود وجمال حال آنجناب بکمالات صوری ومعنوی آرایش داشت ودر کتب سلف وخلف از وی کرامات وخوارق عادت بسیار منقول است انتهی العاشر قال سلطان دارا شکوه فی کتاب سفینة الاولیا حضرت شیخ سیدی احمد ابن ابو الحسن الرفاعی قدس سره از اولاد امجاد حضرت امام موسی کاظم رضی الله عنه ونسبت خرقه ایشان به پنج واسطه بحضرت شیخ شبلی قدس سره میرسد حضرت غوث الثقلین رضی الله عنه را دیده اند ودر ام عبیده سکونت داشتند صاحب کشف وکرامات ومقامات علیه بسیار بزرگ وشافعی مذهب بودند انتهی الحادی عشر قال المحقق المدقق محمد غوث المخاطب بشرف الملک رحمه الله تعالی فی کتاب بهار المفاخر فی مناقب شیخ سید عبد القادر رضی الله عنه ام عبیده بروزن سفینه قریه است نزدیک واسط وقبر سید احمد رفاعی در آن است

کذا فی القاموس انتہی ترجمہ کتب عربی فارسی کا اول کہا سید مومن شبلنجی نے اپنی کتاب نور الابصار مین دوم شیخ محمد بن یحیی التادفی نے اپنی کتاب قلائد الجواہر مین سیوم کہا شیخ احمد بن محمد وتری الشافعی نے اپنی کتاب روضۃ الناظرین مین چہارم کہا مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب نفحات الانس مین پنجم کہا سلطان دارا شکوہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیا مین ششم کہا کتاب وقایع خلفاء عباسیہ مین ہفتم کہا عالم محقق مدقق محمد غوث المخاطب شرف الملک نے اپنی کتاب اظہار المفاخر مین کہ جناب قطب زمان شیخ سید احمد رفاعی رضی اللہ عنہ سادات موسوی مین یعنی اولاد حضرت امام موسی کاظم رضی اللہ عنہ کے ہین اور ولی کامل عالم فاضل صاحب کرامات وخوارق عادات وصاحب حالات سنیہ ہین ان کی بزرگی مین کچھ شک شبہ نہین ہے اور فقیہ وشافعی مذہب ہین فقط اوصاف انکی حد سے زیادہ ہین اور حضرت غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے اور خلیفہ ہے احوال کتب مین مندرج ہے جسکو دیکھنا منظور ہو تو ملاحظہ فرماوین تعصب نکرین فقط اور حضرات جمیع اولیاء اللہ کرام خدائی تعالی جلشانہ کے محبوب اور خاص بندے ہین جمیع اولیاء اللہ مانند ستارے کے ہین اور حضرت محبوب سبحانی قدس اللہ سرہ النورانی مانند ماہتاب کے ہین جو حضرت غوث رضی اللہ عنہ کو مصنف کتاب افتخار المتاخرین برہان المقتدین سید اکرم میر سید محمد شاہ عالم قدس سرہ فرماتے ہین منظوم فارسی ہین۔

بیت

صد چشم وام خواہم تا دیدن تو بنگرم من	این وام از کہ خواہم دین چشم خود کرامست

کاتب حروف از روی کمال عجز ونیاز در حضرت صاحب عالمیان این ابیات معروض میدارد

ابیات

مرسن مجمع خوبان بکسی ترا چہ نسبت	تو زیادہ تر زماہی دیگران کہ از ستارہ
بدو دیدہ کی توانم کہ رخ تو سیر بینم	دو ہزار دیدہ باید کہ ترا کنم نظارہ
بتہ جان کجا بروی کہ تو شاہ بی نشانی	ز تو جان کجا گریزد کہ تو معدن امانی
ہمین خوش ست جانم کہ سگ در تو باشم	چہ کنم چہ چارہ سازم اگر از درم برانی

بچہ نسبت کنم جان کہ شدہ است در تو حیران — بتو ہیچ کس نماند تو بہ ہیچ کس نمانی
بہ ثنای تو زبانم نہ رسید لال گشتم — پس ازین مگر بگویم بہ زبانی بی زبانی

در انہار المفاخر آوردہ کہ جناب قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رحمۃ اللہ علیہ در شان حضرت محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ مناجاتی منظومہ انشا کردہ مطلعش این ست

ابیات

قبلۂ اہل صفا حضرت غوث الثقلین — دستگیر ہمہ جا حضرت غوث الثقلین
یک نظر از تو بود در دو جہان بس مارا — نظری جانب ما حضرت غوث الثقلین
کارہای من سر گشتہ بسی بستہ شدہ — رحم کن بازکشا حضرت غوث الثقلین
خاکپای تو بود روشنی اہل نظر — دیدہ را بخش ضیا حضرت غوث الثقلین
بجنابت کہ توانائی نسکا نست دارو — بنما راہ خدا حضرت غوث الثقلین
دردمندم ہمہ اسباب شفا مفقود ست — کرم تست دوا حضرت غوث الثقلین
عالم تیرہ بغیر اہل نظر سخت ام — نیست در دہر وفا حضرت غوث الثقلین
بینوا خستہ دلم نیست کسی آنکہ دہد — خستہ را جز تو دوا حضرت غوث الثقلین
حضرت کعبۂ حاجات ہمہ خلق انست — حاجتم ساز روا حضرت غوث الثقلین
مردہ دل گشتم و نام تو محی الدین است — مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین
قطب مسکین بغلامی درت منسوب است — داغ فخرش فرما حضرت غوث الثقلین

انتہی و در کتاب کنز الانساب آوردہ است نسب پیر دستگیر خواجہ قطب الدین اوشی لقب بختیار کاکی قدس سرہ سادات موسوی اند و نسب علیاش این است خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی ارشد خلفای حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی قدس سرہ ابن خواجہ سید کمال الدین اوشی ابن سید محمد اوشی ابن سید احمد اوشی ابن سید حسام الدین ابن سید رشید الدین ابن سید رضی الدین ابن سید حسن معروف ابن سید محمد اسحاق ابن سید محمد جواد ابن سید قلی سجاد ابن سید جعفر ثانی ابن حضرت امام علی موسی رضا رضی اللہ عنہ

ابن

ابن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ ابن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ابن امام محمد باقر رضی اللہ عنہ ابن امام زین العابدین علی رضی اللہ عنہ ابن سید الشہدا امام حسین رضی اللہ عنہ ابن امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ وجہہ ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین انتہی لو تاریخ وفات حضرت خواجہ قطب الدین از خزانۃ الاصفیا تحریر میشود این ست صفحہ ۹۴ فیض بخش جہان بصدق و یقین قطب آفاق خواجہ

اسوۂ دہر و قدوۂ عالم	زبدۂ دودۂ بنی آدم	نقش بختیار کاکی دان	ہست او ولی دلستان
از بنی بخت چہار دہم	بود کان قطب شیخ نجم	روز ترحیل آن دوشنبہ دان	بیشک وی پیای ستودہ جان
عقل تاریخ نقل آن محمود	آب جنت بقطب دین فرمود	باز گو سال نقل آن نامی	روح اللہ روحہ اسامی
عمر پنجاہ و چار سالش بود	کان بن مان سوی عدن نقل نمود	مرقد پاک آن بدہلی دان	روز و شب فاتحہ بر و برخوان
سال نقلش بہ بحر دیگر نیز	بیشکی گفتہ شنو بہ تمیز	سال نقل آن ولی نیک تو	بود بدر دہر قطب الدین بگو

الفصل السابع عشر فی بیان استفاضۃ شاہ النقشبند السید محمد بن محمد البخاری من الغوث الاعظم فی الرؤیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما بروایات متعددۃ الاول قال العالم المحقق المدقق الشیخ عبد القادر بن محی الدین الاربلی رحمہ اللہ فی کتابہ تفریح الخاطر ذکر الشیخ العارف باللہ عبد اللہ البلخی فی کتاب خوارق الاحباب فی معرفۃ الاقطاب فی الباب الخامس والعشرین فی ذکر قطب العباد وغوث البلاد خواجہ بہاء الحق والحقیقۃ والدین السید محمد بن السید محمد النقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت عن لسان خواجگی سرمست وھو سمع عن المشایخ الکاملین المعمرین الساکنین فی بلدۃ بخارا وھم یکون ان الغوث الاعظم رضی اللہ عنہ وقف یوما مع جماعۃ علی سطح د توجہ الی طرف بخارا وشم رائحۃ الکرم وقال بعد وفاتی بمرور مأتہ وسبعۃ خمسین عاما یولد رجل قلندری محمدی المشرب المسمی بہاء الدین محمد النقشبندی و یفوز بنعمۃ خاصتی فصار کما قال ویروی ان شاہ النقشبندی لما اخذ العہد وتلقن عن شیخہ السید امیر کلال قدس سرہ وامرہ بالاشتغال باسم ذات الملک المتعال وما تمکن فی قلبہ نقش الاسم الاعظم وحصل الشاہ

منه انقباض ثم خرج الى الصحراء فرأى الخضر عليه السلام جائيا اليه فستقبل الشاه وسلم عليه فقال له الخضر يا بهاء الدين ان الاسم الاعظم وصلنى من الغوث الاعظم وانا انبئك فتوجه الى حضرته لتفوز عاجلا ببركته ففى الليلة المستقبلة رأى الشاه فى المنام حضرت غوث الانام وقد اشار باصبع يده اليمنى الى صدره ونقش الاسم الاعظم فى باطنه بسره لان الاصابع الخمس كنقش لفظة الله ورأى الشاه شيئا يرى فيه الله فلما اشتهر هذا الذكر فى دياره سألوه عنه فقال هذا فيض من الفيوضات وعناية من العنايات فى الليلة المباركة التى انعم علىّ بها الغوث الاعظم من تلك الليلة ارى ازدياد حالى عن الحال المقدم ووجه شهرة اسمه بالشاه النقشبندى نقش الغوث الاعظم فى قلبه وهو ينقش فى قلوب الطالبين من حزبه وسألوا منه ما تقول فى قول الغوث قدمى هذه على رقبة كل ولى الله فقال بهاء الدين على عينى وعلى بصيرتى رضوان الله تعالى عليهم اجمعين انتهى والثانى قال العالم العلامة الشيخ محمد صادق الشهابى السعدى القادرى فى كتابه المسمى بمناقب الغوثية المنقبة الحادية والثلاثون فى استفاضة حضرت خواجه بهاء الدين نقشبند قدس سره من جناب الغوث الاعظم فى رويا الشيخ العارف عبد الله البلخى در كتاب خوارق الاحباب فى معرفة الاقطاب در باب بيست وپنجم در ذكر قطب العباد غوث البلاد خواجه بهاء الدين محمد بن سيد محمد نقشبند بخارى قدس روحه آورده است كه از زبان فيض بيان خواجه خواجگى سرست شنيدم كه او از بعضى قلندران ديرينه سال وعارفان صاحب كمال كه در بلاد شريف بخارا اقامت داشتند نقل ميكردند كه روزى حضرت سلطان الاولياء وبرهان الاصفياء غوث الارض والسماء غوث الاعظم شيخ محى الدين سيد عبد القادر جيلانى رضى الله عنه در عصر خود با چندين مصاحبان بالاى بامى ايستاده بودند ناگاه نگاه مبارك فيض آگاه آن شاه بجانب بخارا افتاده شاه سمه كه هم عامه شده فرمودند كه بعد از من يكصد وپنجاه وهفت سال گذرد مردى قلندر محمدى المشرب بوجود آيد بهاء الدين محمد نقشبند نام واو نعمت تمامه فائض گردد وبهمان نوع بظهور آمد ولى تقريب اتصال مرخواجه نقشبند را از ان جناب فيض مآب چنان است كه چون خواجه

نقشبند نخستین بملازمت حضرت سید امیر کلال بدست انابت مشرف شدند حضرت امیر بعد از انتفاعهای بسیار و التفاتهای بیشمار به تنهائی اسم ذات تلقین فرمودند متوجه احوال ایشان شدند لیکن نقش اسم اعظم در ضمیر منیر ایشان نمیگرفت خواجه را تفرقه تمام روی نمود تمام پیش آمد سر بصحرا نهادند چه می بینند که حضرت خواجه خضر علیه السلام گفت مرا ای خواجه بهاء الدین مرا اسم اعظم از حضرت محبوب سبحانی شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی الله عنه رسیده است و ترا می آگاهانم که بحضرت ایشان توجه آرید روزگار رشتها ساخته شود پس در همان شب بجمال جهان آرای شیخ الاقطاب سید عبد القادر جیلانی رضی الله عنه مشرف گشتند حضرت ایشان انگشتان دست راست خود را که نقش اسم ذات در وی پیدا بود بطرف خواجه نمودند بمجرد دیدن آن نقش در ظاهر و باطن ایشان منقش شد که هر شبی در نظر ایشان مخصوص بهیئت تمام پیدا می شد حتی که در وقت بافتن کمخواب اسم ذات بجای گلهای وی منقوش میگردید چنانچه این ذکر دیدنبار شهرت گرفت بعضی از همرازان استفسار نمودند خواجه ما فرمودند که این قسم فیض از فیوضات و عنایات آن شب مبارک است که حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی الله عنه در حق ما ارزانی داشته و در هر آن احوال خود را از برکات توجه آنجناب افزون می یابم و وجه شهرت خواجه ما بنقشبند از آن وقت است که حضرت غوثیه محبوبیه رضی الله عنه نقش اسم اعظم ما در باطن ایشان بستند و خواجه ما در دلهای مخلوق خدا می بندند الحمد لله علی نعمائه خواجه در قصر عارفان بودند از حضرت شان در قول حضرت غوث رضی الله عنه که قدمی علی رقبة کل ولی الله است پرسیدم که بهر گردنهای جمیع اولیای زمان دارند فرمودند که از مضمون کلام حضرت شیخ الانام غوث محبوب سبحانی رضی الله عنه چنین می برآید که خواجه خواجگان خواجه یوسف همدانی قدس الله سره العزیز دران زمانه بودند قبول کرده گردن نهاده اند و بهاء الدین میگوید قدمه علی عینی و علی بصری و بصیرتی وفات حضرت خواجه نقشبند در سال هفتصد و نود و یک وقوع است انتهی از قصر عرفان ماده تاریخ است در تذکره مومن خان آورده که نسب شریف حضرت خواجه بهاء الدین سید محمد نقشبند قدس الله سره العزیز اینست حضرت خواجه بهاء الدین نقشبند قدس سره نام ایشان سید محمد است بن سید جلال الدین محمد بن سید برهان الدین محمد بن سید خان بن سید تقی

بن امیر زین العابدین محمد بن سید امیر قاسم بن سید امیر سلیمان بن سید امیر تاج الدین محمد بن امیر سید محمود رومی جامی بن سید امیر کلال بن سید امیر فخر الدین بن سید امیر نقی بن سید امیر خلوق بن سید امیر فخر الدین محمد بن سید محمد امیر کبیر بن سید علی اکبر بن حضرت امام حسن عسکری بن امام علی نقی بن امام علی تقی بن امام علی موسی رضا بن امام موسی کاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن امام زین العابدین علی بن سید الشهدا امام حسین بن امیر المومنین علی المرتضی رضی الله عنهم اجمعین و جناب حضرت بهاء الدین سید محمد شاه نقشبند قدس الله سره العزیز مرید حضرت سید امیر کلال اند و ایشان مرید حضرت خواجه بابای محمد سماسی اند و ایشان مرید حضرت خواجه محمود انجیر فغنوی اند و ایشان مرید حضرت خواجه عارف ریوگری اند و ایشان مرید حضرت خواجه جهان خواجه عبد الخالق غجدوانی اند و ایشان مرید حضرت خواجه یوسف همدانی اند و ایشان مرید حضرت خواجه ابو علی فارمدی اند و ایشان مرید خواجه شیخ ابو الحسن خرقانی اند و ایشان از حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی و ایشان از حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه و ایشان از جد مادری خود حضرت قاسم بن محمد بن امیر المومنین ابوبکر الصدیق رضی الله عنه از فقهای سبعه مدینه منوره و از اکابر تابعین اند و ایشان از حضرت سلمان فارس و ایشان با وجود صحابه بودن و شرف صحبت یافتن بیعت طریقت از حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر الصدیق رضی الله عنه کرده اند و جناب ایشان اذن و ارشاد از حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفته اند و خلیفه اول حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم اند تاریخ رحلت حضرت خواجه بهاء الدین سید محمد شاه نقشبند قدس سره العزیز این است که در مخبر الواصلین آورده است -

آنکه خلوت در انجمن دارد — سفر و سیر در وطن دارد
عالم علم اول ثانی — کاشف نکته خدادانی
نظرش از قدم شود جدا — دلش از هوش دشت یاد خدا
آن مرادی که در وقت باشد — و آن سیدی که مشکلات باشد
در شرب است خواجه صدیقی — سنگر ادست مرد ندیقی

پیشوای طریق صدق و یقین — نقشبند جهان بهاء الدین
رهنمای ره خدا طلبی — محو ذات نبی و آل نبی
مقتدای طریق صدق و صواب — خواجه نقشبند را دریاب
می برآید بعون و مشک — گر هزار و صد هست در ده و کیسه
یافت از زر و اعتقاد کمال — نعمت از سید امیر کلال

از بہر تحفت بود دوم | بانزدہی احتیاف سیوم
سال تاریخ نقل آن محمود | خبر بہ خاص اہل زین فرمود
شدہ تاریخ ان مکمل حق | آمدہ نقشبند وجہ سل حق
ور بخارا است مرقد و آلاش

شب و شنبہ آن ولی بجہان | شاہ بگرم آن سوئی جنان
سال نقلش کہ بزد کوہم سفت | عقل او بہشت و آمرا گفت
بازتاریخ آن خدا آگاہ | شدہ رحم قطب دین خلد آباد
چون سحاب است فیض تو بالا

الفصل الثامن عشر فی بیان اما الزیارۃ القبوریۃ الاستمداد جائز کما ورد فی کتب المعتبرات من الفقہاء الکاملین والمحدثین والمشائخین والمفسرین فانظر الی ونصف الاول قال العالم المحدث المدقق مولنا علی القاری رحمہ اللہ الباری فی ثلث کتب الاول فی شرح عین العلم والثانی فی المرقات شرح المشکوۃ والثالث فی المتقسط شرح المناسک والثانی قال العالم المحدث الشیخ عبد الحق الدھلوی فی شرح المشکوۃ وہی بالفارسیۃ والثانی فی شرح سفر السعادت والثالث فی تکمیل الایمان صار ستۃ کتابا والسابع فی شرح البرزخ والثامن فی موقات الوصول شرح نوادر الاصول والتاسع قال الامام عبد الرؤف المناوی فی کنوز الحقایق والعاشر فی شرح البرزخ للسیوطی والحادی عشر فی املح الاخبار والثانی عشر فی جواہر النفیس فی شرح درہم الکیس والثالث عشر فی زاد اللبیب والرابع عشر فی فتاوی فیوض شاہی والخامس عشر فی روضۃ الناظرین والسادس عشر فی زبدۃ الآثار والسابع عشر فی جذب القلوب والثامن عشر فی تفسیر فتح العزیز والتاسع عشر فی وقائع خلفاء العباسیہ والعشرین روض الریاحین لامام عبد اللہ والحادی والعشرون فی ہدیۃ الحرمین وجاء العبارات الکتب المذکورۃ فی ہذا الاستفتاء وہی بالفارسیۃ سوال علمای دین متین شرع مبین چہ میفرمایند کہ استمداد یعنی مدد خواستن از اولیاء الکرام رحمہم اللہ تعالی جائز است مثل جناب امام موسی کاظم رضی اللہ عنہ وجناب سراج الامۃ والدین امام اعظم ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ عنہ وحضرت شیخ معروف کرخی وحضرت غوث الاعظم شیخ سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی قدس سرہ النورانی رضی اللہ عنہ وازیمت اولیاء الکرام خواستن جائز است یا نہ بینوا توجروا رحمکم اللہ تعالی الجواب ہو الحق بالصواب آمدا یعنی مدد

خواہشتن از اولیاء اللہ ازامر تربیہ اللہ الی یوم القیام مثل امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ و امام اعظم ابوحنیفہ نعمان
رضی اللہ عنہ و شیخ معروف کرخی و شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہم اجمعین و جمیع اولیاء اللہ الکرام جائز و
صحیح و ثابت است از کتب معتبرات ثقات مذکورہ کہ اسامی آن فوق تحریر یافتہ است ثابت و متحقق
است عبارات کتب مرتب مسطور الذیل است بنظر انصاف ملاحظہ باید نمود و استحقاق را از دست نباید
داد و عمل باید کرد الاول فی جوہر النفیس شرح در رحم الکیس واما الزیارۃ بنیۃ الاستمداد والحاجۃ
من اہل القبور غیر نبینا محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام وغیرہ من الانبیاء علیہم السلام انکر
کثیراً من الفقہاء کل الانکار فیقولون لیس زیارۃ الا للدعاء و الاستغفار للموتی وانتفاع
لہم بالدعاء و تلاوۃ القرآن وانواع الخیرات فقط واثبت الاستمداد باہل القبور بعض
الفقہاء المحققین وغیرہم من مشائخ الصوفیۃ لاسیما عند اہل الکشف والکمال مقرون
بالفیوض والفتوح من ارواحہم وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ان قبر امام موسیٰ الکاظم رضی
اللہ عنہ من اولاد علی کرم اللہ وجہہ من الفاطمۃ تریاق مجرب لاجابۃ الدعاء الحاجۃ قال
الشیخ امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ یکون الاستمداد من قبر موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ
بعد الموت کاستمداد فی الحیوۃ وقال بعض المشائخ واینا قبر الشیخ معروف الکرخی وہو من
تلامیذ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و الشیخ السید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ
[illegible] فی الحیوۃ وقیل اذا حبس المطالعۃ فی الفقہ [illegible] قبر ابوحنیفہ رحمۃ
اللہ علیہ فتح اللہ تعالیٰ علم نافع من ابواب الفقہ وکثیراً من المتاخرین فیضوا من زیارۃ
ابوحنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ ان ابوحنیفۃ رحمہ اللہ اب الفقہ وابی یوسف رحمہ اللہ وام
الفقہ ومحمد رحمۃ اللہ تشبیر الفقہ وحسن رحمہ اللہ وعا الفقہ و زفر رحمہ اللہ رداء الفقہ وغیرہم
من المتقدمین میزان الفقہ والمتاخرین تجار الفقہ و [illegible] متاع الفقہ والقنیۃ
سماء الفقہ فاستدلوا من اقر باستمداد القبور بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تحیرتم
فی الامور فاستعینوا باہل القبور بان یقف الزائر من وراء القبر مستقبل القبلۃ

فیقول اللهم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات یا الٰهی بحرمة صاحب هذه القبر انکان له عندك الوجاهة اقض حاجتی کذا فی املح الاخبار وفی شرح امنیة الاولیاء قد یظهر بعد الموت فقد ورد فی حدیث القدسی اولیائی لایموتون بل ینقلون من دار الی دار فالاستمداد بهم جائز کذا فی الفوائد وفی نافع المسلمین انتهی والثانی فی شرح عین العلم لمولینا علی القاری رحمه الله الباری زیارة القبور فانها تذکر العقبی وتزهد الدنیا وفیها عبرة لارباب الصدق روی اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور انتهی شرح عین العلم صفحه ۴۰ والثالث قال الامام عبد الرؤف المناوی فی کنوز الحقائق اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور فزوروها رواه مسند فردوس الدیلمی انتهی الرابع قال فی مرقات الوصول صفحه ۱۰۵ شرح نوادر الاصول للحکیم الترمذی وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اهل القبور انتهی والخامس قال فی شرح البرزخ وروی عن ابن مسعود رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اهل القبور قال رضی الله عنه حملوا العلماء الحدیث علی ظاهره ای اذا اشکل علیکم امر من الامور الدنیا وتحیرتم فی تدبیره فزوروا قبور المتبرکین واستعینوا هم فی ذلك لعل الله شفعهم فیکم فان شفاعة الموتی قد ثبت بالاخبار والاثار اکثر من ان یحصی واصحاب التاویل اولوه بالعبرة فان القبور تذکرة للاخرة ویقلل الدنیا فی اعینهم فکانها اعانة انتهی السادس قال فی هدیة الحرمین الباب الحادی عشر فی الاستمداد عن اهل القبور فی فتاوی زاد اللبیب وخزانة الجلالی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اهل القبور انتهی لمولوی عبد الحکیم الدهلوی السابع قال فی فتاوی فیروز شاهی ذکر فی استمداد اهل القبور عن النبی علیه الصلوة والسلام اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اهل القبور اما الاستمداد فی اهل القبور فی غیر النبی

عليه السلام والانبياء عليهم السلام فقد انكره كثير من الفقهاء وقالوا ليس للزيارة الا الدعاء
للموتى والاستغفار لهم واثبته المشايخ الصوفية قدس الله سرهم وبعض الفقهاء وذلك امر مقرر
عند اهل الكشف والكمال لا شك عندهم حتى ان كثيرا منهم حصل لهم الفيوض من الارواح و
تسمى هذه الطائفة اويسية في اصطلاحهم قال حجة الاسلام محمد الغزالي كل من يستمد به في حيوته
ويستمد به بعد وفاته وقال احد من المشايخ العظام رأيت اربعة من المشايخ يتصرفون في
قبورهم كتصرف في حيوتهم منهم اي الشيخ معروف الكرخي والشيخ السيد عبد القادر جيلاني رحمة الله
عليهما وذكر رجلين غيرهما وهل امداد الحي اقوى ام امداد الميت وقيل امداد الحي لانه في بساط
الحق والنقل في ذلك كثير عن هذه الطائفة ولم يعرف رده في الكتاب والسنة والاصول ما
ينافي ذلك ولم يرده كيف وقد ثبت ان الروح باقية ولها علم وشعور بالزائرين سيما الارواح
الموتى الكمال كما كان في الحيوة او اتم منه ايضا فيه في باب حكم الاسرار وقد سمعت من مشايخ
العظام الاستعانة من الاولياء جائزة في الامور كلها وفي المحيط في فصل المتفرقات فهل ينفع
الميت للاحياء ام لا تكلموا فيه من المتوفى وقد جاء عن ابن سماعة رحمة الله عليه انه كان في اكثر
الاحوال استعان عن محمد بن الحسن في حالة الممات هكذا نقل الامام حمزة الروايات في فصل
الخامس في كتاب السير زيارة القبور جائز وفيه فائدة كثيرة من ان تحصى رسالة تبرية ولا يشتبه
انه ينفع لان الاخبار ورد فيه كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تحيرتم في الامور
فاستعينوا من اهل القبور ايضا قوله عليه السلام اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اهل
القبور انتهى والثامن قال في زاد اللبيب صفحه ٢٠٩ ذكر في استمداد القبور عن النبي عليه السلام
اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اهل القبور شرح اما الاستمداد باهل القبور في غير النبي
عليه السلام والانبياء عليهم السلام فقد انكره كثير من الفقهاء وقالوا ليس للزيارة الا الدعاء
للموتى والاستغفار لهم واثبته المشايخ الصوفية قدس الله اسرارهم وبعض الفقهاء وذلك
امر مقرر عند اهل الكشف والكمال منهم لا شك في ذلك عندهم حتى ان كثيرا منهم حصل لهم

الفيوض من الارواح ويسمى هذه الطائفة اويسية في اصطلاحهم قال حجة الاسلام محمد الغزالي
رحمة الله عليه كل من يستمد به في حياته يستمد به بعد وفاته وقال احد من مشايخ العظام
رأيت اربعة من المشايخ يتصرفون في قبورهم كتصرفهم في حيوتهم منهم الشيخ معروف الكرخي
والشيخ السيد عبد القادر جيلاني رحمة الله عليهما وذكر رجلين غيرهما وهل امداد الحي اقوي
ام امداد الميت قيل امداد الحي اقوى لانه في بساط الحق والنقل في ذلك كثير عن هذه الطائفة
ولم يعرف رواه في الكتاب والسنة والاقوال ما ينافي ذلك وما يرده كيف وقد ثبت ان
الروح باقية ولها علم وشعور بالزائرين سيما الارواح الكمل قرب مكان من جانب الحق تعالى
كما كان في الحيوة او اتم فيه عرف في باب حكم الاسراء واما الاستمداد باهل القبور فقد نكره بعض
الفقهاء فان كان الانكار من جهة انه لا سماع لهم ولا علم ولا شعور بالزائر واحواله فقد ثبت
بطلانه وان كان بسبب انه لا قدرة لهم ولا تصرف في ذلك الموطن حتى يمدوا هل هم محبوسون
عن ذلك ومشغولون بما عرض لانفسهم من المحنة ما اشغلهم عمن عداهم فلا يرى ذلك كليا
خصوصا في شأن المتقين الذين هم اولياء الله تعالى فيمكن ان يحصل لارواحهم عند الرب
تعالى من القرب في البرزخ والمنزلة والقدرة على الشفاعة والدعاء وطلب الحاجات
لزائرهم المتوسلين بهم كما يحصل يوم القيمة واما الدليل على نفي ذلك وقد نبه البيضاوي
قوله تعالى والنازعات غرقا الى قوله فالمدبرات امرا بصفات النفوس الفاضلة حال
المفارقة فانها تنزع عن الابدان غرقا اى نزعا شديدا من اغرق النازع في القوس فتنشط
الى عالم الملكوت وتسبح فيه فتسبق الى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات ولا
ادري ما المراد بالاستمداد الذي يمنعه المنكر والذي نفهمه نحن ان الداعي المحتاج الى الله تعالى
يدعو الله ويطلب حاجته من فضله تعالى ويتوسل بروحانية هذا العبد المقرب المكرم
عنده تعالى ويقول اللهم ببركة هذا العبد الذي رحمته واكرمته والما لك به من اللطف والكرم
اقض حاجتي واعط سؤالي انك انت المعطي الكريم او ينادي لهذا العبد المكرم المقرب عند الله

تعالیٰ ویقول یا عبداللہ ویا ولید اللہ اشفع لی وادع ربک واسئلہ ان یعطینی سوالی ویقضی حاجتی فالمعطی والمسئول والامور بہ ھو الرب تعالیٰ وما العبد فی البین الا وسیلۃ الخ انتھٰی والتاسع قال فی املح الاخبار واما الزیارۃ بنیۃ الاستمداد الحاجۃ من اھل القبور غیر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من الانبیاء علیھم السلام انکر کثیر من الفقہاء کلا الانکار فیقولون لیس الزیارۃ الا الدعاء والاستغفار للموتی وانتفاع لھم بالدعاء وتلاوۃ القرآن وانواع الخیرات فقط واثبت الاستمداد باھل القبور بعض الفقہاء المحققین وکلھم من مشائخ الصوفیۃ لاسیما عند اھل الکشف والکمال مقرون بالفیوض والفتوح من ارواحھم وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ قبر الامام موسی الکاظم من اولاد علی من الفاطمۃ مجرب الاجابۃ دعاء الحاجۃ وقال الشیخ الامام محمد الغزالی یکون الاستمداد من قبر موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ بعد الموت کاستمداد فی الحیوٰۃ وقال بعض المشائخ رأینا قبر الشیخ معروف الکرخی وھو من تلامیذ ابی حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ والشیخ السید عبد القادر الجیلانی رحمھما اللہ تعالیٰ تصرفوا فی القبور کما تصرفوا فی الحیوۃ وقیل اذا حبس مطالعہ فی الفقہ فجلس عند قبر ابی حنیفۃ رضی اللہ عنہ افتح اللہ تعالیٰ لما انفعا من ابواب الفقہ وکثیرا من المتاخرین فیضوا من زیارۃ ابی حنیفۃ رضی اللہ عنہ ان ابی حنیفۃ اب الفقہ وابو یوسف ام الفقہ ومحمد ظہر الفقہ وحسن وعاء الفقہ وزفر ... ام الفقہ وغیرھم من المتقدمین ممیزون الفقہ والمتاخرین تجار الفقہ والمقتبسین سما الفقہ فاستدل من اقر باستمداد القبور بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باھل القبور بان یقف الزائر من وراء القبر مستقبل القبلۃ فیقول اللھم اغفر لی ولوالدی ولھذا المیت ولجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منھم والاموات یا الٰہی بحرمۃ صاحب ھذا القبر کان لہ عندک الوجاھۃ فاقض حاجتی وکذا نصیرتہ بذلک شفیعا انتھٰی والعاشر قال العالم مولانا علی القاری فی کتابہ المرقات شرح المشکوۃ واما الاستمداد باھل القبور فی غیر النبی صلی اللہ

عليه وسلم والانبياء عليهم السلام فقد انكره بعض الفقهاء واثبته المشايخ الصوفية وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى فذلك امر مقيد عند اهل الكشف والكمال منهم فلا شك فى ذلك عندهم حتى ان كثيرا منهم يصل لهم الفيوض من الارواح وتسمى هذه الطائفة اويسية فى اصطلاحهم وقال الامام الشافعى رحمة الله عليه قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لاجابة الدعا قال حجة الاسلام محمد الغزالى رحمة الله عليه من يستمد فى حيوته يستمد بعد مماته وآداب الزيارة ان يقوم مستقبل القبر مستدبر القبلة حذاء الوجه وان يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله فلا يخفى والزيارة يوم الجمعة افضل خصوصا فى اوله وجاء فى الرواية انه يعطى للميت فى اليوم الجمعة الادراك اكثر مما يعطى فى سائر الايام انتهى الحادى عشر قال الامام عبد الله اليافعى رحمة الله عليه فى روض الرياحين الحكاية التاسعة بعد الثلثمائة عن بعض السلف رضى الله عنه قال غاب ابني محمد فوجدنا عليه وجدا شديدا فاتيت معروفا الكرخي رضى الله تعالى عنه فقلت له يا ابا محفوظ انه قد غاب ابني وامه واجدة عليه فقال ما تشاء فقلت ادعوا الله ان يرده فقال اللهم ان السماء سماؤك والارض ارضك وما بينهما لك ائت بمحمد قال ابوه فاتيت باب الشام فاذا هو واقف فقلت يا محمد فقال يا ابت كنت الساعة بالانبار قلت كان معروف رضى الله عنه معروفا باجابة الدعوة وقد ذكران الدعا مستجاب عند قبره واهل بغداد يسمونه الترياق المجرب رضى الله عنه ونفعنا به آمين انتهى الثاني عشر قال فى روضة الناظرين وقال فيه جماعة من الصوفية انه احد الاربعة يتصرفون فى قبورهم كتصرف الاحياء وهم على ما يقولون الشيخ عقيل المنبجي والشيخ حيات بن قيس الحراني والشيخ السيد عبد القادر الجيلي والشيخ معروف الكرخي رضى الله عنهم اجمعين انتهى الثالث عشر قال الشيخ محمد بن يحي التادفي الحنبلي رحمه الله تعالى فى كتابه قلائد الجواهر وقد انعقد الاجماع من جماهير الاشياخ من الفقهاء والفقراء وتضمنت الكتب المدونة اصحابها ان تفرغ لتام من السادة القادة الاولياء فى حياتهم وفى قبورهم بعد وفاتهم كتصرف الاحياء بتخصيص من الله تعالى لهم وهم سيدنا ومولانا وقدوتنا

الی الله تعالی الامام المکمل الشیخ السید عبد القادر الجیلی و الشیخ الکبیر الدیاق الحبیب
معروف بن محفوظ بن فیروز بن المرزبان الکرخی و الشیخ الواصل الرحلۃ عقیل المنبجی
والشیخ الکامل حیاۃ بن قیس الحرانی رضی الله عنہم وان السادۃ البررۃ اربعۃ ایضا
الذین یبرؤن الاکمہ والابرص ویحیون الموتی باذن الله تعالی وھم القطب الغوث الشیخ
السید محی الدین عبد القادر الجیلی و الشیخ الکبیر سیدی احمد الرفاعی و الشیخ السالک
الناسک علی بن الہیتی و الشیخ القدوۃ الصالح بقا بن بطو رضی الله عنہم الرابع عشر
قال العلامۃ المحقق مولینا علی القاری رحمہ الباری فی کتابہ شرح المتقسط شرح المناسک
ویسأل من فضلہ ویتوسل بروح رسولہ صلی الله علیہ وسلم فی تحصیل مسئولہ وتحقیق
مامولہ ولیلاحظ مع ذلک الاستمداد من سعۃ عفۃ صلی الله علیہ وسلم وعطفہ ورأفتہ
ای شدۃ رحمتہ علی سائر العباد ان یسامحہ ای ما صدر عنہ فی حضرتہ من قلۃ ادبہ
صلی الله علیہ وسلم انتہی الخامس عشر قال فی شرح عین العلم قالوا من یتبرک ویستمد بہ
فی حال حیوتہ یستمد بہ وفاتہ بزیارۃ قبرہ کذا فی الاحیاء قال احد من المشائخ العظام رأیت
اربعۃ من المشائخ یتصرفون فی قبورھم کتصرفہم فی حیوتہم او اکثر منھا الشیخ معروف الکرخی
و شیخ الشیوخ شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس الله اسرارھما وعد اثنین آخرین من
الاولیاء ولیس مقصودہ الحصر بل قال ما رآہ ووجدہ فی بعض الشروح انتہی السادس عشر
قال شیخ الشیوخ فی سند الاسلام پیغمبر علیہ السلام گفت علیہ السلام چون حیران شوید درکارہا زیارت کنید قبرہا را
و یاری خواہید قال علیہ السلام اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور انتہی وفی
المسلک المتقسط فی المنسک المتوسط فلا ینبغی مخالفۃ امرہ خصوصا فی حضورہ فانظر
الی الامام الشافعی قدس سرہ ورضی عنہ حیث زار قبر الامام الاعظم ترک سنۃ من
سنن مذہبہ معللا بانی استحی ان اخالف مذہب الامام فی حضورہ وھذا یدل علی
غایۃ تادبہ ونہایۃ شعورہ انتہی السابع عشر قال الامام عبد الوہاب الشعرانی فی

ميزان الكبرى في فصول الاجوبة عن الامام ابي حنيفة وبيان مقامه في العلم ان الشافعي ترك القنوت لما زار قبره وادركته صلوة الصبح عنده وقال كيف اقنت بحضرة الامام وهو لايقول به وان الامام الشافعي انما فعل ذلك فتحا لباب الادب مع الائمة المجتهدين وحملهم في جميع اقوالهم على المحامل الحسنة وعلى انهم ما قالوا قولا الا لكونهم اطلعوا على دليله من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم فلا ينافي ذلك قول الامام الشافعي فيما تقدم عنه انه لاحجة لاحد ما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم على ان بعضهم قال ان الشافعي ما فعل ذلك الا باجتهاد فادى اجتهاده الى ان الادب مع الائمة المجتهدين واجب واجب تقدمه على فعل بعض السنن لما يترتب عليه من توهم القدح فيه والذي نقول به ان الامام الشافعي رضي الله عنه لم يترك القنوت لمحض الادب مع الامام ابي حنيفة رضي الله عنه مع قول الامام الشافعي بسنة حينئذ لما فيه من اساءة الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك شئ قال به غيره وحاشا الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه من ذلك وانما نقول ان ترك الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه القنوت عند زيارة قبر الامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه انما كانت لموافقة اجتهاده حصلت تلك الوقت ويكون ذلك من اعداد الكرامات الجليلة المعدودة للامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه ولا يقدح ذلك في مقام تأدب الامام الشافعي رضي الله عنه مع الامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه وانما ذلك فيه رعاية لكمال المقامين على انه قد نقل عن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه في تعظيم الامام ابي حنيفة رضي الله عنه والادب معه ما فيه مقنع وكفاية لكل ذي لب كما سترى بعضه انشاء الله تعالى في هذا الكتاب مرارا وقال بعضهم لا بدع في حملنا ترك القنوت على الادب المحض لان الادب مما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان المتادب مع اخيه انما هو متادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و تابع لشرعه فليتامل وسياتي في فصل الاجوبة عن الامام ابي حنيفة رضي الله عنه

قول الامام مالکؒ لما سئل عن الامام ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ ما تقولون فی رجل لوناظرنی فی ان نصف ھذہ الاسطوانۃ حجرا و نصفھا فضۃ لقام بحجتہ وکذلک قول الامام الشافعی الناس کلھم فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ فتامل یا اخی ادب الائمۃ مع بعضھم بعضا واقتد بہم فی ذلک آیات والتعصب لامامات حمیۃ جاھلیۃ من غیر دلیل نتخطی طریق الصواب واول من یتبرء منک امامک یوم القیمۃ وتقدم فی قول الامام اللیث للامام مالک فی مسئلۃ ارسلھا الہ من مصرھا حکم اللہ فی ھذہ المسئلۃ عندکم وان الامام مالک اکتب الی اللیث بعد الحمد للہ والصلوۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فانک یا اخی امام ھدی وحکم اللہ فی ھذہ المسئلۃ ما قام عندک انتھی فاعلم ذلک والحمد للہ رب العالمین انتھی وفی تاریخ ابن خلکان من جلد الثانی صفحہ ۲۱ وقال اسمعیل بن حماد بن ابی حنیفۃؒ انا اسمعیل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان من ابناء فارس من الاحرار واللہ ما وقع علینا رق قط ولد جدی سنۃ ثمانین وذھب ثابت الی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وھو صغیر فدعا لہ بالبرکۃ فیہ وفی ذریتہ ونحن نرجو ان یکون اللہ تعالی قد استجاب ذلک لعلی فینا والنعمان بن المرزبان ابو ثابت ھو الذی اھدی لعلی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ الفالوذج فی یوم مھرجان فقال مھرجونا کل یوم ھکذا قال الخطیب فی تاریخہ واللہ تعالی اعلم وادرک ابو حنیفۃ اربعۃ من الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین وھم انس بن مالک وعبد اللہ بن ابی اوفی بالکوفۃ وسھل بن سعد الساعدی بالمدینۃ وابو الطفیل عامر بن واثلہ بمکۃ ولم یلق احدا منھم ولا اخذ عنہ واصحابہ یقولون لقی جماعۃ من الصحابۃ وروی عنھم ولم یثبت ذلک عند اھل النقل و ذکر الخطیب فی تاریخ بغداد انہ رای انس بن مالک رضی اللہ عنہ انتھی وفی خیرات الحسان فی الفصل الرابع فی دعاء علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم وجہہ بالبرکۃ لثابت والد ابی حنیفہ فحقق اللہ تلک الدعوۃ الصالحۃ المبارکۃ فی ابی حنیفۃ وذریتہ واتباعہ

قال حفیدہ اسماعیل کذا روی ذالک عن ابیہ حماد ذہب النعمان والد ثابت وجد ابی حنیفۃ بابنہ ثابت الی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وھو صغیر واھدی الیہ الفالوذج فی یوم النیروز فقال نوروزنا کل یوم ھکذا او دعا لثابت بالبرکۃ فیہ وفی ذریتہ و نحن نرجو من کرم اللہ ان یکون ذالک قد استجیب من علی نبینا انتہی کلامہ وفی رد المحتار قولہ وقد ثبت الخ ابن خلکان عن الخطیب ان حفید ابی حنیفۃ قال انا اسماعیل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان ابن المرزبان من ابناء فارس من الاحرار واللہ ما وقع علینا رق قط ولد جدی ابو حنیفۃ سنۃ ثمانین وذھب ثابت الی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وھو صغیر فدعا لہ بالبرکۃ فیہ وفی ذریتہ ونحن نرجوان یکون اللہ تعالیٰ قد استجاب لعلی فینا والنعمان بن المرزبان ابو ثابت ھو الذی اھدی لعلی الفالوذج فی یوم مھرجان فقال علی مھرجونا کل یوم ھکذا انتہی وفی منیۃ المفتی وقد صح انہ سمع الحدیث من سبعۃ من الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنھم بعضہم ذکور ومنھم انس بن مالک و عبد اللہ بن جزء الزبیدی وعبد اللہ بن ابی اوفی وواثلہ بن الاصقع ومعقل وجابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنھم اجمعین ومنھم اناث منھم عایشۃ بنت عجرد انتہی وفی فتاوی السراجیۃ اعلم ان صاحب مذھبنا اعنی اباحنیفۃ رضی اللہ عنہ وھو نعمان بن ثابت بن زوطی وفی الصحیحۃ مکان زوطی النعمان بن المرزبان قد ادرک اخر عہد علی بن ابی طالب حمل ابوہ الیہ صغیرہ وقد دعا لہ بالبرکۃ کذا ذکر نجم الدین النسفی وقد صح انہ سمع الحدیث من سبعۃ من الصحابۃ رضی اللہ عنھم بعضہم ذکور منھم انس بن مالک و عبد اللہ بن حسن الزبیدی وعبد اللہ بن ابی اوفی وواثلہ بن الاصقع وجابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنھم وبعضہم اناث منھن عایشہ بنت عجرد انتہی وفی خیرات الحسان فی الفصل الثانی فی ذکر اسمہ ونسبہ وکنیتہ وصفتہ ھو الامام الاعظم فقیہ اھل العراق ومن اکابر التابعین وصاحب الخصال الحمیدۃ والافعال المرضیۃ التی قال بہ و نیفق

وجودها باجمعها فی شخص واحد انتهی وفی تذکرة الراشد بردتبصرة الناقد قال العلی القاری المکی فی طبقات الحنفیة قد ثبتت رویته لبعض الصحابة واختلف فی روایته عنهم والمعتمد ثبوتها کما بینته فی سند الانام شرح مسند الامام حال اسناده الی بعض الصحابة الکرام فهو من التابعین الاعلام کما صرح به العلماء والاعیان داخل تحت قوله تعالیٰ والذین اتبعوهم باحسان وفی عموم قوله علیه السلام خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم رواه الشیخان ثم اعلم ان جمهور علماء والحدیث علی ان الرجل بمجرد اللقی والرویة یصیر تابعیا ولا یشترط ان یصحبه مدة انتهی والی قوله فی شرح نخبة الفکر عند البحث فی تعریف التابعی بمن لقی الصحابی قال العراقی وعلیه عمل الاکثرین قلت وبه یندرج الامام الاعظم فی سلک التابعین فانه قد رای انسا وغیره من الصحابة علی ما ذکره الامام الجزری فی اسماء رجال القراء والتوربشتی فی تحفة المرشد وصاحب کشف الکشاف فی تفسیر سورة المومنین وصاحب مرآت الجنان وغیرهم من العلماء المتجرین فمن نفی انه تابعی فاما من التتبع القاصر او التعصب الفاتر والی قول الذهبی فی الکاشف رای انسا انتهی والی قوله فی تذکرة الحفاظ رای انس بن مالک غیر مرة لما قدم علیهم الکوفة انتهی والی قول ابی الحجاج المزی فی تهذیب الکمال رای انسا الخ والی قول احمد قسطلانی فی ارشاد الساری شرح صحیح البخاری فی باب وجوب الصلوٰة فی الثیاب ومن التابعین الحسن البصری و ابن سیرین والشعبی وابن المسیب وابو حنیفة انتهی والی قول الیافعی فی مرآت الجنان رای انسا انتهی والی قوله بعیده ذکر الخطیب فی تاریخ بغداد انه رای انس بن مالک انتهی والی قول الولی العراقی کما نقله السیوطی قد رای انس بن مالک انتهی والی قول ابن الجوزی انما رای انس بن مالک بعینه انتهی والی قول الدارقطنی کما نقله السیوطی لم یلق من الصحابة الا انه رای انسًا انتهی والی قول النووی فی تهذیب الاسماء واللغات قال الخطیب البغدادی فی التاریخ ابو حنیفة امام اصحاب الرای وفقیه اهل العراق

رآی انس بن مالک انتہیٰ والی قول ابن حجر المکی الهیتمی فی الخیرات الحسان فی مناقب النعمان صح کما قاله الذهبی انه رای انس بن مالك وهو صغیر وفی روایة مرارا واکثر المحدثین علی ان التابعی من لقی الصحابی وان لم یصحبه صححه النووی کابن الصلاح انتہی والی قول ابن عابدین فی رد المحتار وعلی کل فهو من التابعین وممن جزم بذلك الحافظ الذهبی والحافظ العسقلانی وغیرهما انتہیٰ والی قوله نقلا عن بعض المحدثین ما وقع للعینی انه اثبت سماعه ممن ادرکه من الصحابة ردہ علیه صاحبه الحافظ قاسم الحنفی والظاهر ان سبب عدم سماعه ممن ادرکه من الصحابة انه فی اول امره اشتغل بالاکتساب حتی ارشده شعبی لما رای من باهر نجابته الی الاشتغال بالعلم انتہیٰ والی قول السیوطی قد الف ابو معشر عبد الکریم بن عبد الصمد الطبری المقری الشافعی جزء فیما رواه ابو حنیفة عن الصحابة انتہیٰ والی قول الاربیلی فی مدینة العلوم قد ثبت بهذا التفصیل ان الامام من التابعین انتہیٰ فهولاء العلماء الثقات والاثبات الدارقطنی وابن سعد والخطیب والذهبی والولی العراقی وابن حجر المکی وعلی القاری واکرم السندی مؤلف امعان النظر فانه نقل کلام القاری الذی مر ذکره انتہیٰ وفی مولانا علی القاری ویکفینا من سلاطین العالم ابراهیم بن ادهم المتلمذ لامامنا فی العلم والعمل واعراضه عن الدنیا واقباله علی العقبی والحضور مع المولی مع ان السلاطین فی کل زمان ومکان ثابتون علی المذهب النعمان کسلاطین الروم حفظهم الله تعالیٰ عن حوادث الدوران وسلاطین ماوراء النهر فی کل عصر ودهر وسلاطین الهند والسند فی البر والبحر ولعل حکمة ذلك ان اباحنیفة من ذریة کسریٰ الملقب بنوشیروان انتہیٰ ونسبه الشریف جعفر النعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بن ثابت بن قیس بن یزدگرد بن شهریار بن پرویز بن نوشیروان الخ انتہیٰ ودر فتاوی برہنہ آوردہ در مجمع العلوم آوردہ کہ گفت والد امام ابوحنیفہ از اولاد نوشیروان عادل است و وی فرزندان حضرت اسحاق

بن ابراهيم خليل الرحمٰن على نبينا وعليهما السلام است انتهى الثامن عشر في تاريخ ابن خلكان
في جلد الثاني ۱۳۰ ابو محفوظ معروف فيروز وقيل الفيرزان وقيل على الكرخي
هو الصالح المشهور وهو من موالى على بن موسى الرضا وقد تقدم ذكره وكان ابواه
نصرانيين فاسلماه الى مؤدبهم وهو صبي وكان المؤدب يقول له قل ثالث ثلاثة
فيقول معروف بل هو الواحد فيضربه المعلم على ذلك ضربا مبرحا فهرب منه وكان
ابواه يقولان ليته يرجع الينا على اي دين شاء فنوافقه عليه ثم انه اسلم على يد على
بن موسى الرضا ورجع الى ابويه فدق الباب فقال معروف فقال له على اي دين
فقال على الاسلام فاسلم ابواه وكان مشهورا باجابة الدعوات واهل بغداد يستسقون
بقبره ويقولون قبر معروف ترياق مجرب انتهى التاسع عشر قال الامام عبد الوهاب
الشعراني في طبقات الكبرى المسماة بلواقح الانوار في طبقات الاخيار ومنهم ابو محفوظ
معروف بن فيروز الكرخي رضي الله عنه وهو من جملة المشايخ المشهورين بالزهد
والورع والفتوة مجاب الدعوة يستسقى بقبره وهو من موالى على بن موسى الرضا رضي
الله عنه صحب داود الطائي رضي الله عنه ومات ببغداد ودفن بها سنة مائتين وقبره
ظاهر يزار ليلا ونهارا رضي الله عنه انتهى وقال العالم مولانا فصيح الدين بن عبد الكريم
لاهوري رحمة الله في شرح اربعين وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف
في فضائل الاعمال قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في
الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف واما الاحكام كالحلال والحرام
والبيع والطلاق وغير ذلك فلا يعمل بها الا بالحديث الصحيح او الحسن انتهى العشرون
في حرز الوضين شرح حصن حصين ط ص ى اى رواه الطبراني وابو يعلى وابن
السني كلهم عن الحسين بن على اذا انفلتت دابة يقال افلت الشئ او انفلت و
تفلت عني فهو وفي النهاية الانفلات التخلص من الشئ فجاءه من غير مكث فلينادِ

واعینوا ای اعینونی علی اخذنا واعینونی فی ردنا یاعباد اللہ المراد بہم الملائکۃ او المسلمون من الجن او رجال الغیب المسمون بالابدال وای رواہ البزار عن ابن عباس وروی ابن السنی عن ابن مسعود مرفوعا اذا انفلتت دابۃ احدکم بارض فلاۃ فلینادِ عباد اللہ فان اللہ تعالی عبادا فی الارض تحبسہ واذا اراد عونا ای نصرا او اعانۃ او مغیثا فلیقل یاعباد اللہ اعینونی یاعباد اللہ اعینونی ای کررنا ثلثا ط ای رواہ الطبرانی عن زید بن علی عن عقبۃ ابن غزوان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اضل احدکم شیئا او اراد عونا وہو بارض لیس بہا انیس فلیقل یا عباد اللہ اعینونی یاعباد اللہ اعینونی فان للہ عبادا لانراہم وقد جرب ذلک او وذلک مجرب محقق ای رواہ الطبرانی من حدیث عتبۃ بن غزوان انتہی الحادی والعشرون فی شرح سفر السعادت و زیارت مقامات متبرکہ ودعا در انجا متوارث است امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گفتہ است قبر امام موسی کاظم رضی اللہ عنہ سلام اللہ علی آبائہ الکرام تریاق مجرب است برائی اجابت دعا و در زیارت قبور احترام اہل آنرا و در استقبال و جلوس و تادب ہمان حکم است کہ در حالت حیات بود انتہی الثانی العشرون قال الامام عبد اللہ الیافعی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو الحسن قریشی فرمودہ است چہار شیخ را دیدم کہ در قبور رشل تصرف احیا میکردند یکی شیخ سید عبد القادر دوم شیخ معروف کرخی سیوم شیخ عقیل منبجی چہارم شیخ حیات حرانی رضی اللہ عنہم اجمعین انتہی الثالث والعشرون فی وقائع خلفاء العباسیۃ ابو محفوظ معروف الکرخی قدس سرہ کہ در سلک موالی علی بن موسی الرضا رضی اللہ عنہما منتظم بود از جہان گذران انتقال نمود و در تاریخ یافعی مسطور است کہ پدر و مادر معروف نصرانی بودند و او را در سن صبی بمؤدبی کہ ہمان مذہب داشت سپردند و چون بنا بر سابقہ عنایت متناہی آئینہ دل معروف از صورت معرفت الٰہی عکس پذیر بود در وقتی کہ مؤدب او را گفت کہ بگوئی ثالث ثلثہ معروف گفت بل ہو اللہ الواحد القہار مؤدب او را بضربات متعاقب متاذی ساختہ معروف از وی بگریخت و بملازمت شدہ سینہ بر دست حق پرست امام علی بن موسی الرضا

رضی الله عنهما ایمان آورد و پدر و مادر و را ایام هجرانش روزی بر زبان آوردند که کاشکی معروف بر هر دینی
که خواهد باز آید تا ما نیز با او موافقت نمائیم و معروف بجانب ایشان شتافت و حلقه بر در زد و گفتند
کیست گفت منم معروف گفتند بر کدام دین آمده گفت بر دین اسلام و پدر و مادر او نیز طریق اتفاق
سلوک داشته مسلمان شدند معروف مستجاب الدعوت بود و قبرش در بغداد تریاق مجرب گفتند
رحمة الله علیه انتهی الرابع والعشرون قال العالم المحدث المحقق الشیخ عبد الحق الدهلوی رحمة الله
علیه فی شرح المشکوٰة و اما استمداد باهل قبور در غیر نبی صلی الله علیه وسلم یا غیر انبیا علیهم السلام منکر شده
اند آنرا بسیاری از فقها و میگویند نیست زیارت مگر برای دعای موتی و استغفار برای ایشان و رسانیدن
نفع بایشان بدعا و استغفار و تلاوت قرآن و اثبات کرده اند از مشایخ صوفیه قدس الله اسرارهم
و بعض فقها رحمة الله علیهم این امری محقق و مقرر است نزد اهل کشف و کمال از ایشان تا آنکه بسیاری را
فیوض و فتوح رسیده و این طائفه را در اصطلاح اویسی خوانند امام شافعی رحمة الله علیه گفته است قبر امام
موسی کاظم رضی الله عنه تریاق و مجرب است مر اجابت دعا را و حجة الاسلام امام محمد غزالی رحمة الله علیه
گفته هر که استمداد کرده شود بوی در حیات استمداد کرده میشود بعد از وفات و یکی از مشایخ عظام گفته است
دیدم چهار کس را از مشایخ که تصرف میکنند در قبور خود مانند تصرفهای ایشان در حیات خود یا بیشتر
از آن جمله شیخ معروف کرخی و شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس الله اسرارهما و دو کس دیگر را از اولیا
شمرده و مقصود حصر نیست آنچه خود دیده و یافته است گفته و سیدی احمد زروق که از اعاظم فقها و
علما و مشایخ دیار مغرب است گفت که روزی شیخ ابو العباس حضرمی از من پرسید امداد حی اقوی است یا
امداد میت من گفتم که قومی میگویند که امداد حی قوی تر است و من میگویم که امداد میت قوی تر است پس شیخ
گفت نعم زیرا که وی در بساط حق است و در حضرت او است و نقل درین معنی ازین طایفه بیشتر از آن
است که حصر و احصا کرده شود و یافته نمیشود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح که منافی و مخالف این
باشد و رد کند این را و بتحقیق ثابت شده است بآیات و احادیث که روح باقی است و او را علم و شعور
بزائران و احوال ایشان ثابت است و ارواح کاملان را قربی و مکانتی در جناب حق ثابت است

برقبرها

چنانکہ در حیات بود بلکہ بیشتر ازان واولیاء را کرامات و تصرف در اکوان حاصل است و آن نیست مگر ارواح ایشان را وارواح باقی ہست و متصرف حقیقی نیست مگر خدا عزشانہ وہمہ بقدرت اوست و ایشان فانی اند در جلال حق در حیات وبعد از ممات پس اگر دادہ شود مر احدی را چیزی بوساطت یکی از دوستان حق ومکانی کہ نزد خدا دارد دور نباشد چنانکہ در حالت حیات بود انتہی وہمچنین است در تکمیل الایمان وزبدۃ الاسرار والآثار جذب القلوب الی دیار المحبوب انتہی الخامس والعشرون قال العالم المفسر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فی تفسیرہ فی سورۃ انشقت وبعضی از خواص از اولیاء اللہ راکہ آلۂ جارحۂ تکمیل وارشاد بنی نوع خود گردانیدہ اند درینحالت ہم تصرف در دنیا دادہ واستغراق آنہا بجہت کمال وسعت مدارک آنہا مانع توجہ باین سمت نمیگردد واویسیان تحصیل کمالات باطنی از آنہا مینمایند وارباب حاجات ومطالب حل مشکلات خود از آنہا میطلبند ومییابند وزبان حال آنہا درآن وقت ہم مترنم باین مقالات است ع من آیم بجان گر تو آئی بتن انتہی السادس والعشرون حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ در مکتوبات شریف در جلد ثانی در مکتوب پنجاہ وہشتم صفحہ ۱۲۴ مینگارد وہمچنین ارباب حاجات از اعزہ احیاء واموات در ان مخاوف مدد ہا طلب مینمایند ومی بینند کہ آن صور اعزہ حاضر شدہ در دفع بلیہ از ینہا نمودہ است گاہ ہست کہ آنرا اعزہ را از دفع ان بلیہ اطلاع بود وگاہ نبود از ما وشما بہانہ بر ساختہ اند واین نیز تشکل لطائف آن اعزہ است واین تشکل گاہ در عالم شہادت گاہ در عالم مثال چنانچہ در یک شب ہزار کس آنسرور را علیہ الصلوۃ والسلام بصور مختلفہ در خواب می بینند واستفادہ ہا مینمایند انتہی تشکل صفات ولطائف اوست علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام بصورتہائی مثالی وہمچنین مریدان از صور مثالی پیران استفادہ ہا مینمایند وحل مشکلات می فرمایند انتہی مقصد ومطلب چھبیس کتابیں جو تحریر کیے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب تم حیران ہو ایک امر میں تب مدد مانگیں اہل قبور سے اور فانی جسم ہے روح باقی ہے اور ارواح کی تاثیر سے جو خاص بندہ خدائے تعالیٰ کا ہے پروردگار کے پاس مقرب ہے بلا شک بعون ذوالجلال امداد اولیاء کے ثابت اور متحقق ہے بعضے نے روایت کی ہے کہ چہار شخص کا

قبور میں تصرف کرنا ایسا ہے جیسا زندہ کا تصرف دنیا میں از انجملہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی قبر تریاق مجرب ہے واسطے اجابت دعا کے اور چہار مشایخ عظام شیخ معروف کرخی و شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہما و شیخ عقیل منجی و شیخ حیات بن قیس حرانی رضی اللہ عنہم اجمعین حضرات مشایخ چہار پر نہیں ہے بلکہ شہادت چار و چیز نہیں ہے سب ایسا شجیات ہیں بحیات معنوی اصوری فقط

حررہ المسکین محمد معین محی الدین الحنفی القادری الغفو ری الارشادی عفی اللہ عنہ




المجیب مصیب کتبہ فقیر حقیر غلام فاروق مجددی معصومی حنفی هندی عفا الله عنه

المجیب اللبیب مصیب کتبہ خادم الشرع القاضی اسمعیل الجلائی الشافعی عفا اللہ عنہ والدیہ وعن استاذیہ و عن جمیع المومنین آمین ۔

الجواب صحیح کتبہ خادم الطلبہ القاضی اسمعیل المهری عفا اللہ عنہ وعن والدیہ وعن سائر المسلمین آمین

من اجاب فقد اصاب کتبہ محمد عبد المنعم بن الشیخ ابراہیم باعکظہ خطیب مسجد الجامع بمخا



الامر کذلک خادم الشرع القاضی الشیخ محمد المرکحی کتبہ القاضی محمد علی بن المرحوم محمد حسن المرکحی ۔

المجیب مصیب لہ اجر جزیل مبین اکثر نقد ضل حررہ حسن حنفی بن نور محمد عفی عنہما ۔

من اجاب فقد اصاب حررہ الراجی الی رحمۃ ربہ الشکور عبد الغفور صانہ عن الآفات والشرور

محمد حسن رضی خادم الشرع

الجواب صحیح والمخالف قبیح حررہ المسکین محمد اکرام الدین البخاری الحنفی واعظ الاسلام

محمد اکرام الدین البخاری

نقل مکتوب شریف جناب فیضمآب عالم کامل و فاضل مکمل لاثانی مولانا مولوی محمد رضا علی صاحب الحنفی القادری النقشبندی المجددی الاحمدی فاروقی رحمہ اللہ از شہر بنارس محلہ پکھنتا پورہ اصل مکتوب

عنایت فرمائے عاجزان جناب محمد مرید محی الدین صاحب زاد مجدکم وعم کرمکم سلام علیکم فقیر بسبب کبرسن اور بسبب کم عمر پسر لائق عالم فاضل نہایت ضعیف ہوگیا ہے اور بصارت سماعت اور کل طاقت فتور واقع ہوگیا لہذا مسائل مختلف فیہا میں معذور ہوں اور ایک طرف مختلف فیہا میں لکھنا محض سفاہت ہے لہذا تحریر جواب میں معذور ہوں البتہ اس باب غیر مقلدین کی بات بھی بابت تشہد کے سنیں دل لگا کر سوچا تا ہوں اور مسئلہ اشتمہ اور بابل انشد سوتا دھیوۃ سنن علیہا کی صوفیہ اور علمائے محققین ہے اور حضرت غوث پاک غوث الثقلین اونکی مدائح زیادہ از حد و عدد ہیں والسلام۔ راقم محمد رضا علی المجددی الاحمدی الفاروقی کان اللہ لہ۔ تحریر ربیع الاول از بنارس محلہ کتوا پورہ ۱۳۱۲ھ از شہر بریلی مکتوب بجناب جامع المعقول والمنقول حاوی الفروع والاصول عمدۃ المحققین زبدۃ المدققین علامۂ محقق و فہامۂ مدقق مولانا قاضی عبد الحق صاحب الامرات اعلم ودجتہ ولانتی کالی نقل اصل مکتوب بجناب ارشاد مآب مشفق کرم و محترم مولوی محمد مرید محی الدین صاحب دام مجدکم بعد از سلام معروض آنکہ باعث تاخیر در جواب استفتا اول اینکہ بندہ از تاریخ دوم صفر تا ایندم بعارضہ ضعف کبد بیمارم حتی کہ الحال ہم علاج طبیب جاری ہست دوم آنکہ خود آنجناب را در علم احکام ثانی نیست کنوع سوء ادب فہمیدم کہ جواب استفتائی آنجناب نویسم لیکن آخر الامر بموجب الامر فوق الادب آنچہ خاطر فاتر ظاہر گردید نوشتہ ارسال خدمت نمودم اگر قبول خاطر عاطر افتد فبہا ورنہ خطا و لغزش را معاف فرمایند والسلام مورخہ ۲۴ ذی الحجۃ الحرام ۱۳۱۲ ہجری راقم خادمکم عبد الحق عفی عنہ نقل استفتا از جناب قاضی صاحب موصوف مذکور سوال در قعدتین در وقت خواندن تشہد انگشت سبابہ را بر دارد یا نہ۔ الجواب۔ اختلاف در رفع سبابہ بوقت تشہد معروف و مشہور ہست و دلائل فریقین در کتب مطولہ شرح مبسوط مستند ما عمل این عاجز بعبارات اکثر متون و روایت جامع الصغیر ہست عبارتش این ہست و فی الاکتفاء و اشعار۔ بانہ لا یشیر و لا تعقد و ہذا ظاہر اصول اصحابنا کما فی الزاہدی و علیہ الفتوی کما فی المضمرات و الولوالجیۃ و الخلاصۃ و غیرہا اھ۔ جواب دوم۔ ولایت و کرامت حضرت غوث الثقلین نور اللہ مرقدہ بالا تر از و بسیاری از علمائے صلحا و اولیا کہ شمار آن غیر ممکن ہست مسلم ہست پس منکر جناب عالیشان ایشان ضال و گمراہ خواہد بود کہ در انکار ایشان تضلیل و تخطیہ جم غفیر است از علما و صلحا و اولیا فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ احقر العباد عبد الحق عفا اللہ عنہ (محمد عبد الحق)

الفصل التاسع عشر

فی بیان علم الشیخ السید عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و یکتب ما یقول فی مجلسہ اربعمائۃ محبرۃ عالم و غیرہ کما ورد فی کتب متعددۃ الاول قال العالم العلامۃ و الحبر الفہامۃ مولانا علی القاری رحمہ اللہ الباری فی کتابہ نزہۃ

الخاطر الفاتر فی ترجمۃ سیدی الشریف عبد القادر محی الدین سلطان الاولیاء والعارفین الاکابر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ وعن الشیخ ابی عبد اللہ السید عبد الوہاب ابن سیدنا السید الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہما ان مدۃ کلام والدہ علی الناس اربعین سنۃ وکان یکتب ما یقول فی مجلسہ اربعمائۃ محبرۃ عالم وغیرہ وکان کثیرا ما یخطو فی الہواء فی مجلسہ علی رؤس الناس خطوات ثم یرجع الی الکرسی وکان یموت فی مجلسہ الوجلان والثلاثۃ انتہی والثانی قال العالم الشیخ محمد بن یحیی التادفی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ قلائد الجواہر ویکتب ما یقول فی مجلسہ اربعمائۃ محبرۃ عالم وغیرہ انتہی والثالث قال العالم المحدث الشیخ عبد الحق الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ زبدۃ الاسرار والآثار وکان یکتب فی مجلس اربعمائۃ محبرۃ انتہی والرابع قال العالم الفاضل المحقق المدقق محمد غوث الملقب بشیر فلک رحمہ اللہ تعالی فی کتاب اظہار المفاخر الشعبۃ الثانیۃ فی کیفیۃ وعظہ رضی اللہ عنہ مروی ست از شیخ ابی الفتح سلیمان کہ شنیدم ابا عبد اللہ عبد الوہاب قدس سرہ میگفت کہ والد من در ہر ہفتہ سہ بار وعظ میفرمود و سہ روز در صبح روز جمعہ آخر روز سہ شنبہ و در رباط روز یکشنبہ علما وفقہا ومشایخ وغیرہم حاضر میشدند و در مجلس وی دو مقری قرأت بترتیل بی الحان عربی میخواندند و شریف ابو الفتح مسعود بن عمر ہاشمی مقری رحمۃ اللہ علیہ نیز در مجلس وی قرأت میکرد و مردمان میمردند در مجلس وی بسیار وسخن او را چہار صد نویسندہ عالم وغیرہ مینوشتند وبیشتری در مجلس بر ہوا چند گام میرفت بعدہ بر کرسی باز می آمد وحاضر میشدند قریب ہفتاد ہزار مرد انتہی الخامس قال سلطان دارا شکوہ فی کتابہ سفینۃ الاولیاء حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ در وقت وعظ میفرمودند کہ ای اہل آسمان وزمین بیائید وبشنوید سخن مرا و از من چیزی بیاموزید کہ نائب و وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہستم در زمین و درین مجلس خلعتہا عطا میشود وحق تعالی بر دل من تجلی میکند وقریب ہفتاد ہزار نفر در مجلس وعظ آنحضرت حاضر میشدند وچہار صد نفر کلام آنحضرت قدس سرہ را می نوشتند انتہی وجناب غوثیت مآب ہم عالم متبحر وہم ولی کامل کہ کرامت ایشان بسبیل تواتر وباجماع ثابت شدہ فضائل حضرات مجتہدین ثابت از استخفاف ایشان اجتناب ورزند الاخرالدنیا والآخرہ خواہد شد

سوال ۔ کیا فرماتے ہیں علمائے دین متین شرع مبین درمیان اس مسئلہ کے کہ استخفاف یعنی سبک وہلکا اور اہانۃ یعنے برا بولنا اور حقارۃ یعنے حقیر جاننا علمائے اہلسنت والجماعت مقلد مذہب کو اور مجلس میں کا فرش ومسند کو اوپر بیٹھانا اور علما وسکا سلام بھی نہ لینا اور کبھی کا سلام کا جواب دیویں تو ناعلاجی اور پیشانی ترشی سے دیکھنا اور دنیادار اور اغنیا کو تعظیم کرنا اور مجلس میں عالم ہووے تو عالم کو کچھ نہ سمجھ کر مجلس دنیادار سے دنیا کی آپس میں کرنا اور دنیادار کو آگے لجانے اور عالم کے آگے جانا اور کبھی عالم سے

بلا

سیوطی من الطبلاوی
کتاب الاولی فی فوائد
محمد ارشادی عن اللہ
عزیز العلم اللدنی
تفسیر روح البیان
سورۃ العمران جلد
الاول صفحہ ۲۲۹

استخفاف

بات کرین تب تمسخر سے کرنا یعنے ہنسی سے اور علما پر غصے سے بات کرنا اور علم اور اہل علم کو بھیک مانگنے والا بولنا اور کچھ کام کا
نہیں ان سب صورتوں مین کافر ہوتا ہی یا نہ اور عورت اوسپر طلاق ہو یا نہ اور لایق حد ہو یا تعزیر از روی حکم شرع شریف
اور نام لینا عالم کا بغیر حاجت کے مکروہ ہی جیسا مان باپ کا نام لینا ترک ادب ہے بلکہ استخفاف سے عالم کا نام لینا
مقتضی بسوی استخفاف ہی۔ بینوا توجروا بحکم اللہ تعالی۔۔ **الجواب** ۔ استخفاف ورذالہ علم دین اور حقارت کی نظر سے
علما اہل السنت والجماعت کو جاننے والا کافر ہی اور عورت اوسکی طلاق ہی اور حکم اوسکا زندیک ہی اوسکو توبہ کرنا واجب ہے
کیونکہ آیات قرآن شریف اور احادیث صحیحہ رسول علیہ السلام سے اور اجماع اہل فقہا سے درجات اور بزرگی انکی ثابت کہ علما
وارث انبیا کے ہیں پس قرآن شریف کا حکم نہ ماننا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ سمجھنا اور فقہا کو بھی نہ
جاننا کفر ہی پس انکار قرآن شریف کا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کتب فقہ کا ہوا سو انکار انکا بالاتفاق
کفر ہی اور حق عالم کا برابر ہی جیسے استاد ہو یا نہو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہی کہ درجہ علما
کا سات سو درجہ خلایق سے اوپر ہی اور ہر دو درجہ کے درمیان پانچ سو برس کا رستہ ہی اور یہ حدیث مولانا شیخ خیرالدین
رملی نے اپنے فتاوی خیریہ جلد الثانی مطبوعہ مصر صفحہ ۲۳۳ مین لکھی ہی اور سید احمد صاحب طحطاوی نے جلد چہارم شرح
در مختار صفحہ ۲۴۳ مین لکھا ہی اور فیض الصمدانی شرح کیدانی مین ورق ۴۲ سے لیکر ۴۴ تک ہی کہ سبکی سے نظر کرنا عالم
کو کفر ہی سب روایات کتب فقہ اس فتوے مین درج ہین یہ فتوی اس سبب سے تحریر کیا ہی کہ مسلمان بھائی علم سے ناواقف ہین
تاکہ واقف ہو جاوین اور اپنے کو کفر سے بچاوین اور کفر مین داخل نہ ہووین اور عزت علما مین حتی المقدور کوشش
کرین تاکہ ثواب پاوین اور کبھی خدمت یا عزت نہو سکے تو ترک آداب نہ کرین تاکہ گناہ سے بچین (مسئلہ) فی الرجل
الجاهل هل له التقدم على الشيخ العالم واذا قال له العالم النصارى تعظم قسيسهم واليهود حاخامهم
وانا من علماء المسلمين فان لم تكرمني لذاتي فاكرمني لعلمي فابى اكرامه وتقدم عليه مستخفا به وبالعلم الشريف
هل باستخفافه بالعلم الشريف وبالعالم يكفر وتبين زوجاته ويجرى عليه احكام المرتدين ام لا
(اجاب) ليس له ان يتقدم على الشيخ العالم بل ليس للشيخ الجاهل ذلك فقد صرح علماؤنا رحمهم الله
تعالى ان للشاب العالم ان يتقدم على الشيخ الجاهل لانه افضل منه قال الله تعالى هل يستوي الذين
يعلمون والذين لا يعلمون ولهذا يقدم في الصلوة وهي احد اركان الاسلام وهي تالية الايمان

وقال اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فالمراد باولی الامر العلماء فی اصح الاقوال والمطاع شرعا مقدم وکیف لا یتقدمون والعلماء ورثۃ الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام علی ماجاءت بہ السنۃ کذا صرح الزیلعی وغیرہ وفی البزازیۃ والشاب العالم یتقدم علی الشیخ غیر العالم قال سبحانہ وتعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فالرافع لما کان ھو اللہ تعالیٰ بدرجتین احداھما درجات العلم فمن یضعہ یضعہ اللہ فی جہنم والعالم یقدم علی القرشی غیر العالم والدلیل علی ذلک تقدم الصھرین علی الختنین وان کان الختن اقرب نسبا منہم قال الزندویستی حق حق العالم علی الجاھل وحق الاستاذ علی التلمیذ واحد علی السواء وھو ان لا یفتتح بالکلام قبلہ ولا یجلس مکانہ وان غاب ولا یرد کلامہ ولا یتقدم علیہ فی مشیہ والنقل فی المسئلۃ کثیر یطول ذکرہ وما الاستخفاف بالعلم والعالم ففی النظم الوھبانی ۔ ولکن بہ من یستخف مکفر ۔ وکذلک بہ لفظ الفقیہ یصغر ۔ قال العلامۃ عبد البر مسئلۃ ھذا البیت وان کانت مشہورۃ عند الحنفیۃ الا انی لم اقف علیہا الا فی حاوی القدسی قال من استخف بالنبی و بنبی من الانبیاء یکفر ومن یستخف بالعلماء العاملین ائمۃ الدین والشریعۃ وروی ان من قال لفقیہ فقیہ بالتصغیر علی وجہ التحقیر یکفر والکلام فی ذلک یطول وفیما اکتفیناہ کفایۃ ان شاء اللہ تعالیٰ انتہی کذا فی فتاوی خیریہ للشیخ خیر الدین الرملی الحنفی استاذ صاحب در المختار جلد الثانی صفحہ ۲۳۵ مطبوعہ مصر وقد قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما للعلماء درجات فوق المومنین بسبعمائۃ درجۃ ما بین کل درجتین مسیرۃ خمسمائۃ عام انتہی کذا فی فتاوی خیریۃ صفحہ ۲۳۳ جلد الثانی مطبوعۃ مصر قال اللہ تعالیٰ والذین اوتوا العلم درجات صدر الآیۃ واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وفی احکام القرآن للرازی وقد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یرفع مجلس اہل العلم علی غیرہم لیبین للناس فضلہم ومنزلتہم عندہ وکذلک یجب ان یفعل ذلک بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابن عباس للعلماء درجات فوق المومنین بسبعمائۃ درجۃ ما بین کل درجتین خمسمائۃ عام وھم اولوا الامر الذین امر اللہ بطاعتہم ۔ فقال تعالیٰ یا ایہا الذین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم والمطاع مقدم وقال الزندویستی حق العالم علی الجاہل وحق الاستاذ علی التلمیذ واحد علی السواء وھو ان لا یفتتح بالکلام

بالکلام قبله ولا یجلس مکانه ان غاب ولا یرد علیه کلامه ولا یتقدم فی مشیته الخ انتهی کذا فی حاشیة الطحطاوی علی در المختار جلد الرابع مطبوعه مصر صفحه ٣٦٣ ، قال صلی الله علیه وسلم بین العالم والعابد سبعون درجة رواه اصبهانی کذا فی کنوز الحقائق صفحه ٨٥ مطبوعه مصر ، قال الفقهاء رحمهم الله علیهم من استخف بالقرآن او بالشریعة او بالعلم والعلماء فهو کافر انتهی کذا فی فتاوی غیاثی ، ومن استخف بالعلماء والشریعة طلقت امرأته ویکفر بالله عز وجل ولیس لاحد من المسلمین ان یدعو العلماء باسمه لانه استخفاف انتهی کذا فی التاتارخانی ، ومن سب اکبر العلماء فذنبه یعود الی النبی صلی الله علیه وسلم فیجب قتله ولم یقبل توبته لان اکبر العلماء بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا فی فتاوی سمرقندی ، اعلم ان تعظیم العلم والعلماء ثابت بکتاب الله تعالی الا تری ان الانسان لا یکفر بالمعصیة وانما یکفر بترک الحرمة اهـ [illegible] معنی سئل عن علماء البخارا رحمهم الله جاء رجل غنی فی المجلس فلان وجلس فی فوق العالم هل یجب شیء ام لا فاجابوا باجمعهم هذا علی اربعة اوجه استخفافا واهانة او حقارة او مزاح ففی الثلاثة یکفر وطلقت امرأته وفی الآخر یعزر ویشهر لجماعة والفتوی علی قولهم فی زماننا انتهی کذا فی مجموعة الفتاوی ، اعلم ان تعظیم العلم والعلماء ثابت بکتاب الله تعالی وبالسنة وبالنص الحرمة خیر من الطاعة الا تری ان الانسان لا یکفر بالمعصیة وانما یکفر بترک الحرمة انتهی کذا فی مقدمة ، وفی مختلفات زفر ویعقوب رحمهما الله تعالی لا یجوز لغیر المتعلم ان یتقدم علیه وان کان من اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم لان الحسب فوق النسب یفتی به شمس الائمة السرخسی لانه کان عالما ومتعلما انتهی کذا فی کامل الفتاوی ، ولا یجوز للسید الجاهل ان یجلس بین العلماء والمتعلمین اتفاقا وان جلس فوجب علی الوالی والقاضی ان یمنعه لانه استخفاف کذا فی تتمة الفتاوی ، لا یجوز لولد العالم والقاضی والسلاطین ان یتقدم علی العالم والمتعلم باعتبار حسب الاب انتهی کذا فی مضمرات ، ومن لم یعظم من کان واجب التعظیم یکفر اذا کان عالما لانه استخفاف العلم الا فلا انتهی کذا فی جامع المتفرقات ، بدانکه حق استاد مقدم دارد بر حق مادر و پدر زیرا که اوستاد سبب حیات روح است و نه گوید و نام اوستاد را و خلاصه گفته است که حق عالم بر جاهل و حق اوستاد بر شاگرد یک حکم دارد و حق استاد بسیار است که نه نشیند در مکان او در غیبت او نکند پیش از و کلام

در ونکند کلام او با ہانت و در وقت رفتن پیش او زود و دریغ ندارد از وی انواع احسان انتہی کذا فی سند الاسلام ورق ۳۳۴ قلمی "قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم العلماء واجب لقولہ علیہ السلام عظموا العلماء فانکم تحتاجون فی الدنیا والآخرۃ وایضا تکریم العلماء واجب لقولہ علیہ السلام العلماء فانہم عند اللہ کرام انتہی کذا فی فتاوی عتابیہ " فی الروضۃ ولا یجوز للجاہل ان یرفع صوتہ علی صوت العالم وفی رفع صوتہ علی صوت العالم بوجہ الاستخفاف یکفر وطلقت امرأتہ ولو کان علی وجہ المزاح یعزر اجماعا ولا یجوز للجاہل ان یجلس بین العلماء والمتعلمین اتفاقا ولو جلس احد من الناس علی من العالم والمتعلم فی المجلس لو کان علی وجہ الاستخفاف طلقت امرأتہ ولو کان علی وجہ الحقارۃ والاہانۃ یکفر ولو کان علی وجہ المزاح یعزر اجماعا انتہی کذا فی روضۃ الفتوی " فی الفتاوی لبدیہی سئل عن علماء البخارا عن رجل جاء فی مجلس فلان وجلس فوق المتعلم عالما بالعبادات مثل الصلوۃ والزکوۃ والصوم والحیض والنفاس ہل یجب علیہ شیء ام لا فاجابوا بانہ علی اربعۃ اوجہ استخفافا واہانۃ او مزاح ففی الثلاثۃ یکفر وطلقت امرأتہ وفی الآخر یعزر ویشہر اجماعا والفتوی علی قولہم فی زماننا انتہی کذا فی روضۃ العلماء من ہذہ وعینہ "من الحاشیۃ ومما یجب التنبیہ علیہ الاستخفاف بالعلماء فانہ کفر محبط للاعمال قال ابن الضیاء الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فی شرح الکنز قال اصحابنا رحمہم اللہ لو نظر انسان الی نظرۃ اہانۃ او ذکرہ بما یوجب الاہانۃ یکفر کما فی عمدۃ الاسلام وذلک لانہم ورثۃ الانبیاء وقد جاء فی الحدیث الصحیح العلماء ورثۃ الانبیاء ورأیت بخط بعضہم ناقلا عن روضۃ العلماء لا یجوز للجاہل ان یجلس بین العلماء والمتعلمین اتفاقا وان جلس فواجب علی السلطان والقاضی ان یحبسہ لان ہذا استخفاف واہانۃ او حقارۃ ولو جلس احد من الناس علی من العلماء والمتعلم فی المجلس لو کان علی وجہ الاستخفاف طلقت امرأتہ ولو کان علی وجہ الحقارۃ والاہانۃ یکفر ولو کان علی وجہ المزاح یعزر باجماع الائمۃ انتہی وفی نوادر الفتاوی ان من رفع صوتہ علی صوت طالب العلم بوجہ الاستخفاف طلقت امرأتہ ولو کان علی وجہ المزاح یعزر اجماعا قال صدر الشہید رحمۃ اللہ علیہ من استخف بعالم طلقت امرأتہ سئل الامام ما استخفاف العالم والمتعلم قال التقدم فی المجلس فوق العلماء والمتعلم وذہابہ اکبا

ويكون العالم جالسا الا اذا لم يكن عارفا فحينئذ لا يكون استخفافا ولو كان جالسا لا يقوم لاجل العالم والمتعلم او يرفع صوته على صوت العالم والمتعلم فكل ذلك استخفاف وحقارة واهانة وردة حكما وقال الفقيه سئل فخر الائمة هل يجوز لرجل غني ان يتقدم على العالم او المتعلم الفقيه لاجل حشمته وماله فاجاب الامام لا لان فيه استخفاف بالعلم والعالم ويقدح حكمهما وفي فتاوى الذوق عن علماء بخارا جاء رجل غني في مجلس وجلس فوق المتعلم وكان المتعلم عالما بالعبادات مثل الصلوة والزكوة والصوم والحج والحيض والنفاس هل يجب عليه شيء ام لا فاجابوا اجمعهم هذا على اربعة اوجه استخفاف او اهانة او حقارة او مزاح ولو كان تقدمه على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه الحقارة والاهانة يكفر ولو كان على وجه المزاح يعزر ويشهر والفتوى على قولهم في زماننا وذكر في جواهر الفتاوى للكرماني رحمة الله عليه سئل فخر الائمة ما العالم والمتعلم والجاهل حيث لا يجوز التقدم على العالم والمتعلم فاجاب رحمة الله عليه وقال فيه اختلاف مشايخنا رحمهم الله قال بعضهم العلماء والفقهاء وقال بعضهم كل من كان عالما بعلم العبادات يعني العلم بتعلم دقايق الاسلام والايمان واركانهما وفرايض الصلوة وسننها ومكروهاتها والزكوة مثل ذلك وفي الصوم مثل ذلك وفي الحيض والنفاس مثل ذلك فمن كان عالما بما يتعلق بعلم العبادات فهو عالم لا يجوز التقدم عليه والجاهل عكس ذلك ومن يعلم الايمان وفرايض الصلوة وواجباتها وسننها كما هو المعروف ولا يكون عالما بل يكون مسلما لان المسلم لا بد له من تعليمها انتهى ثم الكفر نعوذ بالله من سخطه انما يكون بالانكار لفرضية اصلا انتهى كذا في فيض الصمداني على شرح الكيداني للشيخ فاضل الشهير قاضي عيدا نضاري ورق ۳۳ الی ۴۴ قلمی " ولو قال ہر کہ علم آموزد وی وستانہا می آموزد فانہ یکفر انتہی کذا فی فتاوی ظہیریہ ورق ۳۰ قلمی " وایضا ومن روی خبراً صحیحاً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہ جاہل این سخنان را کہ بکار آید درہم باید علم امروز کہ بکار آید کفر لاستخفافہ بالعلم واہل العلم والاخبار المرویۃ عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث مراتب منها ما تواتر وهو ان يرويه جماعة عن جماعة لا يتصور تواطيهم على الكذب واذا انكره انسان يكفر ومنها ما هو مشهور وهو ان يرويه واحد عن واحد في العصر الاول ثم يشتهر في العصر الثاني حتى يرويه جماعة عن جماعة لا يتصور تواطيهم على الكذب واذا انكره انسان يكفر عند بعضهم قال

عیسی بن ابان یضلل ولا یکفر وهو الصحیح ومنها ما هو خبر الواحد وهو انه یرویه جماعة یتصور تواطؤهم
علی الکذب ولا یکفر جاحده ولا یضلل غیر انه یأثم بترک القبول انتهی کذا فی فتاوی ظهیریه ورق ۳۰۱
قلمی نوع آخر فی العلم والعلماء والابرار والصالحین وطلب احد الخصمین من صاحبه الی الشرع والی
القاضی جاهل قال آنها کہ علم می آموزند داستانها است کہ می آموزند او قال باد است آنچہ میگویند او قال تزویر است
او قال من حیلہا منکرم فهذا کلہ کفر رجل رجع عن مجلس العلم فقالت له امرأته از کنشت آمدی فهذه کفر
قال الرجل اذهب معی الی مجلس العلم فقال من یقدر علی الاتیان بما یقولون او قال مرا با مجلس علم چہ کار علم
ورکہ تواند بربہ کرد فهذا کلہ کفر ولو کان مرا خیدانی مشغولی زن و فرزند است کہ بمجلس علم نمیرسم فهذا خاطرة
عظیمة ان اراد به التهاون بالعلم واذا قال درم باید علم چہ کار آید یکفر فی جمیع النوازل واذا قال لعالم ستیق علم
را بکار اندر شکن یکفر اذا کان الفقیه یذکر شیئا من العلم او یروی حدیثا صحیحا فقال الآخر این هیچ
نیست ورد او قال این سخن بچہ کار آید درم باید کہ امروز حشمت درم راست علم کہ را بکار آید فهذا کفر ومن ابغض
عالما او فقیها بغیر سبب ظاهر خیف علیه الکفر اذا قال فساد کردن بہ از دانشمندی کردن فهذا کفر الخ انتهی کذا
فی المحیط القاضی البرهانی جلد الثالث صفحه ۳۳۳ و ۳۳۶ قلمی وان لم یمکن فان کان له ذهن یعقل الزیادة
ویعلم فالنظر فی العلم افضل فقد جاء فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال مذاکرة العلم ساعة خیر
من احیاء اللیل انتهی کذا فی المحیط القاضی البرهانی من جلد الثالث صفحه ۳۴ قلمی پیغمبر علیه السلام فرموده است
فضل العالم علی العابد کفضلی علی امتی لان العلماء سراج الدین وایضا قال علیه السلام سئلت جبرئیل
علیه السلام عن فضیلة العلماء فقال هم سراج امتک فی الدنیا والآخرة واوحی الله تعالی الی نبیه محمد علیه السلام
العلماء اهلی وعیالی وسائر الناس عبیدی وما لهم مالی فمن اعطی مالی علی عیالی فله الجنة ولا ابالی وقوله
علیه السلام من کان فی قلبه ذرة من بغض العلماء یبقی فی جهنم دهرا طویلا نقلست کہ در زمان هارون الرشید
ارکان دولت با او مجادله کردند کہ تمام و همه زر بعلماء صرف میکنی و با این طائفه درویشان کہ مستقبل قبله نشسته اند و در
عبادت حق تعالی مشغول اند و همه از خان و مان بریده اند میل کم داری او گفت کہ استحکام دین نبوی و قوام شریعت مصطفوی
واحکام عقائد یقینی بعالمان است و عالم هر چند کہ بی عمل باشد چندین کس بشفاعت وی در بهشت روند و عابد اگر چه در

در شان بیت عالم باشد تنہا در بہشت رود والا بدوزخ لقوله علیه السلام شفاعة اربعة نفر حق اولهم
الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء ثم الاطفال لابویه الخ انتهی کذا فی ارشاد الطالبین صفحه ۲۲۳ وایضا
مسئلة فی الفتاوی البدیعی سئل عن علماء بخارا عن رجل جاء فی مجلس فلان وجلس فوق المتعلم
عالما بالعبادات مثل الصلوة والزکوة والحج والصوم والحیض والنفاس هل یجب علیه شیء ام
لا فاجابوا باجمعهم بان هذا علی اربعة اوجه استخفاف وحقارة او اهانة ومزاح فلو تقدمه علی
وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو کان علی وجه الحقارة او الاهانة یکفر ولو کان علی وجه المزاح
یعزر والفتوی علی قولهم فی زماننا روضة العلماء انتهی کذا فی ارشاد الطالبین صفحه ۲۵۰ مطبوعه انوار
محمدی ۔۔ در فتاوی حجت میگوید پیغامبر فرمود صلی الله علیه وسلم هر که خوشنودی من خواهد باید که دوست دارد مرا دوست
دارد یاران گفتند یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست شما کیست فرمودند که دوست من طالب علم است طالب علم را
دوست ترست از فرشتگان خدا تعالی پس هر که دوست دارد طالب علم را بہمچنین که مرا دوست داشته باشد
و هر که مرا دوست دارد بہمچنین که خدا تعالی را دوست داشته باشد وجای او بہشت است پیغامبر فرمود صلی الله علیه وسلم
هر که عالمان را زیارت کند چنانستی که مرا زیارت کرده باشد و هر که دست عالمان بگیرد چنانستی که دست مرا گرفته باشد و هر که با عالمان
نشیند چنانستی که با من در دنیا نشسته باشد و هر که با من در دنیا نشیند خدا تعالی او را روز قیامت در بہشت نشیند
پیغامبر صلی الله علیه وسلم علماء من امتی کانبیاء بنی اسرائیل یعنی عالمان امت من همچون پیغامبران بنی اسرائیل
اند چنانچه انبیاء بنی اسرائیل تبلیغ شریعت بخلق میکردند همچنین تبلیغ می کنند اگر جاہل امت من جمع شوند بدرجه
هیچ پیغمبری نرسند پیغامبر فرمود صلی الله علیه وسلم که بزرگی عالم بر عابد چنانست که بزرگی من بر کمترین امتان من پیغامبر
فرمود صلی الله علیه وسلم هر شب که او را علم فقه نباشد لاشه مانند که بر دنیا میگردد و علما گفته اند هر که بی علم زهد کند در
در آخر دیوانه شود یا کافر میرد نعوذ بالله منها پیغمبر فرمود صلی الله علیه وسلم نظر بروی عالم عبادت است پس معلوم
شد که عالم بزرگ است از عابد که او را علم نباشد پس امامت عالم اولی باشد از امامت عابد انتهی کذا فی جمع خانی ورق ۲۲۳
قلمی ۔۔ وعن انس بن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان مثل العلماء فی الارض
کمثل النجوم تهتدی بها فی ظلمات البر والبحر فاذا انطمست النجوم اوشک ان تضل الهداة رواه الامام احمد

ومن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال عليه السلام تعلموا العلم فان تعليمه حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لاهله قربة لانه معالم الحلال والحرام انتهى كذا في فيض الصمداني على الكيدانى ورق ٣٠ قلمي حديثان ان لم يكن العلماء اولياء الله فليس لله ولي قال ابو حنيفة والشافعي قد قيل من اطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب قبل الموت وقال بعضهم غيبة العلماء كبيرة وقيل لحم العلماء سم قاطع انتهى كذا في الموضوعات الكبير لمولانا علي رحمه الباري ورد في شرح الشفاء لمولانا علي القاري رحمه الله تعالى في جلد الثاني ان طلب العلم وتعلمه وتدريسه وتصنيفه اذا كان خالصا في طريقة افضل من كثرة الطواف بل كمل من قصد العمرة فانه نفع بالقربات وارتفع بالجزمات ما فهمه من ظاهر من اطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله انتهى وچون از كسى بعد از يك صحيفه نوشته باشد ثواب بجز الله تعالى كسى نمى دهد وكتاب نيز از قبيل در معروف است انتهى كذا في ارشاد الطالبين



مواهير اجل العلماء الكبار العظام ومفاتي الاسلام صاحب التدريس جميع العلوم العقلية والنقلية والفنون وصاحب مقام والراسخون في المذهب اهل السنة والجماعت مميزون وفيصلون بين الحق والباطل وفرق بين الغش والسمين رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين

مهر وتحرير اعلم العلماء العظام والفضلاء الكرام المدرس في جميع العلوم والاحكام مفتي الاسلام في بلدة حيدرآباد نظام حرسها الله تعالى الى يوم القيام ما دامت السموات والايام لا شك في ان استخفاف العالم العلوم الدينية لعلمه كفر لانه في الحقيقة استخفاف للعلوم المذكورة ولا ارتياب في كفر مستخفها حرره محمد لطف الله عفا الله عنه حنفي المذهب حيدرآباد

١٢ جمادى الآخر سنة ١٣١٢

دستخط جامع المعقول والمنقول حاوي الفروع والاصول المدرس في المدرسة المحمدية بمبئي صانها الله تعالى عن الشر والغي عليه الرحمة روايات الجواب مطابقة للكتاب حرره الفقير محمد عبيد الله عفي عنه مولاه رحمة الله عليه حنفي

علامت دستخط عالي باعمل حافظ بيت المال بمبئي الله الامر كذلك وانا شاهد على ذلك حرره الفقير محمد عبد الغفور عفي عنه حنفي المذهب القادري مشرب دام عزه الرب

ما اجاب به المجيب فوفيه مصيب نمقه الفقير الحقير المعروف بمحمد سكندر عفي عنه حنفي مذهب نقشبندي چشتي مشرب

المجيب مصيب حرره الفقير الى الله الصمد شير احمد عفا الله عنه وعن والديه حنفي مذهب النقشبندي مشرب بشاوري

قد اجاد المجيب في الجواب وهو الحق والصواب لان استخفاف العالم لعلمه كفر اتفاقي بلا خلاف كتبه الحقير عبد الهادي عفا الله عنه وعن الاسلاف حنفي المذهب والنقشبندي مشرب

من اجاب فقد اصاب كتبه محمد طاهر عفي عنه وعن والديه حنفي المذهب

والقادری مشرب

المجیب مصیب وله اجر جزیل ومن خالف فیه فقد ضل وغوی وبعد عن طریق الحق والهدی لاحقر العباد حسن بن نور محمد عفا الله عنهما

استخفاف العالم کفر حرره فقیر محمد عمر حنفی القادری الدهلوی عفی عنه

المجیب مصیب حرره خادم الشریعة والطریقة القادریه المجودیة الفقیر الی الله عز شانه

حمد الله کمال الدین الحنفی القادری المجودی البشاوری عفی عنه



المجیب مصیب کتبه خادم الطلبة القاضی اسمٰعیل البمبی عفا الله عنه وعن والدیه وعن سائر المسلمین

من اجاب فقد اصاب حرره العبد المسکین محمد زاده صالح الدین من اکابر شیخ صاحب تودیر شریف

الامر کما ذکر کتبه خادم الشرع القاضی اسمٰعیل الجیل وی الشافعی



روایات الکتب المکتوبة فی الجواب صحیحة لا شک فیها حرره المحمود بن حافظ اسمٰعیل کان الله له

مواہیر علمائے السادات الکرام والمشائخین العظام صاحب الارشاد والسداد حرسها الله تعالیٰ الی یوم التناد

مہر و تحریر عالم المحقق والفاضل المدقق قدوة السالکین عمدة الکاملین مولینا الشیخ السید محمد صالح نقیب زاده رحمة الله علیه

دستخط جناب مستطاب عالم محقق کامل مدقق قدوة السالکین صاحب الارشاد والسداد حضرت شاہ غلام فاروق صاحب سرہندی مجددی معصومی نقشبندی

من اجاب فقد اصاب لا حاجة الی التفصیل حرره الفقیر السید محمد صالح القادری الجیلانی العراقی البغدادی الحنبلی تقدمنا الی الحرم سنه تعلیقه من شوال یوم

السید محمد صالح القادری

آنچه جناب مولوی صاحب نوشته و تحریر نموده صحیح است حرره و نقشبندی غلام فاروق مجددی سرہندی عفی عنه از جانب و حسینی اند دامم عزه

جواب المجیب حق کتبه سید ابوبکر البخاری نسبا والپشاوری مولدا الحنفی مذهبا قادری مشربا عفی عنه

ما اجاب المجیب فهو مصیب حرره افقر الوری خادم الفقراء السید عبد الجبار القادری الحنفی الگیلانی نشئی التاریخ ذیقعدة الحرام

سید عبد الجبار القادری

الجواب صحیح والرای نجیح العبد المذنب السید عبد الله المرکی عفی عنه

آنچه جناب مولوی صاحب تحریر نموده اند صحیح است حرره السید القاضی سید صدیق القادری الحنفی البروی ملازم دار السلطنة کابل

ما اجاب المجیب عبارات الکتب فهو صحیح کتبه غلام علی ابن سید سلطان میان مرحوم عفی عنه ساکن منگلور کاتیاوار

ماقال المحقق فهو صحیح حرره السید عبد الرحیم بن ابا میان عفا الله عنهما

هکذا الحق الثابت عندنا حرره المذنب الراجی الی رحمة ربه القوی سید محبوب حسن سهارنپوری تجاوز الله عن سیاته الخفی والجلی



جمله مواہیر ۲۵ عدد

المجیب مصیب لا ریب فیه کتبه محمد بدر الدین بن امیر الدین القادری

تحریر حضرت مفتی ... مطالعه نمودم همه موافق مذاق محققین یافتم ... در حمایت عمائد ... خریت ... حقیقت ... کتبه المسکین محمد اکرام الدین البخاری واعظ اسلام

اسم تعداد	اسم کنیت	اسم مخصد	اسم لقب	یوم ولادت	تاریخ ماہ	اسم مادر	بنت فلان
۱	عزت الثقلین ابو محمد	شیخ سید عبد القادر	محی الدین	پنجشنبہ	غرہ رمضان المبارک	فاطمہ امۃ الجبار	سید عبد اللہ صومعی
۲	ابو صالح	سید موسی	جنگی دوست	چہارشنبہ	۱۵ شعبان	عائشہ	شیخ ابو منصور شاہ شیخ جیلان
۳	ابی محمد صادق	سید عبد اللہ	الصالح	چہارشنبہ	۱۱ محرم سنہ [illegible]	حمیدہ	شیخ عقیل جیلانی
۴	ابو عیسی	سید یحیی	زاہد و تقی	شنبہ	شوال سنہ [illegible]	فاطمہ	شیخ محمد باقلانی
۵	ابی احمد تاج الدین	محمد سید	عابدین	چہارشنبہ	ربیع الآخر	حلیمہ	شیخ نجیب شبلی؟
۶	ابا بکر	سید داؤد	سراج الدین	دوشنبہ	۹ جمادی الثانی سنہ [illegible]	فاطمہ	شیخ عثمان تستری شاہ شیخ عراق
۷	ابو زکریا	سید موسی	شرف الدین	شنبہ	۱۱ ذی الحجہ الحرام	حفیظہ	شیخ ابو سعید صومعی
۸	ابو موسی	سید عبد اللہ	تاج الدین	چہارشنبہ	رمضان سنہ [illegible]	آمنہ	مامون
۹	ابو شہاب الدین	سید موسی	الجون	دوشنبہ	۹ رجب سنہ [illegible]	لبانہ	شیخ فیض اللہ شاہ شیخ موصل
۱۰	ابو محمد	سید عبد اللہ المحض	بالجلل؟	پنجشنبہ	۱۵ شعبان	فاطمہ صغری	بنت امام حسین رضی اللہ عنہا
۱۱	ابو عبد الہی؟	سید حسن مثنی	محمد ابی عبد اللہ	دوشنبہ	۲۹ رمضان	کدبانو صفورہ	[illegible] بنت زید بن خطاب؟
۱۲	ابی محمد	امام حسن السبط	تقی و طیب و سید	شنبہ	۱۵ رمضان سنہ [illegible]	بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا	حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
۱۳	ابو تراب	سیدنا علی امیر المومنین	المرتضی			فاطمہ	اسد

اسم پادشاه خصم	اسم ولادت	اسم نقش نگین	اسم سال		اسم یوم وفات و ماه	اسم سنه	اسم مدفن	اسم خادم
شاه حمزه	گیلان	شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً لله	۹۱	ل	جمعه ۱۱ ربیع الثانی	سنه ۵۶۱	بغداد شریف	
شاه محمود	گیلان جیلان	ہو الحی القیوم	۸۹	ل	جمعه ۱۲ ربیع الاول	سنه ۵۱۳	جیلان	احمد بن صالح
شاه علاء الدین	توران جیلان محله	لیعبدوا الله وما امروا الا	۴۹	ل	شنبه صفر	سنه ۴۵۳	جبل کنور	محمد ہاشم
شاه فیروز	قلینا	ہو الحی القیوم	۸۳	ل	جمعه ۲۹ رمضان	سنه ۴۵۳	جیلان	نور الحق
شاه سلیمان	تلینا	ان الله بالغ امره	۵۱	ل	جمعه ۱ رجب	سنه ۴۳۵	گیلان	محفوظ بن زکریا
شاه عزت	کیمان	ان الله علی کل شئ قدیر	۹۳	ل	پنجشنبه ۲ شعبان	سنه ۳۹۰	سمرقند	قاسم بن عمر
سبحان قلیخان	نعمان	ان رحمت الله قریب المحسنین	۹۰ ۱۰	ل ماه	جمعه ربیع الاول	سنه ۳۴۰	جیلان	عمر بن خالد
مقسط بالله	طوس	حسبی الله ونعم الوکیل	۷۰ ۹	ل ماه	شنبه جمادی الاخر	سنه ۲۹۰	نعمان	قاسم بن احمد
مامون	بدیعی	[illegible]	۹ د	ل	جمعه ۹ صفر	سنه ۲۳۴	طوس	محمد بن احمد متوکل
سلیمان	نیسان	[illegible]	۶۹	ل	شنبه ۱ محرم	سنه ۱۴۳	موصل	جعفر
امیر المومنین معاویه	شلوزان	والله بصیر بالعباد	۵۶	ل	۵ شوال روز پنجشنبه	سنه ۹۷	نیسان	احمد بن محمد
صلی الله علیه وسلم	مدینه منوره		۴۶	ل	پنجشنبه صفر	سنه ۱۱	البقیع شریف مدینه منوره	
	مکه معظمه		۶۳	ل	جمعه ۲۱ رمضان	سنه ۴۰	نجف کوفه [illegible] مدفن	

خاتمة الطبع

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوٰة والسلام علی سيد الاولين والآخرين
وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلی آله واصحابه الطيبين الطاهرين
ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة آمنين الی لقائك يا ارحم الراحمين ويا
اكرم الاكرمين فانصرنا علی الاعداء الدين قد تم هذا الكتاب الشريف اللطيف المسمی بحجة البيضا
فی رد اهل الطغی المنسوب بمناقب الغوثيه فی اثبات تحقيق وثيق وتدقيقات عميق لا
يعد ولا يحصی فی نسب الشريف حضرت غوث الاعظم وقطب الاكرم سيد السادات قطب الارض
والسموات محبوب سبحانی غوث الصمدانی والهيكل النورانی مولانا الشيخ السيد عبد القادر
جيلانی رضی الله عنه تصنيف مسكين الراجی الی رحمة رب العالمين محمد مريد محی الدين
الحنفی القادری الغفوری النقشبندی البشاوری النوشهری عفا الله عنه ولوالديه
ولجميع المومنين المسلمين خالصا لوجه الله رب العالمين ونفع المومنين ونصيحة المسلمين

فی عصر الدولة شمس فلك المجد والمعالی وبدر السماء الشرف والعوالی ومشكوة كرسی
الرفعة ومصباح مقابيس الاشعة الذی اصطكاك طنطنة قدره وفاق طماطم سلاطين
عصره الذی مركز دائرة العدل والانصاف قامع رسوم الجور والاعتساف باسط مهاد
الامن والامان ماحی اساس البغی والطغيان مصدوقة تؤتی الملك من تشاء من القديم المنان
المستنصر من النصير الملك المستعان اعنی الخاقان ابن الخاقان سراج الملة والدين
امير المؤمنين وامام المسلمين الامير المنير امير حبيب الله خان بهادر سلطان خلد الله
المستعان ما دامة الشريعة فی تائيد الرحمن لا زالة الايام مضيئة بشمس علاه والليالی منيرة
ببدر جلاه اللهم انصره وانصر عساكره وكن اللهم مؤيده وحافظه وناصره اللهم
متع المسلمين بطول حياته وضاعف ثواب جميله وحسناته آمين يا رب العالمين.

بحرمت سید الاولین والآخرین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فی بلدۃ معمورۃ بمبئی حرسہا اللہ تعالی من الآفات والغی فی التاریخ ۱۲ جمادی الاول کرم اللہ عز وجل سنہ ۱۳۲۰

ہو بہ مقدسہ فی المطبع شہابی

تقریظ تاریخ منظوم طبع کتاب مستطاب حجۃ البیضا فی رد اہل الطغی از نتائج طبع اصحاب میر فکرت و فطانت عمدۂ ارباب فصاحت و بلاغت محبوب و پسندیدۂ روشن ضمیر صاحب عقل و فکر عظیم و طبع کریم عزت و صداقت نشان سعادت و شرافت بنیان کرمی عالی حضرت میرزا فضل احمد خان صاحب سلمہ اللہ الملک الوہاب بحرمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآل اثاقب صدیقی حنفی نقشبندی معصومی کابلی دام عزہم و اقبالہم ملازم دولت خداداد افغانستان صانہا اللہ تعالی عن جوائح الزمان بحرمۃ النبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین

مرحبا زین گلشن سرسبز گلزار نعیم — حبذا زین تحفۂ انوار دیوان قدیم
حجۃ البیضا برد اہل طغیان و ہوا — کرد تالیف انتخاب منظر خلق عمیم
حامی دین متین ہم جابر شرع مبین — مہبط علم لدنی مصدر طبع سلیم
در شریعت پیشوا و در طریقت مقتدا — در حقیقت رہنما با معرفت دایم ندیم
گوہر درج شرافت اختر برج کمال — ارفع اعلام دین و صاحب خلق عظیم
از محمد یافت بر سر تاج عزت زان شدہ — عالم و فاضل محی الدین مرید خوش رقیم
شکر للہ بر کنار آورد آن غواص سعف — از تگ دریای عرفان بی بہا دُر یتیم
زینت افزا از پی تحسینش ہمچو اند ملک — آیۂ رحمت چو بسم اللہ الرحمن الرحیم
زیبد از حق اینچنین گوہر نگردش گاہ جان — یا کہ در گنجینۂ سلطان جمجاہ کریم
سرور گردن کشان شاہنشہ گیتی ستان — خسرو افغانستان کی جاکرو کسری ندیم
آنکہ می نازد بدو دولت چو بر حاتم کرم — آنکہ می لرزد از و دشمن چو کاکل از نسیم
شاہ والا جاہ حبیب اللہ خان دادگر — آنکہ شیر از ہیبتش جان سیکند خالی ز بیم
یا الٰہی تا بود روز و شب نور و ظلم — صد یکدیگر بود شاہی مراد را مستقیم

گلشن اقبال و عمر سبز و دائما سیراب باد … گردن گردن کشان از ضرب شمشیرش دو نیم
بہر تاریخش خرد گفت از سر بر کشش تیغ … دیدۂ نخوت بجایش حجة البیضا رقیم

قطعۂ تاریخ تصنیف لطیف کتاب مستطاب حجة البیضا فی رد اہل الطغا جناب تذکرة العلما و الراسخین قدوة السالکین مولینا مولوی شیخ محمد مرید محی الدین صاحب الحنفی القادری الغفوری ثم النقشبندی الپشاوری النوشہری مدظلہ العالی چونکہ کتاب حجة البیضا فی رد اہل الطغی مرکب از دو جملہ بود از انجملہ جملہ اولی در تاریخ تصنیف کتاب ایراد یافت وجملہ اخری در تاریخ طبع کار آمد طبعزاد احقر العباد حاجی زین العابدین پشاوری متخلص بعابد حال وارد بمبئی ہنگام سفر حرمین الشریفین ١٢ شہر شوال ختم بالخیر والاقبال سنہ ١٣١٢ھ

عجائب حجت بیضا نوشتہ عالم یکتا … مرید محی دین آن فاضل بی مثل و بی ہمتا
عجب نادر کتاب لاجواب ست اینکہ می بینم … سراسر تحقیش بیضا سراپا دعویش غرا
پی اہل الطغا ردی دروی جا بجا مرقوم … بتوضیح فراوان دلکشا چون لؤلؤی لالا
عجائب حجت بیضا ست عابد زان بحسن فال … رقم زد سال تصنیفش عجائب حجت بیضا

قطعۂ تاریخ اول طبع کتاب حجة البیضا فی رد اہل الطغی از نتائج طبع سلیم زبدة المبین جناب میرزا زین العابدین غفر اللہ لہ العالمین

چو مطبوع شد این کتاب عجیب … کہ در لفظ و معنی ہست بس دلکشا
حروفش بقرطاس کافور فام … چو سنبل ببرگ سمن مشکسا
ہمہ حجت اوست بیضا چو خور … وزو رد اہل الطغا مدعا
بتاریخ طبعش از ان عابدا … نوشتم کہ رد لاہل الطغا

تقاریظ و تواریخ از اتمام طبع کتاب مستطاب حجة البیضا فی رد اہل الطغی از اوطان و بلدان رسیدہ از نتائج طبائع علمای عظام و سادات کرام و مشائخ فخام سلمہم اللہ تعالی الی یوم القیام شکریہ حضرت بابرکات ذوی السعادات والکرامات تعالی درجات بہیچ نوع بلسان و قلم بیان ادا کردہ نمیتوانم مگر بجای خیریت عزت دارین باعزاز تام و اکرام مالا کلام مسرور و ممنون داراد وانہ رؤف بالعباد بحرمة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الامجاد الی یوم التناد

تقریظ اول بغداد شریف دار السلام از جناب ولایت مآب سلالة السادات الکرام عمدة النجبا العظام معظمنا و مکرمنا

الشيخ السيد حامد القادري نقيب زاده ابن مولينا و معظمنا و مكرمنا الشيخ السيد محمد صالح نقيب زاده عليه الرحمة رسيدست

السلام التام والثنا المستدام بمزيد المودة والاكرام الى المحب الاشيم والمخلص الصدوق الاجل الاكرم خليفة المولوي محمد مريد محي الدين القادري المحترم سلمه الله تعالى من كل الم بحرمة سيد العرب والعجم صلى الله عليه وآله وسلم آنكه عند السلام السؤال عن خاطركم العاطر وعنا بفضله تعالى وبركة الاجداد لم نزل بخير و عافية ولا نزال ندعو الله لكم وللمسلمين في الاوقات المختصة بقبر جدنا ومولينا قطب الاقطاب الغوث الرباني قدس الله سره النوراني بالخير والسرور واسئله تعالى بجاهه ان يوفقنا واياكم للخير ولما يحبه ويرضاه آمين ثم الباعث التحرير كتاب المودة والدعا هو بينا نحن نترقب اخبار سلامتكم والجميع من الاحباب اذ وصل الينا كتابكم المؤرخ ٢٥ من شهر شوال المكرم فقرائناه مسرورين لما طرق سمعنا منه مندرج فيه بخبر سروركم وهو طبع الاجزا من حجة البيضاو ارسالكم مقدارا من الاجزاء لاستانبول بمعرفة عمنا السيد محمد سيف الدين افندي والى جناب مفتي الاسلام بجاه السيد مكرم افندي فصرنا مسرورين بذلك منكم شكر الله سعيكم والاجزاء التي ارسلتها الناقصة اجزا بيد سيد ميان شاه افغاني وصلتنا منه فاطلعنا عليها فوجدناها مملوة بالعبارات الرائقة المشتملة بالرد على المنكرين اللئام على نسب غوث الانام واثبات ذلك بالاسانيد من كتب الائمة الاعلام فلله دره من كتاب جاز صحة هذا النسب الشريف وانهد كيد الحاسد الكسيف فجزاكم الله تعالى خير الجزاء وثبتكم بالقول الثابت في الحيوة الدنيا والآخرة وما عرفتم من انكم ارسلتم من مطبوع كتاب حجة البيضا الى جناب نقيب الاشراف سيد عبد الرحمن افندي وتسئلون انه وصل له ام لا وصل اليه وكتبه صار محظوظا من همتكم ودعا لكم قلنا له يكتب لكم جواب فقال لي اكتب الى المولوي محمد مريد محي الدين السلام مني وان شاء الله اكتب له جواب فعادا اي وقت صار يكتب ان شاء الله تعالى ويهديهم جزيل الدعاء والسلام عليكم وعلى جميع من سئل عنا من المريدين المحبين فعندهم جزيل الدعاء والسلام ٩ ذي قعد سنة ١٣١٢

الداعي گيلاني زاده خادم سجاده جدي السيد محمد حامد القادري خلف الرشيد پير السيد محمد صالح عليه الرحمة نقيب زاده

السيد حامد القادري ١٣١٩

تقريظ الثاني من بلدة استانبول وصل لي كتاب من جناب سلالة السادات الكرام عمدة النجباء العظام قدوة السالكين مولينا سيد سيف الدين افندي سلمكم الله تعالى ابن مفتي الاسلام سيد محمد مرتضى افندي سلمهما الله تعالى اصل مكتوب حضرت السادات صاحب

الکامل الشیخ محمد مرید محی الدین صاحب الحنفی القادری الغوثی الپشاوری سلمه الله تعالی آمین

من بعد السلام والتحیة والاکرام معلوم جناب آنست که خیلی مدتی است از سوی حضرت نامه محبت شما صادر و اصل نشده است انشاء الله تعالی مانع آن بخیر باشد و عدم جوابهای ما سبب این است که شما هنوز در بمبئی یا دیگر جا عزیمت کرده اید بهذا متحیر و منتظر اخبار شما هستم و درین روزها چند اجزا از کتاب شما که نام حجة البیضا از پوست رسیده است اگرچه موجب مسرت خاطر عاجزی شد لکن کتاب مرسول از صفحه ... تا صفحه ... ناقص است و از صفحه ... تا صفحه ۲۰۱ ... بما رسیده است تا هنا تفتیش کم است تعجب کردم که چرا یک نسخه کامل ارسال نفرمودید بعد ازان پیچ رسیده است معلوم جناب باشد لکن بعد ازین پیوسته مثل کتاب کشاده از کتاب حجة البیضا روانه کنید که مخالفان از پیوسته اورا بگیرند بنا برین سابق احتیاطا برسد و حجة البیضا اعلی حسب العادة روانه بکنید و دعا و سلام علی کل من قبل جناب الکرم و دستم سالمین آمین بجاه سید المرسلین صلی الله علیه وسلم و بجاه حضرت سلطان الاولیا رضی الله عنه و السلام الداعی گیلانی زاده السید سیف الدین عبد الحسنی عفا الله عنه **تقریظ ثالث** از رانی پور ضلع خیرپور ملک سنده حیدرآباد از جناب مستطاب سلالة الساوات الکرام عمدة النجبا والفضلا العظام مولانا پیر کریم سید غلام محی الدین شاه صاحب الحسنی الحسینی القادری الجیلانی البغدادی الرانی پوری رئیس اعظم رانی پور شریف۔ اصل مکتوب جامع العلوم منبع الفهوم محب جانی ان فطری معتمد بارگاه غوثیه محقق عدیم العدیل و مدقق فاقد المثیل زبدة العلماء عمدة الفضلاء مولوی معنوی مولوی صاحب محمد مرید محی الدین بسط الله ظله الی یوم الدین بعد دعوات وافیات و تحیات زاکیات سنت حضرت سرور کائنات علیه افضل الصلوة مرتفع خاطر عاطر گرامی باد مصارف حالات این نواحی بفضل و کرم حضرت الهی مستوجب حمد و شکر نامتناهی و مژده تندرستی مزاج عافیت امتزاج آن اعلم علما پیوسته مطلوب و مرغوب ما بود الحمد عاشیقه انیقه فرحت سلیقه در ورود سعادت آمود نمود بغایت خرم و خوشنود فرمود که کتاب حجة البیضا فی رد اهل الطغی که از نتایج طبع گرامی است قبل ازین رسیده بمطالعه در آمده بود والحق که عجب تصرفی بکار برده در یا بکوزه آورده شکر این محنت ملازم لسان ما افسرده شود مگر او تعالی مالک خزائن السموات والارضین از الطاف غیبی و اعطاف لاریبی خورسندی ایشان مشکور و جهد ما جور خواهد ساخت و خود جناب قطب الاقطاب باز الله الاشهب قدس سره العزیز متوجه انجاح حاجات و اتمام مرادات آن ستوده صفات خواهند شد یقین کامل است که ان الله لا یضیع اجر المحسنین زیاده خیر و السلام تحریر بتاریخ ۲۶ ماه ربیع الاول ۱۳۱۲ چه خوش گفت ... غلام محی الدین

تقریظ چهارم از مکان لواری شریف واقع سنده حیدرآباد صانها الله تعالی عن البلیات والفساد الی یوم التناد رسیده تقریظ و تاریخ اتمام طبع کتاب مستطاب حجة البیضا فی رد اهل الطغی از نتایج طبع سلیم و فکر عظیم جامع العلوم والفهوم جناب مستطاب ولایت مآب معلی القاب قطب المشایخ والاحباب قیوم زمان و قطب دوران لاثانی له فی الاعصار والاقران شیخ الاسلام والمسلمین قدوة السالکین عمدة الفاضلین زبدة العارفین المتمسک بحبل الله المتین عالم عارف کامل و فاضل صوفی مکمل متشرع بی بدل والا مناقب حضرت شیخ مولانا الحاج میان خواجه محمد سعید صاحب اعلی مراتب

صدیقی علیفوری نقشبندی مجددی زادہم اللہ تعالی فیضاتہم وبرکاتہم واشفاقہم وعنایاتہم والطافہم ابن قطب الاقطاب
فرد الاحباب صاحب الفیوضات والکرامات عامل العزائم والسنن مولانا خواجہ محمد حسن مہاجر مدینہ منورہ علیہ الرحمہ قدس اللہ
سرہ العزیز ابن غیاث الاسلام والمسلمین منبع الفیوض والاحسان حضرت خواجہ محمد زمان علیہ الرحمۃ والرضوان ابن
حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سالک مکرم مجید مولانا خواجہ گل محمد غفرہ اللہ الصمد قدس اللہ سرہ العزیز ابن ولی کامل
مکمل غوث زمان حضرت میان خواجہ محمد زمان علیہ الرحمہ والرضوان بانی قلعہ مکان لواری شریف کہ جناب ایشان صاحب
حالات سنیہ ومقامات رفیعہ وخوارقات صادقہ وفیوضات ظاہرہ باہرہ بودند حتی کہ آن فیوضات وکرامات ظاہرہ
وحالات سنیہ رفیعہ در اولاد ایشان علیہ الرحمۃ والغفران پایدار برقرار جاریست وموجودان ہر کسیکہ بلواری شریف میرود
فیضیاب وبہرہ مند شدہ می آید این حالات وفیوضات بر اطبان آن دیار سندھ حیدرآباد وکشمیر وکاٹھیاوار روشن
وہویداست مانند خورشید تابان کہ پرتو آن ساطع است وازین فوق نسب شریف صدیقی بودن ایشان را عالم محقق و
سالک مدقق عمدۂ سادات کرام محرم اسرار خفی وجلی سید رفیق علی حسینی چشتی گشتی ساکن قریہ تریہ علیہ الرحمہ در کتاب
خود مسمی بہ بطیلۃ التحقیق فی تعریف نسب الصدیق رضی اللہ عنہ بیان کردہ وثابت نمودہ وآن کتاب را بچشم خود دیدہ ام
وخواندہ ام وازان تحریر تسلیم کتاب کہنہ کرم خوردہ موجود است در لواری ہر کس را شک وشبہہ بودہ باشد ومآخذ رفتہ
ملاحظہ نماید در رفع شکوک وشبہہ خواہد شد واین است عبارت آن حضرت خواجہ محمد زمان قدس سرہ موصوف ومذکور
ابن حضرت میان خواجہ حاجی عبد اللطیف قدس سرہ ابن خواجہ شیخ طیب ابن خواجہ شیخ ابراہیم ابن خواجہ شیخ عبد الرحمن
ابن خواجہ شیخ عبد اللطیف ابن خواجہ شیخ احمد ابن خواجہ شیخ لقا ابن خواجہ شیخ محمد ابن خواجہ شیخ نصر اللہ ابن خواجہ
شیخ عابد ابن خواجہ شیخ عبد اللہ ابن خواجہ شیخ طاؤس ابن خواجہ شیخ علی ابن خواجہ شیخ مصطفی ابن خواجہ شیخ مالک
ابن خواجہ شیخ محمد ابن خواجہ شیخ ابو الحسن ابن خواجہ شیخ محمد ابن خواجہ شیخ یحیی ابن خواجہ شیخ عبد الباری ابن خواجہ شیخ
ابن خواجہ شیخ علی ابن خواجہ شیخ اسحاق ابن خواجہ شیخ ابراہیم ابن خواجہ شیخ قایم ابن خواجہ شیخ عتیق ابن خواجہ
شیخ محمد ابن خواجہ شیخ عبد الرحمن بن امیر المومنین وامام الاصدقین سیدنا عبد اللہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وعنہم
اجمعین انتہی۔ اصل مکتوب کہ ظاہر است بر تقریظ حجۃ البیضا۔ تسلیمات سنیات بر انجمن برجیس فلک تدریس عطارد
سہام تاخیس شمس بروج فتوا بدر شریعت بیضا مریخ قاتل اعداء دین قصاد جلاد متمردین زہرہ محفل آرائے اسلام
پیشوای فقہ وکلام محی دین متین ذکرہ تیم مولوی محمد مرید محی الدین متع اللہ المسلمین میرساند کہ صبا دراقام بسرزنا
می نماید وبمہام مرام می پردازد چند اجزاء کتاب مستطاب حجۃ البیضا در رد اہل الطغی از نظر گذشت فلا سیما کہ در مناقب
ونسب منیف حضرت قطب الحزم غوث اعظم دارا ولاد وقدم جناب سر طلسم شیخ جیلانی قدس سرہ است بسیار پسندیدہ و
بچشم عبرت دیدہ برای منکر التمس شوکا من نار ونحاس فلا تنتصران فہمیدہ وبرای دوستان لمن خاف

مقام وبه جنتان ذواتا افنان گزید وفیهما عینان تجریان روفیهما من کل فاکهة زوجان سبحان مش
چه کتابی ست که انید بیضای موسوی ضیای دار دوریا از دم مسیحا نفسی که اسرار ربانیش فیهما فاکهة والنخل
ذات الاکمام والحب ذوالعصف والریحان وانوار معانیش فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن
انس قبلهم ولا جان وهر فصلش مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان وهر کلامش یخرج منهما
اللؤلؤ والمرجان وهر نقطه آن نکته کانهن الیاقوت والمرجان ونوک نوک پیچ وخم حروفش مار هامش و
درشان ذیشان جامع ومؤلف گویا خلق الانسان علمه البیان صادق ور ارتباط وانضمام تالیفش نمونه شان
وضع المیزان واثق وتصحیح تقاریظ حضرات علما بر آن انموذج حور مقصورات فی الخیام قلوب دینیات
صالحه بینندگان مبشرة به فیهن خیرات حسان ومعتقدان اکابران اولیا مذکوره کتاب متکئین علی
فرش بطائنها من استبرق وجنا الجنتین دان یا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان
فبای آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام زاده الله مناوسلم ایانا وکنتم
٢٠ شعبان ١٣١٨ھ عبد محمد سعید قطعة تاریخ سیوم اختتام طبع کتاب مستطاب حجة البیضا از نتایج طبع سلیم وفکر
عظیم جامع العلوم والفهوم صاحب الارشاد والسداد خواجه صاحب موصوف سلمه الله تعالی الی یوم التناد وانه راوف بالعباد
قمر الدین حجة الیقین پیشوای فقها مسند اصفیا صافی نهاد صوفی اعتقاد مقتبس طریقت مروج شریعت عمده محققین
صفوه مدققین مولوی حاجی محمد مرید محی الدین متع الله به المسلمین آمین مفاوضه اخلاص افاضه شما اسم مولوی مفتی
محمد علی رسید از انجا که انده فرصت بر کشودن نامه اوبدو کشاد حقایق آن اسرار وداد در رواد تاریخ حجة البیضا ملفوف
است حسب استرضای آن امام الصفیا باشد مرغوب آید زیاده توفیق رفیق ما وشما باد از دعوات صالحات فراموشی نفرمایند
والسلام اولا وآخرا ظاهرا وباطنا ٢٩ ذی حجة الحرام ١٣١٩ھ — قطعه تاریخ اتمام حجة البیضا که مطبوع شده در ١٣٢٠

حجة البیضا کتاب مستطاب با صواب | در ثنای غوث اعظم قطب عالی ذی لباب
شیخ عبد القادر جیلان که شد حل جهان | مستمد بارگاهش واز جنابش فیضیاب
عالم دین عارف حق نام محی الدین مرید | کرد طبع وداد عالم را بدایات عجاب
خواست از من سال تاریخش باخلاص وداد | تاکه اندر اجر مانم در ثنای آن جناب
دل سعید از بهر سالش باز پرسید از سروش | بی بدیل وحجة البیضا آمد در جواب

ایضاً در صنعت توشیح وقصیده طبع زاد ایشان سلمه

م مخزن اسرار علوم علیم | ا | م معدن انوار صفات قدیم

در مصرعه اول اسم محمد محی الدین آمده و در مصرعه ثانی اسم محمد سعید علی بن ...

ح	حامد و محمود بذکر خدا	۲
م	ماحی سر بدع ز شرع نبی	۳
و	واده ره ابسیر طالبان	۴
م	مخلص ہر صاف دل و نیک خو	۵
ر	رشک فزا ادب عالمان	۶
ی	یافت ز قرآن فہم رمز را	۷
و	دولت اقتدار بحکمش روان	۸
م	مصدر افضال زہی صوفیان	۹
ح	حاجی عرفات بعرفان جان	۱۰
ی	یوز دل بیشہ فتوای دہی	۱۱
ا	اسعد دوران وحید زمان	۱۲
ل	لطمہ زن مدعی لاف زن	۱۳
و	دست فگن حبل متین ہدا	۱۴
ی	یافت کس از صحبت او فیضہا	۱۵
ن	نامی نامش بود احیاء دین	۱۶
	ہدیہ تسلیم و دعا و صفا	

ح	حامی احکام رسول کریم	۲
م	مورد الطاف رؤف رحیم	۳
د	دائم در ذکر خدا مستقیم	۴
ص	سفرۂ اسلام کشادہ عمیم	۵
ع	علم کشا و طبع بہر حلیم	۶
ی	یاری بخشید بہ لقمان عظیم	۷
و	وہر جبین گرد بمہرش وسیم	۸
و	ورد نما جہر و خفی مستدیم	۹
ط	طوطی طیبہ بشریعت کلیم	۱۰
ان	شیخ نگن در مذہب ہا رسقیم	۱۱
ل	لال زبان پیشش کام لئیم	۱۲
و	وافی اخلاص بجان سلیم	۱۳
ا	افسر اعداء بفرقش مقیم	۱۴
ر	رخت نہد روضۂ دارالنعیم	۱۵
ی	یاور از غوث جہان شد صمیم	۱۶
	پیش کشش باد بسلک نظیم	

ایضاً تقریظ بتخم از نتایج عقل عظیم و طبع سلیم جامع العلوم منبع الفہوم حضرت قیوم زمان و قطب دوران مولینا و معظمنا حضرت خواجہ صاحب اعلی مراتب زادہم اللہ تعالی فیوضاتہم و برکاتہم و کراماتہم رسیدہ است از تواریخ حرسہا اللہ الباری در ثبوت نسب شریف سیادت حضرت غوث الثقلین کریم الطرفین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اصل مکتوب شریف کہ مشتمل بر ثبوت نسب شریف و تقریظ مشعر است این ست عبارت آن باسمہ عز شانہ

قرۃ العلماء حجۃ الفقہاء طرۂ عمامۂ دین متین طراز آستین فضل و یقین مولوی محمد مرید محی الدین متع اللہ بہ المسلمین آمین التسلیم واجب التقدیم نوشتہ اند کہ امام شافعی کہ نسبت فقیر میگوید کہ حضرت غوث اعظم را قدس سرہ شیخ عبد القادر نوشتہ اند و نہ سید عبد القادر را از این کلامش تعجب بر تعجب افزود سبحان اللہ فقیر کہ کتاب حجۃ البیضا را می ستاید و صواب میداند برای اثبات نسب شریف سیادت حضرت غوث قدس سرہ می ستاید و چندین اکابران اولیای گذشتہ کہ بہ قبہ جان خود رشتہ عقیدت انداختہ اند محض برعایت شرافت نسبت صوری و معنوی اوست قدس سرہ حضرت خواجہ قبلای

[illegible]

قدس سرہ ہست بدری و سید شریف آنچہ با دب کامل میرود وہم انحا سیت نسب نسبت او صاحب قدس سرہ و وستاد و نسب او ای
شکی و تردوی آوردن خلاف اہلسنت جماعت گشتن ہست ومن خالفہم فقد ہلک سندی وعضدی شیخ عبد الرحیم کرہوری قدس سرہ
در شرح ابیات حضرت غوث الاقدس سرہ سید السادات می نگارد فلا اعتبار علی جاہل الابجد والسلام علیکم وعلی من لدیکم من الاقوی
وحبائکم وتسلیم علیکم وعلی عیالکم اولادی واخی فقط ۸ صفر [illegible] (محمد عارف علیہ) **تقریظ ششم** از جناب فیضاب جامع المعقول
والمنقول حاوی الفروع والاصول سالک مسالک قدوة المحققین حاجی خلیفہ محمد عارف صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ از مکان لواری شریف
باعث تحریر آنکہ کتاب حجة البیضا از تصنیف حضرت فخر العلماء رجة الفقہاء مولوی محمد مرید محی الدین صاحب اسم مؤلفہ از نظر گذشتہ در
اثبات نسب سیادت نبوی و نقابت آل مصطفوی نسبت بغوث اعظم قطب افخم سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ دلائل وعید بلیغ
بسبیل صریح کردہ ست آفرین صد آفرین بر جان او * بکمال محنت و ایقان او * آری در سیادت نسب شریف حضرت غوث قدس سرہ
شکی نماند مگر حاسد را و از آفتاب بہرہ نباشد شب پرہ را * گر نہ بیند بروز شبپرہ چشم * چشمۂ آفتاب را چہ گناہ بعد این تحقیق دقیق و
تدقیق عمیق مولوی صاحب فرمودہ ہنوز تشکیک را راہ دادن خوف سوء خاتمہ وارد لانہ من قطر کا طلابحمد سارت خاتمۃ تمامی
اکابران اہلسنت وجماعت و بسیاری اکابران طریقہ حنفی بر سیادت شرافت نسب حضرت غوث قدس سرہ اند و مخالف ایشان
مخالف کلام نبوی ہست علی صاحبہا الصلوٰة والسلام علیکم بالسواد الاعظم اگرچہ ہیچ مومن سنی اہلسنت وجماعت را تردید تحیلی در نسب
شریف شرافت و سیادت غوث اعظم قدس سرہ اصلا نبودہ ہست لیکن بتازہ گی کتاب حجة البیضا از ہم چشم حاسدان کشودہ ست
الحسد حسک من تعلق بہ ہلک * قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد * وینکر الفم طعم الماء من سقم الیہ والفضل نسب نبوی سید عبد القادر
جیلی قدس سرہ در خور ظہور این کتاب حجة البیضا کرامتی ہست ظاہر و خارقی ہست باہر من لم یؤمن بخوارق الاولیاء تہو جاہل جاہل
مسلمانان اہلسنت وجماعت را در نظر فقیر لازم ہست کہ ازین کتاب استفاضہ نمایند و بہرہ گیرند و دلائل صحیحہ و صریحہ آنرا سبب تقویت
ایمان خود قصور کنند تا از ہوا جس ظلمانی و نزعات شیطانی نجات یابند ست ای بسا ابلیس آدم روی ہست * پس بہر دستی نشاید
داد دست * اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا . والسلام ۶ صفر ۱۳۳۲ھ
بندہ محمد عارف از مکان لواری شریف **تقریظ ہفتم** از مکان لواری شریف واقعہ سندھ حیدرآباد از جناب فضائل
مآب جامع المعقول والمنقول حاوی الفروع والاصول صاحب اسرار خفی وجلی مولانا مولوی مفتی محمد علی سنگلوی سلمہ اللہ الغنی
زاد الطافہ واشفاقہ وعنایاتہ ہو اللہ تعالیٰ شانہ ـ الحمد للہ وحدہ والصلوٰة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی من
تبعہ اما بعد کتاب مستطاب حجة البیضا فی رد اہل الطغی از تصنیف عالم تحریر بنظیر فارس میدان مرغزار تقریر جامع شریعت و طریقت
عارف ملت وحقیقت جناب مستطاب زبدة المحققین افضل الحاج مولوی میان حاجی شیخ محمد مرید محی الدین صاحب حنفی
قادری عفوری ادام اللہ برکاتہ در بیان احوال شمس فلک ارشاد بدر برج طریقت وسید امام الواصلین وارث علوم الانبیاء
والمرسلین قطب الاقطاب غوث الاعظم حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ ست گوہر درج مصطفیٰ سرورے

سروی از باغ مرتضیٰ ٭ سرو فتر ہر اولیا سلطان عبد القادر ہست ٭ از عطا بحر شاہان جہان مشکل کشا ٭ شمس الضحی بدر الدجی سلطان
عبد القادر ہست ۔ افاض اللہ علینا و علیکم و علی جمیع المستفیضین من فیض ضمائرہ و برکاتہ بطالعہ این خلوص طریقت و شریعت در آمدہ
ہزاران ہزار شکر از واحد یگانہ بجا آوردہ جنۃ قطوفہا دانیۃ لا تسمع فیہا لاغیۃ فیہا عین جاریۃ و بر بعض فضلا این طرف را
مقبول افتاد و منار اشتباہ و تقریبات فرق زائغہ بجا و بر تبیان چنان اندلہای منصفان برداشتہ کہ ہر یک انعم سپاریہ نعم ہذا
ہو الامام الذی اصطفاہ اللہ تعالیٰ بالکمالات العلمیۃ و العملیۃ و وفقہ علی مثل ہذہ التصنیفات العجیبۃ و الغریبۃ گردیدہ فللہ درکم
و علی اللہ اجرکم حیث سلکتم فی مسالک الانصاف و جانبتم عن سبیل الاعتساف و تقریر الصین الغزل حیث شیدتم مبانی تقریرہ
بالاصول و زینتم مبانی تحریرہ بالفصول عند الحری بان تکتب بماء النور علی خدود الحور فہو فوز علی نورہ حسبنا اللہ و نعم
الوکیل فی الاحل و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم و صلی اللہ علی سید المرسلین و علی آلہ و اصحابہ الراشدین اجمعین الی یوم الدین و السلام
حسن الختام کتبہ الفقیر الی اللہ الغنی محمد علی المدرس بدار الارشاد القادری حرسہا اللہ الباری **تقریظ ہشتم** و تاریخ جبارکی
از اتمام طبع حجۃ البیضا فی رد اہل الطغی از بلدہ کشمیر از نتایج طبع سلیم و فکر عظیم جناب مستطاب سلالۃ السادات الکرام عمدۃ العلماء
العظام مشفق مکرم مولانا حاجی سید قاسم الحسینی القادری کشمیری عالیکدلی ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انعم علینا
نعمۃ الایمان و العرفان و من علینا بتقربہ الیہ بواسطۃ احبائہ و اولیائہ بالجود و الاحسان و الصلوٰۃ و السلام علی رسولہ محمد سید
الخلائق من الانس و الجان و علی آلہ و اصحابہ الذین ہم نجوم الاقتداء و الاہتداء و الایقان و التابعین خصوصاً من التابعین
الامام الہمام سراج الامۃ و الدین مولینا ابی حنیفۃ النعمان رضی اللہ عنہ و من تبعہم باحسان سیما سیدنا و سندنا سید الاولیاء و
سلطان الوفاء مولینا الشیخ ابی محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی قدس سرہ النورانی رفیع الشان و بعد فان مولینا الاعظم
و اولینا الاکرم جامع المعقول و المنقول حاوی الفروع و الاصول الحبر النحریر الہمام قدوۃ العلماء الکرام رافع اعلام الشریعۃ الزاہر الامام
سلطان الافاضل برہان الطرق الی قرب اللہ تعالیٰ و الی سنۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم و قامع البدعات و الہویٰ و المبتدعین
اعنی مولوی حاجی محمد مرید محی الدین الحنفی القادری الغفوری النقشبندی حفظہ اللہ رب العالمین قد طبع کتاب حجۃ البیضاء
فی رد اہل الطغی الذی الفہ و صنفہ و جمعہ من الکتب المعتبرۃ و اقوال السلف الصالح المعتمدۃ فی ہذا الزمان و ہو کتاب لم اصدق
ہذا العصر نظیرہ و مثلہ و ما حررتہ فیہ حق و صحیح جزاہ اللہ عن خیر النوائب جزاہ اللہ فی الدارین خیرا ۔ تاریخ خاتمۃ الطبع منظوم عربی

افضل العلماء فی ہذا الزمان ؛ افقہ الفقہاء ذو عز و شان
و ہو نجم العلم فی فلک الہدیٰ ؛ صنف الحق الیقین ہدی الہدیٰ
حجۃ البیضا کتاب لا جواب ؛ صنف رد الاہل الارتیاب
قیل للتاریخ بالفہم الذکی ؛ اظہر اللہ بہا الحق یا اخی

تقریظ نہم و تاریخ پنجم از اتمام طبع حجۃ البیضاء فی رد اہل الطغی از نتایج طبع سلیم مرغوب و محبوب محب اولیاء اللہ الکاملین
جامع المعقول و المنقول قدوۃ المحققین زبدۃ المدققین مکرمی قاضی غلام محی الدین القادری سلمہ اللہ رب العالمین المتخلص بہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی میّز معالم السنة بالاضاءة والغرة المبین واثر بها الحق بالصدق الذی دعا به الدین و...
والسلام علی من اشرف ... محمد ... الناسی ... الطیبین واصحابه الطاهرین ... الاسلاف ... وامرین
اجمعین ... الشرع المتین ... جعل لهم ... یتفوّهون بعلمهم ... من السلف الراسخین ... و...
... علی الحق قائمین لا یضرهم من خذلهم من اهل الطغی المارقین والصلوة والسلام علی سید ... خیر
المخلوقین ... والہ واصحابه واولیاء امته ... اجمعین سیما سیدنا وسندنا الشیخ محی الدین ابی محمد سید عبد القادر
الحسنی ... الامین المعتمد ... بشارت باد رشاکنین ... وناظرین ... چنان باد که درین
ایام ... کتاب حجة البیضا فی رد اہل الطغی مطبوع شده الحق این کتاب بی نظیر در حقیقت لاجواب دل پذیر است
در ... وتعریفش حاجت تبیان نه که آفتاب تابان اند صفت واوصاف ... است زیرا که ...
... بیان کشوده اند و لمعات آن ... هزاران بیان ... نموده اند و ... مصنف ومؤلفه العالم
العامل والمدقق الفاضل والمحقق الکامل ناصر الاسلام والمسلمین ... المبتدعین المولوی محمد محی الدین
الحنفی القادری المنوری النقشبندی ادام الله فیوضهم ... این کتاب فیض انتساب داو مرادت داده ... و
... اہل اسلام ... و مریدان طریقه علیه عالیه قادریه خصوصاً ... جزاهم الله خیر الجزاء ورزقهم
بالحبیب ... تاریخ اختتام طبع کتاب شریف مذکور. قطعه تاریخ ...

بحمد الله کتابی گشت مطبوع	عجوبه اندرو احوال ... ممنوع	مسمی حجة البیضا چه بیضا	منور کرد ملک جان و دل را
معطر از معانی ...	ز بهر منکران زهر ...	مر اوراز طلاوت ...	سعادتهای دارین ...
ز تصنیفات و تالیفات نامی	که در علم و عمل آمد گرامی	مرید محی الدین آن خادم شرع	یگانه ...
منوری قادری حنفی خطاب است	بالاشک ... انتخاب است	تباشد ...	نه دریک ...
اعانت از جناب غوث اعظم	بود شامل ...	الٰهی بهره ور ...	ز فیض این کتاب ...
چو این مژده بگوش دل شنفتم	ز روی ... فیض گفتم	چه فیض محی الدین جاری ...	...

الراقم خادم القوم قاضی غلام محی الدین القادری الکشمیری المتخلص بقاضی سلمه الله تعالی

قطعه تاریخ طبع کتاب از قمر الدین فصاحت کاتب کتاب هذا

گشت مطبوع حجة البیضا	است لاریب معدن برکات	قمر سال طبع آن گفت	... برکات

ایضاً تاریخ اردو

... تیار ...	حجة البیضا بفضل کبریا	اسکو پڑھنے سے ...	...
... انتخاب	جسمیں ... حالات ... اولیا	... تاریخ طلق	حجة البیضا ... لکھا